

PHILIPS

Wet & Dry Vacuum

6000 & 7000 Series

XW6264, XW7263,
XW7264




English 4
Bahasa Indonesia 50
Bahasa Melayu 96
Tiếng Việt 143
ภาษาไทย 188
简体中文 238
繁體中文 286
한국어 328
العربية 372
فارسی 417

Contents

Overview	4
Introduction	5
General description	5
Before first use	5
Charging	9
Vacuuming and mopping hard floors	12
Vacuuming soft and hard floors	17
Cleaning the Vacuum & Mop set-up	23
Cleaning the Vacuum only set-up	30
Display icons and their meaning	38
Replacement	40
Troubleshooting	41

Overview



Introduction

Thanks for buying this Philips product! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/myvacuum9000s.


General description

- 1 Wall mount
- 2 Crevice nozzle
- 3 2 in 1 nozzle
- 4 Turbo button of dry vacuum
- 5 On/off button of dry vacuum
- 6 Handle & dust bucket of dry vacuum
- 7 Extended tube
- 8 Accessory storage on tube
- 9 Vacuum nozzle
- 10 Motorized turbo brush
- 11 Adapter
- 12 Power house
- 13 Intense wet mode indicator
- 14 DWT full indicator
- 15 AutoClean indicator
- 16 Battery indicator
- 17 Water absorption indicator
- 18 Nozzle stuck indicator
- 19 Error indicator
- 20 Dry turbo indicator
- 21 Handle of wet vacuum
- 22 Suction mode change button
- 23 On/off button of wet vacuum
- 24 Auto clean button
- 25 Clean water tank
- 26 Dirty water tank
- 27 AquaSpin nozzle
- 28 Cleaning 2 in 1 brush
- 29 After-Clean & Storage station
- 30 After_Clean tray
- 31 Detergent

Before first use


Assembling the After-Clean & Storage station

In order to use the AUTOCLEAN function or store and charge the appliance on the After-Clean & Storage station, you need to first assemble the station by clicking the appliance holder into the baseplate.




i Note: Make sure that the After-Clean tray is placed in the baseplate and that the temperature in the room where the appliance is stored, charged and cleaned is between 5 °C and 35 °C.

Installing wall mount



If you want to store and charge the Vacuum only set-up on the wall mount, fasten the wall mount to the wall with the screws supplied. Make sure the wall mount is 105 - 115 cm above the floor.




i Note: It is not possible to store the Vacuum & Mop set-up on the wall-mount. It is only possible to store the Vacuum only set-up on the wall mount.


i Note: Make sure that the temperature in the room where the appliance is stored or charged is between 5 °C and 35 °C.

⚠ Caution: Be careful when you drill holes in the wall to fasten the wall mount, to avoid the risk of electric shock.


Assembling the Vacuum & Mop set-up



1 To assemble the appliance, insert the handle into the main body ('click').




- 2 Insert the powerhouse in the wet module stick above the Dirty water tank (Click!).



- 3 To store the Vacuum & Mop set-up, you can place it in the After-Clean & Storage station.

Disassembling the handle

If you need to disassemble the appliance again, follow the steps below:




- 1 Insert a pin/flat screwdriver into the hole in the back of the appliance and pull up the handle.




- 2 Pull the handle out of the appliance while continuing to push the screwdriver into the hole.

i Note: Please note that a small amount of clean water residue may be present inside the nozzle and tanks. This is a result of factory quality checks. Rest assured, the device is thoroughly clean and safe for use.


Installing the Vacuum only set up




- 1** To assemble the vacuum-only set-up, slide the powerhouse in position below the handle (Click!).



- 2** Attach the hand-held with bucket to the tube (Click).



- 3** Insert the Tube into the LED nozzle.





- 4** To store your vacuum only set-up, place it in the wall mount. Slide the bucket into the wall mount for secure fit.

Removing and attaching the power house

Removing and attaching the powerhouse in Vacuum-only set-up



- 1 Press the button on the side of the handle.
- 2 While keeping the button pressed, slide out the powerhouse from the handheld.



- 3 To attach the powerhouse, simply slide it into position below the handle (click!). Make sure to align the connectors properly for a secure fit.

Removing and attaching the powerhouse in Vacuum & Mop set-up

- 1 Press the button on the side of the device.
- 2 While keeping the button pressed, slide out the powerhouse from over the dirty water tank.




- 3 To attach the powerhouse, simply slide it into position (click!). Make sure to align the connectors properly for a secure fit.

Charging


Charging for the Vacuum & Mop set-up

The appliance is equipped with a 25 V Li-Ion battery. Charging takes 4 hours.

10 English



- 1 To charge the appliance, open the sealing cap on the back of the appliance.
- 2 Insert the power plug into the socket on the back of the appliance.




- 3 Insert the adapter in the wall socket




- 4 The battery icon and circular segments will blink on screen to indicate that the appliance is charging.



- 5 When the appliance is fully charged, the battery icon and all circular segments will light up on screen. After a few minutes, the display will switch off.



- 6 Remove the power plug from the socket on the back of the appliance before using it to clean.



7 Close the sealing cap.


 **Tip:** You can charge the appliance in the After-Clean & Storage station.

 **Tip:** You can charge the appliance separately in a place that suits you best.


Charging for the Vacuum only set-up

The appliance is equipped with a 25 V Li-Ion battery. Charging takes 4 hours.


1 To charge the appliance, insert the power plug into the socket on the back of the appliance.



2 Slide the handheld with bucket into the wall mount.



3 Insert the adapter in the wall socket



4 The battery icon and circular segments will blink on screen to indicate that the appliance is charging.





- 5 When the appliance is fully charged, the battery icon and all circular segments will light up on screen. After a few minutes, the display will switch off.



- 6 Remove the power plug from the socket on the back of the appliance before using it to clean.

 **Tip:** You can charge the appliance when it is attached to the wall mount.

 **Tip:** You can charge the appliance separately in a place that suits you best.


Vacuuming and mopping hard floors

Using the appliance


The clean water tank and the dirty water tank are already attached to the appliance upon delivery. You can use the appliance to clean hard floors.

i **Note:** This appliance is suitable for vacuuming and mopping at the same time. It is not necessary to vacuum the floor before mopping.

The appliance is suitable for vacuuming and mopping all types of hard floors, except uncoated wooden floors. You can test the appliance on a small area out of direct view, to make sure that the appliance is suitable for your floor.




- 1 Push the button down to unlock the clean water tank and remove the clean water tank.




- 2 Open the cap on the clean water tank.



- 3 Add 15 ml of the XV1792 Philips Floor Cleaner to the clean water tank.




⚠ Caution: Philips has tested this appliance with XV1792 Philips Floor Cleaner. Other detergents may lead to excessive foaming, which reduces performance and may cause the appliance to malfunction. XV1792 Philips Floor Cleaner is available in selected markets. When using any other suitable liquid floor cleaner, add a maximum of 10 ml to the clean water tank.




- 4 Fill the clean water tank up to the top with cold or lukewarm tap water.


⚠ Caution: The tap water that is poured into the clean water tank must not be warmer than 50°C.




- 5 Close the sealing cap of the water tank.



6 Place the clean water tank back into the appliance.




7 Take the appliance out of the After-Clean & Storage station and place it on the floor. Put your foot on the AquaSpin nozzle and pull the handle backwards to unlock the AquaSpin nozzle. The appliance is now ready for use.



8 To switch on the appliance, press the on/off button.

i Note: The appliance will automatically switch on in the normal wet mode.

⚠ Caution: do not leave the appliance unattended when the AquaSpin nozzle is unlocked or when the appliance is switched on.



9 Use the mode change button  to toggle between three different settings:

- Normal wet mode (automatically upon start up)
- Intense wet mode
- Water absorption mode

The normal wet mode is the default setting when the Vacuum & Mop appliance is switched on. You can use this mode for regular wet cleaning.

The intense wet mode , is for cleaning extra stubborn stains.

If there are wet spots on the floor after cleaning, you can select water absorption mode  to clean them up. We also recommend using it when lifting the appliance over a threshold, carpet or stairs.

If you select water absorption mode , the appliance will stop supplying water and increase suction power for 45 seconds to absorb remaining water on the floor.

When you are done using the appliance, switch it off by pressing the on/off button. The appliance will switch to water absorption mode for 6 seconds to clean up any water remaining in the nozzle.



i Note: The appliance can leave a small puddle of water on the floor if you do not move the appliance while switching it off. You can reduce the size of the puddle by moving the appliance while switching it off. If needed, you can remove the last drops with a cloth.

i Note: Delay shut off time: After pressing the on/off button, the appliance will run for 6 seconds before completely switching off. This is normal. The extra 6 seconds is required to clean up any water remaining in the nozzle and on the floor

Pause function in Vacuum & Mop set-up

The appliance has a pause function.

During use, if handle is pushed forward and locked in the upright position, the device will go into stand-by mode and pause for 15 seconds.



To restart cleaning, put your foot on the aqua spin nozzle and pull the handle back within 15 seconds. The device will automatically resume cleaning.

i Note: The device will automatically switch off if there is no activity after 15 seconds of engaging the pause function. To restart the device after automatic switch off, simply press the on/off button.

Active protection system

- This appliance is equipped with an active protection system. This active protection system has been designed to recognize when a foreign object other than dirt or liquid is picked up from the floor.
- When the system is activated, the appliance switches off and the nozzle blocked error icon will start flashing on the display (see display icons and their meanings). The active protection system can also be activated when the micro-fiber brush is too wet, when you move the appliance over a carpet or a rug, or when you move it over flooring that is not properly affixed.

Tips and other important information

- It is not necessary to vacuum the floor before mopping, as the Vacuum & Mop set-up actively wet-cleans your hard floor to capture all kinds of dirt, including liquids and stains. On carpets and rugs, use the Vacuum only set-up.
- If your hard floors do not need mopping, simply use the vacuum only set-up which features LED lights and PowerCyclone 12 technology for precise and powerful dirt pick-up.
- You can move the appliance just as quickly as a vacuum cleaner. To remove difficult stains, click the cleaning mode button to activate the intense wet mode  and move the appliance slowly over the stains.
- The appliance can leave a small puddle of water on the floor if you do not move the appliance while switching it off. You can reduce the size of the puddle by moving the appliance while switching it off. If needed, you can remove the last drops with a cloth.
- It is recommended to activate the water absorption mode  when lifting the appliance over a threshold, carpet or stairs during cleaning. This will prevent dirty water from dripping out of the AquaSpin nozzle.

- When moving the appliance, it is recommended to stretch your arm to reduce unnecessary tension on the muscles. In this position, you have the best control over the appliance when cleaning, and it will be the most comfortable.

i Note: When you use the water absorption mode , no more water comes out of the appliance and the suction power increases. After 45 seconds, if you do not take any action, the appliance automatically switches back to normal wet mode.

i Note: Please note that a small amount of clean water residue may be present inside the nozzle and tanks. This is a result of factory quality checks. Rest assured, the device is thoroughly clean and safe for use.

Usage restrictions

- The Vacuum & Mop set-up is suitable for vacuuming and mopping all types of hard floors, except uncoated wooden floors.
- The Vacuum & Mop set-up is intended for regular cleaning of hard floors. Always follow the cleaning instructions for your hard floor when you use this appliance.
- If you want to add a liquid floor cleaner other than XV1792 Philips Floor Cleaner to the water in the clean water tank, make sure that you use a low-foaming or non-foaming liquid floor cleaner that can be diluted in water like XV1792 Philips Floor Cleaner.
- As the Clean water tank capacity has a capacity of 450ml, you only have to add a few drops (max 15ml) of liquid floor cleaner to the water.
- If you use the Vacuum & Mop set-up on linoleum floors, only do so on linoleum floors that are properly affixed to prevent linoleum from being drawn into the AquaSpin nozzle.
- Do not use the Vacuum & Mop set-up to clean carpets.
- If you move/lift the appliance over a carpet or rug when it is switched off, wastewater droplets may end up on your carpet or rug.
- Do not push the appliance over the floor grilles of convactor heaters. As the appliance cannot pick up water that comes out of the nozzle when you move it over the grille, water ends up at the bottom of the convector pit.
- While cleaning, do not lift the AquaSpin nozzle from the floor or move the AquaSpin nozzle sideways, and do not make strong turns, as this leaves water traces. Only move forwards and backwards.


i Note: The operating time depends on the power level used during cleaning.

Vacuuming soft and hard floors


Using the Vacuum only set-up



- 1 To vacuum soft or hard floors, slide the powerhouse in position in the handheld (Click!).




- 2 Connect the tube to the handheld (click)".




- 3 Insert the other end of the tube into the LED nozzle (click).

⚠ Caution: Make sure the filter case is inserted in the dust bucket before proceeding to clean.




- 4 To switch on the appliance, press the on/off button (⏻).

i The normal suction mode is the default setting when the Vacuum only appliance or the vacuum only handheld is switched on.



5 Use the Turbo button (T) to switch to a higher suction power setting.



6 Press the Turbo button (T) again to switch back to normal power setting.



Tip: The LEDs in the LED nozzle make it easier to see dirt on the floor. The tube and LED nozzle allow you to reach under low furniture without the need to twist the appliance.



Warning: Do not vacuum up water or other liquids.



Caution: Do not look directly into the LEDs of the LED nozzle or point the LEDs at someone's eyes. The LED light is very bright.

Using the tube

You can attach the tube to the handheld and use it without a nozzle to vacuum tight spaces between or behind pieces of furniture with the end of the tube.



 Tip: It is also possible to attach the Mini Turbo brush to the tube.



 Tip: It is also possible to attach the long crevice tool to the tube.



 Tip: It is also possible to add the combination tool to the tube.

Using the handheld




Without the nozzle and tube, you can use the handheld to clean small patches of dust and dirt, such as spilled breadcrumbs, or to vacuum staircases and shelves.

⚠ Warning: Do not vacuum up water or other liquids.


Using the LED nozzle

You can use the LED nozzle to clean areas, such as the steps of a staircase, to vacuum up dirt in corners or on narrow ledges, or to clean small patches of dirt, such as spilled breadcrumbs.

1 To attach the LED nozzle, insert the tube or the handheld into the nozzle.




2 To detach the LED nozzle, press the release button (1) and pull the tube or handheld out of the nozzle (2).




⚠ Warning: Do not vacuum up water or other liquids.

i Note: It is also possible to add the combination tool to the tube.


Using the Mini Turbo brush




1 To attach the Mini Turbo brush, insert the tube of the handheld into the Mini Turbo brush.



- 2 You can use the Mini Turbo brush for standard cleaning, for instance of soft areas such as beds and couches. You can adjust the power setting to suit your cleaning needs.



- 3 You can use the Mini Turbo brush for extra thorough cleaning, for instance to vacuum up pet hair, or to clean small patches of dirt, such as spilled breadcrumbs. You can adjust the power setting to suit your cleaning needs.



- 4 To detach the Mini Turbo brush, press the release button (1) and pull the handheld out of the Mini Turbo brush (2).




⚠ Warning: Do not vacuum up water or other liquids.


Using the long crevice tool



- 1 To attach the long crevice tool, insert the tube or handheld into the long crevice tool.



- 2 You can use the long crevice tool to clean narrow corners or hard-to-reach places. You can adjust the power setting to suit your cleaning needs.




- 3 To detach the long crevice tool, press the release button (1) and pull the tube or handheld out of the long crevice tool (2).




Warning: Do not vacuum up water or other liquids.


Using the combination tool



- 1 To attach the combination tool, insert the tube or handheld into the combination tool.



- 2 The combination tool is designed for cleaning window frames, curtains, or spider webs, with a customizable brush release and illumination settings.



- 3 To detach the combination tool, press the release button (1) and pull the tube or handheld out of the combination tool (2).




⚠ Warning: Do not vacuum up water or other liquids.


Cleaning the Vacuum & Mop set-up

AUTOCLEAN after every use


To prevent odors and scale deposits, use the AUTOCLEAN function after every use. The AUTOCLEAN mode helps you to clean your full appliance in approximately 4 minutes.




- 1 Place the Vacuum & Mop set-up in the After-Clean & Storage station.




i Note: If the dirty water level is below the AUTOCLEAN level, it is not necessary to empty the tank before starting the AUTOCLEAN program. You can skip the following steps and move forward to step 6.




2 Push the button to unlock the dirty water tank and remove it.




3 Remove the wet filter from the dirty water tank.




4 Pour the water out of the dirty water tank into the sink.




5 Place the wet filter back on the dirty water tank.




6 Place the empty dirty water tank back into the appliance and take out the clean water tank.



- 7 Remove the cap from the clean water tank.




- 8 Pour any remaining detergent liquid from the clean water tank into the sink.




- 9 Fill the clean water tank with cold or lukewarm tap water at least up to the AUTOCLEAN indication.

⚠ Caution: The tap water that is poured into the clean water tank must not be warmer than 50°C.


⚠ Caution: Do not use detergent for the AUTOCLEAN as this might lead to excessive foaming.



- 10 Close the water tank with the sealing cap.




- 11 Place the clean water tank back into the appliance.




12 Charge the appliance. Insert the power plug into the socket on the back of the appliance. Then insert the adapter into the wall socket.

i Note: It's necessary to connect the charger in order to start the AUTOCLEAN function.




13 To start AUTOCLEAN, press the Auto-Clean button. Make sure the charger is connected before starting Autoclean.




14 The appliance performs the AUTOCLEAN cycle.


i Note: The Autoclean cycle lasts approx. 4 minutes. For best results, let the appliance run through the AUTOCLEAN cycle completely. You can pause or cancel the AUTOCLEAN cycle at any time.

i Note: If you cancel the AUTOCLEAN program, the appliance will suck up the remaining water in the After-clean tray for about 10 seconds.




15 After AUTOCLEAN is complete, push the button to unlock the dirty water tank and remove it.






16 Remove the wet filter from the dirty water tank.



17 Pour the water out of the dirty water tank into the sink.




18 Clean the dirty water tank under the tap.




19 Clean the wet filter under the tap.


i Note: Remove the pleated filter before washing the wet filter unit under the tap.



⚠ Warning: The pleated filter cannot be washed. If you need to clean it, gently tap it against your bin to release any dirt caught in it.




20 Let the wet filter dry.




21 Place the wet filter back on the dirty water tank.


i Note: Make sure the pleated filter is inserted into place.



22 Place the dirty water tank back into the appliance.



23 To remove the brush, pull out the lever from the side (1) and turn counter-clockwise (2). Pull out the brush from the aquaspin nozzle (3)




24 To allow the brush to dry, place the open end of the brush on the designated holder on the After-Clean & Storage Station.

i Note: Drying can take approximately 24 hours.


Cleaning the After-Clean tray

If the After-Clean tray gets dirty, you can clean it by following the steps below.


- 1 Remove the After-Clean tray from the storage station.



- 2 Rinse the After-Clean tray under the tap and let it dry before placing it back in the Storage station.




- 3 Make sure to always put the After-Clean tray back in the Storage station. The After-Clean tray is essential to perform the AUTOCLEAN correctly.





Cleaning the AquaSpin nozzle

- 1 To remove the brush, pull out the lever from the side (1) and turn counter-clockwise (2). Pull out the brush from the aquaspin nozzle (3).




- 2 You can remove entangled hair or threads from the microfiber brush by sliding down the microfiber brush with one hand.






Tip: You can also use a pair of scissors to cut hairs and threads that have become entangled around the microfiber brush.

Clearing blockages from the main body



If there is a blockage in the appliance, first switch off the appliance and remove the dirty water tank. Then remove the blockage by moving the cleaning brush up and down in the suction channel of the main body.


Clearing blockages from the AquaSpin nozzle



If there is a blockage in the AquaSpin nozzle, remove the brush from the nozzle. Then move the cleaning brush up and down in the suction channel of the AquaSpin nozzle.


Cleaning the Vacuum only set-up

Emptying the dust bucket




Dust management system maintenance



Empty the dust bucket after each use or when the dust is reaching the MAX level indicator.




1 Switch off the appliance.




2 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the release button. The release button is located at the bottom of the bucket.




i Note: Remove the dust bucket while keeping the appliance in an upright position.




- 3** Hold onto the black grip. Remove the cyclone from the dust bucket by lifting it out from the bucket




- 4** Empty the collected dust in the dust bucket over the trash bin.



- 5** Remove leftover dust from cyclone by tapping it gently against the bin.



- 6** Place the cyclone back in the dust bucket. Make sure the two parts are aligned.




- 7** Place back the assembled bucket. First align the filter side of the bucket before hinging it in place.

Periodic maintenance intermittently


Dust management system maintenance

Clean the filter at least once every month.


1 Rotate the filter counter-clockwise to remove it from the dust bucket.



2 Remove the washable foam filter from the plastic filter casing.



3 Tap both the filter casing and the foam filter over a trash bin.








- 4 Rinse the foam filter and squeeze it till clean water comes out.

i Note: for best cleaning result, run the water through the filter with the filter tab facing downwards, allowing deeply set dust to be washed out.

i Note: Make sure that you wash the filter at least once a month if you use the appliance regularly.




- 5 Leave the washed filter to dry for 24 hours before reassembling the foam filter in the filter casing.




- 6 For thorough maintenance, clean the dust bucket and cyclone under a running tap or in warm soapy water.

- 7 Wipe the cleaned dust bucket and relevant parts dry.







⚠ Caution: Make sure all parts are completely dry before you reassemble them.




i Note: all parts cannot be cleaned in the dishwasher.



8 Reassemble the filter in the dust bucket. Rotate the filter clock-wise to fix it in place.




9 Place back the assembled bucket. First align the filter side of the bucket before hinging it in place.




i Note: After maintenance, always make sure the filter is assembled in the appliance before using it.


PrecisionPower Smart Nozzle maintenance




- 1 Always switch off the appliance before cleaning the nozzle brush roll.




- 2 To access the brush roll, locate the button on the side of the nozzle. Press it and rotate to open.




- 3 Gently remove the brush roll and the side cap of the nozzle.



- 4 Carefully detach any tangled hair from the brush roll. Support the removal of pollution with a pair of scissors.




- 5 When reassembling, ensure proper alignment of the brush roll.




- 6 Lock the nozzle brush roll by securing it until you hear a "CLICK" sound.


Mini TurboBrush maintenance



- 1 Rotate the brush counterclockwise to release. Pull out the brush once lock has been released.



- 2 Use your hands or a pair of scissors to remove any pollution from the brush.



- 3 Slide the brush into position and rotate clockwise to lock it in position.

Display icons and their meaning

Error codes

Error code	Cause	Solution
	There is a system error.	Solid red icon means means that your Philips AquaTrio 7000 series Vacuum Cleaner has a system error. To solve this, please try one or both of the following options: 1. Remove the powerhouse from the appliance and then reinsert the Powerhouse. Then try to restart the appliance. 2. Disconnect the vacuum only handheld from the tube and press the on/off button on the handheld. If you still see the solid red icon, please contact the Consumer Care Center. If you do not see the solid read icon and the appliance does still not work, there might be a communication problem with the tube or nozzle. Please contact the Consumer Care Center.
	The temperature is too low.	Blinking battery and error icons Red together means that the ambient temperature is either too low or too hot Make sure the temperature in the room where the appliance is used, stored, or charged is above 5 °C.
	The temperature is too high.	Blinking battery and error icons Red together means that the ambient temperature is either too low or too hot Make sure the temperature in the room where the appliance is used, stored, or charged is below 35 °C. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures (near hot stoves, in microwave ovens, or on induction cookers). Batteries may explode if overheated.

Error code	Cause	Solution
	Blinking red icon means that the air inlet openings are blocked. The air inlet openings are blocked.	Check the air inlet openings for blockages and remove them. If this does not solve the problem, check the whole air passage for blockages and remove them. This refers to the nozzle, the tube, the wet filter in the Vacuum & Mop setup. In the Vacuum only setup, this refers to the nozzle, the tube, the dust bucket and the foam filter.
	The dirty water tank is full.	Unlock the dirty water tank and remove it. Remove the wet filter from the dirty water tank and keep aside. Pour the water out of the dirty water tank into the sink.
	The AquaSpin nozzle is stuck. This is a safety cut-off if something is stuck in the nozzle (for instance, a power cable or a toy).	Check the brushes, bearings, motor parts, and caps for hair or other obstacles and remove them. If there are no obstacles, switching the appliance off and on might solve the problem.
	Unplug for use.	Unplug the appliance for use. Otherwise, it will not switch on. Only plug in the appliance during charging and AutoClean.
	The wrong charger is connected.	BLINKING Battery and error icons AMBER together means that there is a charging error. 1. Wrong charger is connected: Only use the original adapter to charge the appliance. 2. The charging pin is not correctly/fully inserted: Remove the charging pin and re-insert it into the appliance 3. Powerhouse not inserted properly: remove and re-insert the powerhouse until you hear definite "click" sound, and connect correct charger

Error code	Cause	Solution
	The charger is not connected.	AutoClean icon + fast blinking battery icon (white) The charger needs to be connected in order to run the Auto-Clean program. Make sure the appliance is correctly placed in the After-Clean & Storage station. Connect the charger.
	There is not enough battery.	AutoClean icon + fast blinking battery icon (red) If charger is connected and this icon is shown, then that means that the Battery is not enough to run the Auto-Clean Program. If charger is connected, then wait for up to 30 minutes for battery to charge. Then Press the Auto-clean button to start the program

Replacement


To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Replacement parts and type numbers:


Dry filter XV1771/10



Wet filter XV1770/10



Cleaning brush XV1773/10



i Note: Replace the filter and the microfiber brush every 6 months to ensure maximum performance.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Using the Vacuum & Mop set-up

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I push the on/off Ⓢ button.	The power house is not connected.	Connect the power house to the Vacuum & Mop handheld.
	The battery is empty.	To charge the battery, connect the Vacuum & Mop appliance with the charger (see 'Charging').
	You did not take the appliance out of the After-Clean & Storage station.	Take the Vacuum & Mop set-up out of the After-Clean & Storage station before switching on the appliance.
	You pushed the on/off Ⓢ button more than one time.	Wait a few seconds and push the on/off Ⓢ button again one more time. Wait a few seconds before trying again.
	You did not connect the handle of the vacuum & mop setup to the appliance correctly.	Place the lower body of the appliance on the After-Clean & Storage station. Then connect the handle to it and push down firmly till a click is heard.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is clogged.	Switch the appliance off and remove the battery or Vacuum & Mop handheld. Then locate and remove the cause of the blockage. After that, restart the appliance. If you cannot identify the cause of the blockage, restart the appliance. This might already solve the problem. Check air inlet openings for blockages and clean them.
	The microfiber brush is stuck.	Take the microfiber brush out and place them back.
The appliance stopped working.	You accidentally touched the on/off  button with your hand.	Switch on the appliance by pushing the on/off  button.
	The dirty water tank may be full. In this case, there is an information icon shown on the screen (see 'Display icons and their meaning').	Empty the dirty water tank.
The floor is less wet than usual.	The water ejection holes are blocked	Remove the microfiber brush, fill some water into the clean water tank and switch the appliance on. Make small forward and backward movements on the same position for around 15 seconds. You should be able to see four water stripes on the floor. If this is not the case, or if one or more water stripes only consist out of a few droplets, the water ejection holes are partially or fully blocked. You can try to carefully open the holes with a needle.
One side of the floor under the nozzle is less wet than the other one.	The water ejection holes are blocked.	Remove the microfiber brush, fill some water into the clean water tank and switch the appliance on. Make small forward and backward movements on the same position for around 15 seconds. You should be able to see four water stripes on the floor. If this is not the case, or if one or more water stripes only consist out of a few droplets, the water ejection holes are partially or fully blocked. You can try to carefully open the holes with a needle.
There is no water on the floor.	The clean water tank is empty.	Refill the clean water tank.
		If you have checked the above and there is still no water on the floor, take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.

Problem	Possible cause	Solution
There is more water on the floor or in the After-Clean tray than usual.	The water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle is polluted or blocked.	Use the cleaning brush and clean the water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle.
	The dirty water tank is not placed correctly.	Place the dirty water tank into the appliance properly. It is closed correctly when you can hear a 'click' sound.
The appliance leaves water traces on the floor.	You have moved the appliance sideways.	To prevent water traces on the floor, try to make less strong turns with your AquaTrio 7000 Series and avoid moving the appliance sideways. You can activate the water absorption mode  by pressing the cleaning mode button. All the remaining water on your floor will be absorbed.
	You made strong turns with the appliance.	To prevent water traces on the floor, try to make less strong turns with your AquaTrio 7000 Series and avoid moving the appliance sideways. You can activate the water absorption mode  by pressing the cleaning mode button. All the remaining water on your floor will be absorbed.
	You have lifted the appliance over a threshold, carpet or stairs.	Make sure the microfiber brush stay in contact with the floor. Make sure water absorption mode  is switched on before you lift the appliance over a threshold, carpet or stairs to prevent water traces on the floor or to prevent water from splashing from the AquaSpin nozzle.
	You lifted the appliance up from the floor immediately after you switched it off.	Switch on water absorption mode  to absorb any remaining water. Move the appliance forwards and backwards a few times with water absorption mode  engaged before switching it off. If you switch off the appliance and lift it up immediately afterwards, the water that was present between the brushes leaves a trace of water on the floor.
The appliance does not clean as well as it used to.	The wheels are blocked.	Check the condition of the wheels. Remove the dirt that blocks the wheels.
	The clean water tank is empty.	Refill the clean water tank.
	The water ejection holes are blocked.	Remove the microfiber brush, fill the clean water tank with some water, and switch the appliance on. Make small forward and backward movements on the same position for around 15 seconds. You should be able to see four water stripes on the floor. If this is not the case, or if one or more water

Problem	Possible cause	Solution
		stripes only consist out of a few droplets, the water ejection holes are partially or fully blocked. You can try to carefully open the holes with a needle.
	The inside of the AquaSpin nozzle is too dirty.	Run the AUTOCLEAN program before returning to cleaning. If there is dirt accumulation in the edges of the nozzle, remove it. Make sure to use the AUTOCLEAN function after each use.
	The microfiber brush is not present.	Place the microfiber brush in the AquaSpin nozzle.
		If you have checked the above and the appliance still does not clean well, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
Bigger dirt particles are not sucked up anymore and fall back on the floor.	The water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle is polluted or blocked.	Use the cleaning brush and clean the water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle.
The floor dries with stripes.	You may have used too much detergent.	Make sure to use the right amount of detergent.
	The wheels are dirty.	Remove the dirt from the wheels.
There is too much foam while cleaning, but also during AUTOCLEAN.	You may have used too much detergent.	Make sure to use the right amount of detergent.
	There are still detergent residues on the floor.	Clean the floor without detergent several times. Wait a moment before going over the same stain again.
It is difficult to clean stains.	You may have used too little water or taken too little time to clean the stain.	Apply water and wait a moment. For example you can go with the appliance over the stain to apply water and come back to the same stain in the end of the cleaning session.
The sound of the appliance changed while cleaning.	There might be hairs or other obstacles entangled around the microfiber brush.	Remove the microfiber brush and check for obstacles and remove them.
The display indicates that the dirty water tank is full and shuts down, although the dirty water tank is not full yet.	There may be foam or contamination of the dirty water tank.	Restart the appliance. If that does not solve the problem, clean the dirty water tank. If foaming is the issue, make sure you do not use more than the recommended amount of detergent.
Water drips out of the appliance after it is switched off.	The appliance leaves a puddle on the floor because you did not move it while switching it off. This is normal.	The appliance can leave a small puddle of water on the floor if you do not move the appliance while switching it off. You can reduce the size of the puddle by moving

Problem	Possible cause	Solution
		the appliance while switching it off. When you switch off the appliance, it will switch to water absorption mode  for 6 seconds to clean up any water remaining in the nozzle. If needed, you can remove the last drops with a cloth.
	The appliance is dripping when carrying it over the floor (holding it in the air).	While cleaning, do not lift the AquaSpin nozzle from the floor, as this leaves water traces. Only move forwards and backwards.
	Water leaks from the clean water tank because you overfilled the clean water tank.	Do not fill the clean water tank beyond the MAX indication. If you do, water may spill from the clean water tank when you fasten the cap.
	There is a crack in one of the tanks.	If one of the tanks is damaged, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
I cannot remove the microfiber brush.	Hair and/or dirt is entangled in the microfiber brush.	Unlock the brush by sliding out the lever. Twist the lever a few times in both directions to loosen up the brush. Twist in anti-clockwise direction to remove the brush. If it is difficult to remove the brush, you can also push it from below the AquaSpin nozzle. Remove the entangled hair or dirt. If it is difficult to pull the brushes out, you can give them a push from below the AquaSpin nozzle.
I cannot move the appliance forward or backward.	One or more wheels may be blocked by a small object.	Unlock the brush by sliding out the lever. Twist the lever a few times in both directions to loosen up the brush. Twist in anti-clockwise direction to remove the brush. If it is difficult to remove the brush, you can also push it from below the aqua spin nozzle.
The appliance has a lower suction power than usual.	The water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle is polluted or blocked.	Use the cleaning brush and clean the water channel of the wet module and/or AquaSpin nozzle.
	The mesh in the dirty water tank was not dry enough before being used again.	Clean and dry the dirty water tank.
	Hair entanglement on the microfiber brush.	Switch the appliance off and remove the hair from the microfiber brush.
	The dirty water tank is not placed correctly.	Place the dirty water tank into the appliance properly. It is closed correctly when you can hear a 'click' sound.

Problem	Possible cause	Solution
The microfiber brush does not turn anymore	The microfiber brush is clogged with hair or dirt.	Clean the microfiber brush with a pair of scissors or by hand.
The microfiber brush pops out.	The microfiber brush is not locked correctly.	Place the microfiber brush back in the right position and lock them.
The appliance is not charging.	The power plug is not connected properly to the socket or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure that the power plug is connected properly to the socket and that the adapter is inserted into the wall socket properly.
	The power house is not in.	Please insert the power house.
	The power house is not properly inserted.	Please insert the power house until you hear a click sound.
	Wrong adapter connected.	Please use the original adapter.
		If you have checked the above and the appliance still does not charge, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel static electricity shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Make sure to touch the metal pin with your hand while holding the appliance.
	You vacuumed up dust and dirt. This also causes static electricity.	Make sure to touch the metal pin with your hand while holding the appliance.
The appliance does not switch off immediately.	The delayed switch off is activated.	After pressing the on/off button, the appliance will run for 6 seconds before completely switching off. This is normal. The extra 6 seconds is required to clean up any water remaining in the nozzle and on the floor.

Using the Vacuum only set-up

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I push the on/off  button.	You did not connect the power house.	Connect the power house to the Vacuum only handheld.
	The battery is empty.	To charge the battery, connect the Vacuum only appliance with the charger (see 'Charging').
	You pushed the on/off  button more than one time.	Wait a few seconds and push the on/off  button again one more time. Wait for a few

Problem	Possible cause	Solution
		seconds before trying again.
	The appliance is clogged.	Switch the appliance off and remove the battery or powerhouse. Then locate and remove the cause for the blockage. After that, restart the appliance. If you cannot identify the cause of the blockage, restart the appliance. This might already solve the problem.
	The roller brush is stuck.	Take the roller brush out and remove any hair around the brush and the motor and place it back.
It is not possible, to connect the handheld to the dust bucket.	The filter case is assembled upside down.	Invert the filter case. The round opening should be visible.
	The filter case is not closed properly.	Make sure you hear a click when closing the filter case. If it is difficult to close, the foam filter is probably placed upside down.
The appliance stopped working.	You accidentally touched the on/off Ⓢ button with your hand.	Switch on the appliance by pushing the on/off Ⓢ button.
	The appliance is clogged.	Switch the appliance off and remove the battery or powerhouse. Then locate and remove the cause for the blockage. After that, restart the appliance. If you cannot identify the cause of the blockage, restart the appliance. This might already solve the problem.
The sound of the appliance changed while cleaning.	There might be hairs or other obstacles entangled around the roller brush.	Please check for obstacles and remove them.
	Obstacles are blocking the cyclone.	Check the cyclone for obstacles and remove them.
The appliance has a lower suction power than usual.	The filter and/or the cyclone are dirty.	Empty the dust bucket. Clean the filter and the cyclone. Make sure that you remove any hair and dirt that is stuck in the cyclone. You can remove the cyclone for easy maintenance. Make sure that you wash the filter at least once a month if you use the appliance regularly.
	Something is blocking the cyclone.	Check the cyclone for objects stuck in it and remove any object that is blocking the cyclone. Make sure that you remove any hair and dirt that is stuck in the cyclone.


Problem	Possible cause	Solution
	The suction channel behind the roller brush is clogged.	Remove the roller brush and check the suction channel for obstacles and remove them.
	You have not attached the filter case properly to the dust bucket or you have not attached the dust bucket properly to the appliance. In both cases, there will be a loss of suction power.	Make sure that you attach the filter case to the dust bucket and the dust bucket to the appliance properly.
	The brush is clogged with hair or dirt.	Switch the appliance off and clean the roller brush with a pair of scissors or by hand.
Dust escapes from the appliance.	The foam filter is not present in the filter case, or the top cover is missing.	Make sure that the filter is in the appliance and assembled correctly.
Dust escapes when opening the dust bucket.	This is normal behavior due to underpressure.	If possible, open the appliance outside.
The appliance does not move smoothly across the floor when I am cleaning a carpet.	You selected a too high suction power.	Reduce the suction power by choosing setting 1 or move more slowly over the carpet.
The roller brush does not turn anymore.	The roller brush is clogged with hair or dirt.	Clean the roller brush with a pair of scissors or by hand.
	The roller brush may stop turning when it encounters too much resistance from high-pile carpet.	Switch off the appliance and then switch it back on again.
	You have not assembled the roller brush into the nozzle properly after cleaning.	Follow the instructions in this user manual to slide the roller brush into the nozzle properly. Secure the roller brush inside the nozzle by snapping the locking lever in place.
The LEDs in the nozzle do not turn on.	You have not attached the nozzle to the tube or appliance properly.	Attach the nozzle to the tube or appliance properly. If this does not help, please take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The appliance is not charging.	The plug is not connected properly to the socket-outlet or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure that the plug is connected properly to the socket-outlet and that the adapter is inserted into the wall socket properly.
	The power house is not in.	Please insert the power house.
	The power house is not completely inserted.	Please insert the power house until you hear a click sound.

Problem	Possible cause	Solution
	Wrong adapter connected.	Please use the original adapter.
		If you have checked the above and the appliance still does not charge, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The Mini Turbo brush does not function properly.	The roller brush is blocked.	Remove hairs from the brush with a pair of scissors.
	The roller brush is blocked by fabric or surfaces during cleaning.	Keep the mini Turbo brush aligned with the surface and do not push the Turbo brush into soft surfaces.
	The roller brush is not properly inserted into the nozzle.	Make sure the the roller brush is properly inserted into the nozzle and that there is no gap between the parts.
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel static electricity shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Make sure to touch the metal pin with your hand while holding the appliance.
	You vacuumed up dust and dirt. This also causes static electricity.	Make sure to touch the metal pin with your hand, while holding the appliance.

Isi

Tinjauan Umum	50
Pendahuluan	51
Keterangan umum	51
Sebelum menggunakan alat pertama kali	51
Pengisian daya	56
Menyedot debu dan mengepel lantai keras	58
Menyedot debu di permukaan lantai yang lembut dan keras	63
Membersihkan peralatan Vakum & Pel	69
Membersihkan peralatan Vakum saja	77
Menampilkan ikon dan artinya	84
Penggantian	86
Mengatasi masalah	87

Tinjauan Umum



Pendahuluan

Terima kasih telah membeli produk Philips ini! Untuk mendapatkan manfaat penuh dari dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/myvacuum9000s.

Keterangan umum

- 1 Dudukan dinding
- 2 Nozzle celah
- 3 Nozzle 2 in 1
- 4 Tombol turbo penyedot debu kering
- 5 Tombol on/off penyedot debu kering
- 6 Gagang & kotak debu penyedot debu kering
- 7 Tabung diperpanjang
- 8 Penyimpanan aksesori pada tabung
- 9 Nozzle vakum
- 10 Sikat turbo dengan motor
- 11 Adaptor
- 12 Power house
- 13 Indikator mode basah intens
- 14 Indikator penuh DWT
- 15 Indikator AutoClean
- 16 Indikator baterai
- 17 Indikator penyerapan air
- 18 Indikator nozzle macet
- 19 Indikator kesalahan
- 20 Indikator turbo kering
- 21 Gagang penyedot debu basah
- 22 Tombol penggantian mode isap
- 23 Tombol on/off penyedot debu basah
- 24 Tombol pembersihan otomatis
- 25 Tangki air bersih
- 26 Tangki air kotor
- 27 Nozzle AquaSpin
- 28 Sikat 2 in 1 pembersihan
- 29 Stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan
- 30 Baki After_Clean
- 31 Deterjen


Sebelum menggunakan alat pertama kali

Merakit stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan

Untuk menggunakan fungsi AUTOCLEAN atau menyimpan dan mengisi daya peralatan pada stasiun Pasca-Pasca-Pembersihan & Penyimpanan, Anda perlu


merakit stasiun terlebih dahulu dengan mengklik dudukan peralatan ke pelat dasar.

i Catatan: Pastikan baki Pasca-Pembersihan ditempatkan di pelat dasar dan suhu di ruangan tempat alat disimpan, diisi dayanya, dan dibersihkan berada antara 5 °C hingga 35 °C.




Memasang dudukan dinding

Jika Anda ingin menyimpan dan mengisi daya Vacuum hanya dengan memasangnya di dudukan dinding, kencangkan dudukan dinding tersebut ke dinding menggunakan sekrup yang disediakan. Pastikan dudukan dinding berada 105 - 115 cm di atas lantai.



i Catatan: Anda tidak dapat menyimpan peralatan Vakum & Pel pada dudukan dinding. Peralatan Vakum hanya dapat disimpan pada dudukan dinding.


i Catatan: Pastikan suhu di ruangan tempat peralatan disimpan atau diisi dayanya berada antara 5 °C dan 35 °C.




⚠ Perhatian: Berhati-hatilah saat mengebor lubang di dinding untuk memasang dudukan dinding agar menghindari risiko sengatan listrik.


Merakit peralatan Vakum & Pel

- 1 Untuk merakit alat, masukkan gagang ke bodi utama ('hingga berbunyi klik').






- 2 Masukkan powerhouse ke dalam tongkat modul basah di atas Tangki air kotor (Hingga berbunyi klik!).



- 3 Untuk menyimpan peralatan Vakum & Pel, Anda dapat meletakkannya di stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan.

Melepaskan gagang

Jika Anda perlu melepaskan alat lagi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:




- 1 Masukkan obeng pin/pipih ke dalam lubang di bagian belakang alat dan tarik gagangnya.




- 2 Tarik gagang hingga terlepas dari alat sambil terus mendorong obeng ke dalam lubang.

i Catatan: Perhatikan bahwa sejumlah kecil residu air bersih mungkin ada di dalam nozzle dan tangki. Ini adalah hasil pemeriksaan kualitas pabrik. Alat ini sepenuhnya bersih dan aman digunakan.


Memasang peralatan Vakum saja




- 1 Untuk merakit peralatan vakum saja, geser powerhouse ke posisi di bawah gagang (Hingga berbunyi klik!).



- 2 Pasang perangkat genggam dengan wadah ke tabung (Hingga berbunyi klik).



- 3 Masukkan Tabung ke dalam nozzle LED.





- 4 Untuk menyimpan peralatan vakum saja, letakkan saja di dudukan dinding. Geser wadah ke dalam dudukan dinding agar terpasang dengan aman.

Melepas dan memasang power house

Melepas dan memasang powerhouse dalam peralatan Vakum saja



- 1 Tekan tombol di sisi gagang.
- 2 Sambil terus menekan tombol, geser keluar powerhouse dari perangkat genggam.



- 3 Untuk memasang powerhouse, cukup geser ke posisi di bawah gagang (hingga berbunyi klik!). Pastikan untuk menyelaraskan konektor dengan benar agar terpasang dengan aman.

Melepas dan memasang powerhouse pada peralatan Vakum & Pel

- 1 Tekan tombol di samping alat.
- 2 Sambil terus menekan tombol, geser keluar powerhouse dari atas tangki air kotor.




- 3 Untuk memasang powerhouse, cukup geser ke posisinya (hingga berbunyi klik!). Pastikan untuk menyelaraskan konektor dengan benar agar terpasang dengan aman.

Pengisian daya

Pengisian daya untuk peralatan Vakum & Pel

Alat ini dilengkapi dengan baterai Li-Ion 25 V. Pengisian baterai berlangsung selama 4 jam.



- 1 Untuk mengisi daya alat, buka tutup perapat di bagian belakang alat.
- 2 Masukkan konektor listrik ke soket di bagian belakang alat.

- 3 Masukkan adaptor ke stopkontak dinding




- 4 Ikon baterai dan segmen sirkular akan berkedip di layar untuk menunjukkan bahwa alat sedang diisi dayanya.




- 5 Jika daya peralatan terisi penuh, ikon baterai dan semua segmen sirkular akan menyala di layar. Setelah beberapa menit, layar akan mati.





- 6 Lepaskan konektor listrik dari soket di bagian belakang alat sebelum menggunakannya untuk membersihkan.



- 7 Tutup penutup perapat.


 Tips: Anda dapat mengisi daya peralatan di stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan.

 Tips: Anda dapat mengisi daya peralatan tersebut secara terpisah di tempat yang paling sesuai untuk Anda.


Pengisian daya untuk peralatan Vakum saja

Alat ini dilengkapi dengan baterai Li-Ion 25 V. Pengisian baterai berlangsung selama 4 jam.

- 1 Untuk mengisi daya alat, masukkan konektor listrik ke soket di bagian belakang alat.



- 2 Geser perangkat genggam dengan wadah ke kedudukan dinding.



- 3 Masukkan adaptor ke stopkontak dinding




- 4 Ikon baterai dan segmen sirkular akan berkedip di layar untuk menunjukkan bahwa alat sedang diisi dayanya.



- 5 Jika daya peralatan terisi penuh, ikon baterai dan semua segmen sirkular akan menyala di layar. Setelah beberapa menit, layar akan mati.



- 6 Lepaskan konektor listrik dari soket di bagian belakang alat sebelum menggunakannya untuk membersihkan.



Tips: Anda dapat mengisi daya peralatan tersebut saat terpasang pada dudukan dinding.

Tips: Anda dapat mengisi daya peralatan tersebut secara terpisah di tempat yang paling sesuai untuk Anda.


Menyedot debu dan mengepel lantai keras

Menggunakan alat


Tangki air bersih dan tangki air kotor sudah terpasang pada alat saat pengiriman. Anda dapat menggunakan alat ini untuk membersihkan lantai keras.

i Catatan: Peralatan ini cocok untuk menyedot debu dan mengepel secara bersamaan. Anda tidak perlu menyedot debu lantai sebelum mengepel. Peralatan ini cocok untuk menyedot debu dan mengepel semua jenis lantai

keras, kecuali lantai kayu yang tidak dilapisi. Anda dapat menguji peralatan tersebut di area kecil yang tidak terlihat langsung, untuk memastikan bahwa peralatan tersebut cocok untuk lantai Anda.




- 1 Tekan tombol ke bawah untuk membuka kunci tangki air bersih dan lepaskan tangki air bersih.




- 2 Buka tutup tangki air bersih.



- 3 Tambahkan 15 ml Pembersih Lantai Philips XV1792 ke tangki air bersih.




⚠ Perhatian: Philips telah menguji peralatan ini dengan Pembersih Lantai Philips XV1792. Deterjen lain dapat menghasilkan busa berlebih, yang dapat mengurangi kinerja dan menyebabkan alat tidak berfungsi dengan baik. Pembersih Lantai Philips XV1792 tersedia di kawasan tertentu. Saat menggunakan cairan pembersih lantai lainnya yang cocok, tambahkan maksimal 10 ml ke dalam tangki berisi air bersih.




- 4 Isi tangki air bersih sampai penuh dengan air keran dingin atau air hangat.


⚠ Perhatian: Air keran yang dituangkan ke tangki air bersih tidak boleh lebih hangat dari 50 °C.




5 Tutup penutup perapat tangki air.



6 Pasang kembali tangki air bersih ke dalam alat.




7 Keluarkan peralatan dari stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan dan letakkan di lantai. Letakkan kaki Anda pada nozzle AquaSpin dan tarik gagang ke belakang untuk membuka kunci nozzle AquaSpin. Peralatan sekarang siap digunakan.



8 Untuk menghidupkan alat, tekan tombol on/off.

i Catatan: Alat akan otomatis hidup dalam mode basah normal.

⚠ Perhatian: jangan tinggalkan alat tanpa pengawasan saat nozzle AquaSpin tidak terkunci atau saat alat dihidupkan.



9 Gunakan tombol perubahan mode  untuk beralih antara tiga pengaturan yang berbeda:

- Mode basah normal (otomatis setelah dihidupkan)
- Mode basah intens
- Mode penyerapan air

Mode basah normal merupakan pengaturan default saat alat Vakum & Pel dihidupkan. Anda dapat menggunakan mode ini untuk pembersihan basah secara teratur.

Mode basah intensif , untuk membersihkan noda yang sangat membandel. Jika terdapat titik basah pada lantai setelah dibersihkan, Anda dapat memilih mode penyerapan air  untuk membersihkannya. Kami juga

merekomendasikan penggunaannya saat mengangkat alat melewati ambang pintu, karpet, atau tangga.

Jika Anda memilih mode penyerapan air , alat akan berhenti memasok air dan meningkatkan daya isap selama 45 detik untuk menyerap sisa air di lantai.

Setelah selesai menggunakan alat, matikan dengan menekan tombol on/off. Peralatan akan beralih ke mode penyerapan air selama 6 detik untuk membersihkan sisa air di nozzle.


i Catatan: Alat dapat meninggalkan genangan air kecil di lantai jika Anda tidak memindahkan alat saat mematikannya. Anda dapat memperkecil ukuran genangan air dengan menggerakkan alat sambil mematikannya. Jika perlu, Anda bisa mengelap tetesan terakhir dengan kain.

i Catatan: Waktu tunda mati: Setelah menekan tombol on/off, alat akan bekerja selama 6 detik sebelum mati sepenuhnya. Hal ini normal. Diperlukan waktu tambahan 6 detik untuk membersihkan sisa air di nozzle dan di lantai

Fungsi jeda dalam peralatan Vakum & Pel

Peralatan ini memiliki fungsi jeda.

Selama penggunaan, jika gagang didorong ke depan dan terkunci pada posisi tegak, alat akan beralih ke mode siaga dan berhenti selama 15 detik.



Untuk memulai kembali pembersihan, letakkan kaki Anda pada nozzle aqua spin dan tarik gagangnya kembali dalam 15 detik. Alat akan secara otomatis melanjutkan pembersihan.

i Catatan: Alat akan otomatis mati jika tidak ada aktivitas setelah 15 detik dari mengaktifkan fungsi jeda. Untuk menghidupkan kembali alat setelah mati otomatis, cukup tekan tombol on/off.

Sistem perlindungan aktif

- Peralatan ini dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif. Sistem perlindungan aktif ini telah dirancang untuk mengenali saat ada benda asing selain kotoran atau cairan yang terangkat dari lantai.
- Saat sistem diaktifkan, alat akan mati dan ikon kesalahan nozzle tersumbat akan mulai berkedip di layar (lihat ikon tampilan dan artinya). Sistem perlindungan aktif juga dapat diaktifkan saat sikat serat mikro terlalu basah, saat Anda menggerakkan alat di atas karpet atau permadani, atau saat Anda menggerakkannya di atas lantai yang tidak terpasang dengan benar.

Tips dan informasi penting lainnya

- Anda tidak perlu menyedot debu sebelum mengepel lantai, karena pengaturan Penyedot & Pel secara aktif membersihkan lantai keras dengan metode basah untuk membersihkan segala jenis kotoran, termasuk cairan dan noda. Untuk karpet dan permadani, gunakan pengaturan Penyedot saja.
- Jika lantai keras Anda tidak perlu dipel, cukup gunakan pengaturan vakum saja yang dilengkapi lampu LED dan teknologi PowerCyclone 12 untuk penyedotan kotoran yang tepat dan kuat.
- Anda dapat memindahkan peralatan secepat penyedot debu. Untuk menghilangkan noda yang sulit dihilangkan, klik tombol mode pembersihan untuk mengaktifkan mode basah intensif  dan gerakkan alat secara perlahan di atas noda.
- Alat dapat meninggalkan genangan air kecil di lantai jika Anda tidak memindahkan alat saat mematikannya. Anda dapat memperkecil ukuran genangan air dengan menggerakkan alat sambil mematikannya. Jika perlu, Anda bisa mengelap tetesan terakhir dengan kain.
- Sebaiknya aktifkan mode penyerapan air  saat mengangkat alat melewati ambang pintu, karpet atau tangga selama pembersihan. Tindakan ini akan mencegah air kotor menetes keluar dari nozzle AquaSpin.
- Saat menggerakkan alat, sebaiknya regangkan lengan Anda untuk mengurangi ketegangan yang tidak perlu pada otot. Pada posisi ini, Anda memiliki kendali terbaik atas peralatan saat membersihkan, dan akan terasa paling nyaman.

i Catatan: Jika Anda menggunakan mode penyerapan air , tidak ada lagi air yang keluar dari alat dan daya isapnya meningkat. Setelah 45 detik, jika Anda tidak mengambil tindakan apa pun, alat secara otomatis beralih kembali ke mode basah normal.

i Catatan: Perhatikan bahwa sejumlah kecil residu air bersih mungkin ada di dalam nozzle dan tangki. Ini adalah hasil pemeriksaan kualitas pabrik. Alat ini sepenuhnya bersih dan aman digunakan.

Batasan penggunaan

- Pengaturan Penyedot & Pel cocok untuk menyedot debu dan mengepel semua jenis lantai keras, kecuali lantai kayu yang tidak dilapisi.
- Pengaturan Penyedot & Pel dimaksudkan untuk membersihkan lantai keras secara rutin. Selalu ikuti petunjuk pembersihan lantai keras saat Anda menggunakan alat ini.
- Jika Anda ingin menambahkan cairan pembersih lantai selain Pembersih Lantai Philips XV1792 ke dalam air di tangki air bersih, pastikan Anda menggunakan cairan pembersih lantai yang berbusa rendah atau tidak berbusa yang dapat diencerkan dalam air seperti Pembersih Lantai Philips XV1792.
- Karena kapasitas Tangki air bersih sebesar 450ml, Anda hanya perlu menambahkan beberapa tetes (maksimum 15ml) cairan pembersih lantai ke dalam air.
- Bila Anda menggunakan peralatan Vakum & Pel pada lantai linoleum, lakukan hanya pada lantai linoleum yang terpasang dengan benar guna mencegah linoleum tertarik ke dalam nozzle AquaSpin.
- Jangan gunakan peralatan Vakum & Pel untuk membersihkan karpet.

- Jika Anda menggerakkan/mengangkat alat di atas karpet atau permadani saat dimatikan, tetesan air kotor dapat menodai karpet atau permadani Anda.
- Jangan mendorong alat melewati teralis pemanas convector lantai. Karena alat tidak akan bisa menyedot air yang keluar dari nozel saat Anda menggerakkannya di atas teralis, air akan keluar di bawah lubang convector.
- Saat membersihkan, jangan mengangkat nozzle AquaSpin dari lantai atau menggerakkan nozzle AquaSpin ke samping, dan jangan memutar terlalu keras, karena tindakan ini akan meninggalkan jejak air. Lakukan gerakan maju-mundur saja.


i Catatan: Waktu pengoperasian bergantung pada tingkat daya yang digunakan selama membersihkan.

Menyedot debu di permukaan lantai yang lembut dan keras


Menggunakan peralatan Vakum saja



- 1 Untuk menyedot debu di lantai lunak atau keras, geser powerhouse ke posisinya di perangkat genggam (hingga berbunyi klik!).




- 2 Hubungkan tabung ke perangkat genggam (hingga berbunyi klik)".




- 3 Masukkan ujung tabung lainnya ke nozzle LED (hingga berbunyi klik).

⚠ Perhatian: Pastikan wadah filter telah dimasukkan ke dalam wadah debu sebelum melanjutkan pembersihan.




- 4 Untuk menghidupkan alat, tekan tombol on/off ①.

i Mode isap normal merupakan pengaturan default saat peralatan Vakum saja atau perangkat genggam vakum saja dihidupkan.



- 5 Gunakan tombol Turbo ② untuk beralih ke pengaturan daya isap yang lebih tinggi.



- 6 Tekan tombol Turbo ③ lagi untuk beralih kembali ke pengaturan daya normal.




💡 Tips: LED pada nozzle LED membuat kotoran di lantai lebih mudah terlihat. Tabung dan nozzle LED memudahkan Anda menjangkau bagian bawah furnitur rendah tanpa perlu memutar alat.

⚠️ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.



⚠️ Perhatian: Jangan menatap langsung ke arah LED pada nozzle LED atau mengarahkan LED ke mata seseorang. Cahaya LED sangat terang.

Menggunakan tabung



Anda dapat memasang tabung pada alat genggam dan menggunakannya tanpa nozzle untuk menyedot debu pada ruang sempit di antara atau di belakang perabot dengan ujung tabung.



 Tips: Sikat Mini Turbo juga dapat dipasang pada tabung.




 Tips: Anda juga dapat memasang alat celah panjang pada tabung.



 Tips: Anda juga dapat menambahkan alat kombinasi ke dalam tabung.

Menggunakan mode genggam





Tanpa nozzle dan tabung, Anda dapat menggunakan alat genggam ini untuk membersihkan serpihan kecil debu dan kotoran, seperti remah roti yang berserakan, atau untuk menyedot debu di tangga dan rak.

⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.

Menggunakan nozzle LED

Anda dapat menggunakan nozzle LED untuk membersihkan area tertentu, seperti anak tangga, menyedot kotoran di sudut-sudut atau tepian sempit, atau membersihkan serpihan kotoran kecil, seperti remah roti yang berserakan.

- 1 Untuk memasang nozzle LED, masukkan tabung atau alat genggam ke dalam nozzle.




- 2 Untuk melepaskan nozzle LED, tekan tombol pelepas (1) dan tarik tabung atau alat genggam keluar dari nozzle (2).


⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.

i Catatan: Anda juga dapat menambahkan alat kombinasi ke dalam tabung.


Menggunakan sikat Mini Turbo




- 1 Untuk memasang sikat Mini Turbo, masukkan tabung alat genggam ke sikat Mini Turbo.



- 2 Anda dapat menggunakan TurboBrush Mini untuk pembersihan standar, misalnya pada area yang lembut seperti tempat tidur dan sofa. Anda dapat menyesuaikan pengaturan daya sesuai kebutuhan pembersihan.



- 3 Anda dapat menggunakan TurboBrush Mini untuk pembersihan ekstra secara menyeluruh, misalnya untuk menyedot bulu hewan peliharaan, atau untuk membersihkan sedikit kotoran, seperti remah roti yang berserakan. Anda dapat menyesuaikan pengaturan daya sesuai kebutuhan pembersihan.




- 4 Untuk melepaskan sikat Mini Turbo, tekan tombol pelepas (1) dan tarik alat genggam keluar dari sikat Mini Turbo (2).




⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.


Menggunakan alat celah panjang




- 1 Untuk memasang alat celah panjang, masukkan tabung atau perangkat genggam ke dalam alat celah panjang.



- 2 Anda dapat menggunakan alat celah panjang untuk membersihkan sudut tempat yang sempit atau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Anda dapat menyesuaikan pengaturan daya sesuai kebutuhan pembersihan.



- 3 Untuk melepaskan alat celah panjang, tekan tombol pelepas (1) dan tarik tabung atau perangkat genggam hingga terlepas dari alat celah panjang (2).




⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.


Menggunakan alat kombinasi



- 1 Untuk memasang alat kombinasi, masukkan tabung atau perangkat genggam ke dalam alat kombinasi.



- 2 Alat kombinasi ini dirancang untuk membersihkan bingkai jendela, tirai, atau jaring laba-laba, dengan pelepasan sikat dan pengaturan pencahayaan yang dapat disesuaikan.



- 3 Untuk melepaskan alat kombinasi, tekan tombol pelepas (1) dan tarik tabung atau perangkat genggam hingga terlepas dari alat kombinasi (2).




⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.


Membersihkan peralatan Vakum & Pel

AUTOCLEAN setelah setiap penggunaan


Untuk mencegah bau dan kerak, gunakan fungsi AUTOCLEAN setelah setiap penggunaan. Mode AUTOCLEAN membantu Anda membersihkan seluruh alat dalam waktu sekitar 4 menit.




- 1 Letakkan peralatan Vakum & Pel di stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan.




i Catatan: Jika level air kotor berada di bawah tingkat AUTOCLEAN, tangki tidak perlu dikosongkan sebelum memulai program AUTOCLEAN. Anda dapat melewati langkah berikut dan melanjutkan ke langkah 6.




- 2 Tekan tombol untuk membuka kunci tangki air kotor dan mengeluarkannya.




- 3 Lepaskan filter basah dari tangki air kotor.




- 4 Tuangkan air dari tangki air kotor ke wastafel.




- 5 Pasang kembali filter basah pada tangki air kotor.




- 6 Masukkan kembali tangki air kotor yang kosong ke dalam alat dan keluarkan tangki air bersih.



7 Lepaskan tutup dari tangki air bersih.




8 Tuangkan sisa cairan deterjen dari tangki air bersih ke dalam wastafel.




9 Isi tangki air bersih dengan air keran dingin atau agak hangat setidaknya hingga indikasi AUTOCLEAN.

⚠ Perhatian: Air keran yang dituangkan ke tangki air bersih tidak boleh lebih hangat dari 50 °C.


⚠ Perhatian: Jangan gunakan deterjen untuk AUTOCLEAN karena dapat menimbulkan busa berlebihan.



10 Tutup tangki air dengan tutup rapat.



11 Pasang kembali tangki air bersih ke dalam alat.




- 12** Isi daya alat. Tancapkan konektor daya ke stopkontak di bagian belakang alat. Kemudian tancapkan adaptor ke stopkontak.




i Catatan: Anda perlu menghubungkan pengisi daya untuk memulai fungsi AUTOCLEAN.

- 13** Untuk memulai AUTOCLEAN, tekan tombol Auto-Clean. Pastikan pengisi daya terhubung sebelum memulai Autoclean.




- 14** Alat menjalankan siklus AUTOCLEAN.




i Catatan: Siklus Autoclean berlangsung sekitar 4 menit. Untuk hasil terbaik, biarkan alat berjalan melalui siklus AUTOCLEAN sepenuhnya. Anda dapat menunda atau membatalkan siklus AUTOCLEAN kapan saja.


i Catatan: Jika Anda membatalkan program AUTOCLEAN, alat akan menyedot sisa air di baki Pasca-pembersihan selama sekitar 10 detik.

- 15** Setelah AUTOCLEAN selesai, tekan tombol untuk membuka kunci tangki air kotor dan mengeluarkannya.






16 Lepaskan filter basah dari tangki air kotor.



17 Tuangkan air dari tangki air kotor ke wastafel.




18 Bersihkan tangki air kotor di bawah keran.




19 Bersihkan filter basah di bawah keran.


i Catatan: Lepaskan filter berlipat sebelum mencuci unit filter basah di bawah keran.



⚠ Peringatan: Filter lipat tidak dapat dicuci. Jika Anda perlu membersihkannya, ketuk perlahan pada tempat sampah untuk melepaskan kotoran yang terperangkap di dalamnya.




20 Biarkan filter basah mengering.




21 Pasang kembali filter basah pada tangki air kotor.


i Catatan: Pastikan filter lipat telah terpasang pada tempatnya.



22 Pasang kembali tangki air kotor ke dalam alat.



23 Untuk melepaskan sikat, tarik tuas dari samping (1) dan putar ke kiri (2). Tarik sikat dari nozzle aquaspin (3)




24 Agar sikat mengering, letakkan ujung sikat yang terbuka pada tempat yang telah ditentukan di Stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan.

i Catatan: Proses pengeringan dapat memakan waktu sekitar 24 jam.


Membersihkan baki Pasca-Pembersihan

Jika baki Pasca-Pembersihan kotor, Anda dapat membersihkannya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.


- 1 Keluarkan baki Pasca-Pembersihan dari tempat penyimpanan.



- 2 Bilas baki Pasca-Pembersihan di bawah keran dan biarkan hingga kering sebelum meletakkannya kembali di stasiun Penyimpanan.





- 3 Pastikan untuk selalu meletakkan kembali baki Pasca-Pembersihan ke tempat Penyimpanan. Baki Pasca-Pembersihan sangat penting untuk menjalankan AUTOCLEAN dengan benar.




Membersihkan nozzle AquaSpin

- 1 Untuk melepaskan sikat, tarik tuas dari samping (1) dan putar ke kiri (2). Tarik sikat dari nozzle aquaspin (3).






- 2 Anda dapat menghilangkan rambut atau benang yang tersangkut dari sikat mikrofiber dengan menggeser sikat mikrofiber ke bawah menggunakan satu tangan.




Tips: Anda juga dapat menggunakan gunting untuk memotong rambut dan benang yang tersangkut di sekitar sikat mikrofiber.

Menghilangkan penghalang dari bodi utama



Jika ditemukan penghalang pada alat, matikan alat terlebih dahulu dan keluarkan tangki air kotor. Setelah itu, hilangkan penghalang dengan menggerakkan sikat pembersih ke atas dan ke bawah pada saluran isap bodi utama.

Menghilangkan penghalang dari nozzle AquaSpin





Jika ditemukan penghalang pada nozzle AquaSpin, lepaskan sikat dari nozzle. Setelah itu, gerakkan sikat pembersih ke atas dan ke bawah di saluran isap nozzle AquaSpin.

Membersihkan peralatan Vakum saja


Mengosongkan wadah debu

Pemeliharaan sistem manajemen debu


Kosongkan wadah debu setiap kali selesai digunakan atau setelah debu mencapai indikator level MAX.





1 Matikan alat.




2 Pegang alat dengan sudut 45 derajat seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Lepaskan wadah debu dengan menekan tombol pelepas. Tombol pelepas terletak di bagian bawah wadah debu.







i Catatan: Lepaskan wadah debu sambil mempertahankan posisi alat tetap tegak.




- 3 Pegang gagang berwarna hitam. Keluarkan siklon dari wadah debu dengan mengangkatnya keluar




- 4 Buang debu yang terkumpul di dalam wadah ke tempat sampah.



- 5 Hilangkan sisa debu dari siklon dengan mengetukkannya perlahan pada tempat sampah.



- 6 Pasang kembali siklon ke dalam wadah debu. Pastikan kedua bagiannya sejajar.




- 7 Pasang kembali wadah debu yang sudah dirangkai. Pertama, sejajarkan sisi filter wadah debu sebelum memasangnya.

Perawatan berkala


Pemeliharaan sistem manajemen debu


Bersihkan filter minimal sebulan sekali.

- 1 Putar filter ke arah kiri untuk mengeluarkannya dari wadah debu.




- 2 Lepaskan filter busa yang dapat dicuci dari casing filter dari plastik.






- 3 Ketuk-ketukkan casing filter dan filter busa di atas tempat sampah.




- 4 Bilas filter busa dan peras hingga air bilasan bersih.


i Catatan: untuk hasil pembersihan terbaik, kucurkan air pada filter dengan tab filter menghadap ke bawah sehingga debu yang menempel di dalam dapat tercuci bersih.

i Catatan: Pastikan Anda mencuci filter setidaknya sebulan sekali jika Anda menggunakan alat tersebut secara teratur.



- 5 Kering anginkan filter busa yang sudah dicuci selama 24 jam sebelum memasangnya kembali ke dalam wadah filter.







- 6 Untuk pemeliharaan menyeluruh, bersihkan wadah debu dan siklon di bawah air mengalir atau di dalam air sabun hangat.




- 7 Lap wadah debu yang sudah dibersihkan dan semua bagiannya hingga kering.




⚠ Perhatian: Pastikan semua komponen sudah benar-benar kering sebelum dirangkai kembali.




i Catatan: semua komponennya tidak dapat dibersihkan dengan mesin pencuci piring.



- 8 Pasang kembali filter ke wadah debu. Putar filter ke arah kanan hingga terpasang erat.




- 9 Pasang kembali wadah debu yang sudah dirangkai. Pertama, sejajarkan sisi filter wadah debu sebelum memasangnya.




i Catatan: Setelah pemeliharaan, selalu pastikan filter sudah terpasang di alat sebelum alat digunakan.


Pemeliharaan Nozel Pintar PrecisionPower




- 1 Selalu matikan alat sebelum membersihkan rol sikat nozel.




- 2 Untuk mengakses rol sikat, cari tombol di samping nozel. Tekan dan putar untuk membuka.




- 3 Perlahan lepaskan rol sikat dan tutup samping nozel.



- 4 Dengan hati-hati, urai rambut yang tersangkut di rol sikat. Bersihkan kotoran dengan gunting agar lebih cepat.




- 5 Saat merangkai kembali, pastikan rol sikat disejajarkan dengan benar.




- 6 Kunci rol sikat nozel dengan benar hingga terdengar bunyi "KLIK".


Pemeliharaan TurboBrush Mini



- 1 Putar sikat ke kiri untuk melepaskannya. Tarik sikat setelah kunci terlepas.



- 2 Gunakan tangan atau gunting untuk menyingkirkan kotoran dari sikat.



- 3 Geser sikat ke posisinya dan putar ke kanan untuk menguncinya pada posisinya.

Menampilkan ikon dan artinya

Kode kesalahan

Kode kesalahan	Penyebab	Solusi
	Terjadi kesalahan sistem.	Ikon merah solid berarti Penyedot Debu Philips AquaTrio seri 7000 Anda mengalami kesalahan sistem. Untuk mengatasi hal ini, coba salah satu atau kedua opsi berikut: 1. Lepaskan powerhouse dari peralatan, lalu masukkan kembali Powerhouse. Setelah itu, coba untuk menghidupkan ulang alat tersebut. 2. Lepaskan perangkat genggam vakum saja dari tabungnya, lalu tekan tombol on/off pada perangkat genggam. Jika Anda masih melihat ikon merah solid, hubungi Pusat Layanan Konsumen. Jika Anda tidak melihat ikon baca solid dan alat tetap tidak berfungsi, mungkin terjadi masalah komunikasi dengan tabung atau nozzle. Hubungi Pusat Layanan Konsumen.
	Suhunya terlalu rendah.	Ikon baterai dan kesalahan yang berkedip Merah bersamaan berarti suhu sekitar terlalu rendah atau terlalu panas. Pastikan suhu di ruangan tempat alat digunakan, disimpan, atau diisi dayanya di atas 5 °C.

Kode kesalahan	Penyebab	Solusi
	Suhu terlalu tinggi.	Ikon baterai dan kesalahan yang berkedip Merah bersamaan berarti suhu sekitar terlalu rendah atau terlalu panas. Pastikan suhu di ruangan tempat alat digunakan, disimpan, atau diisi dayanya di bawah 35 °C. Jangan sampai alat terpapar sinar matahari langsung atau suhu tinggi (di dekat kompor panas, oven microwave, atau kompor induksi). Baterai dapat meledak karena terlalu panas.
	Ikon merah berkedip berarti saluran masuk udara terhalang. Buka saluran masuk udara terhalang.	Periksa bukaan saluran masuk udara untuk melihat apakah ada penghalang, lalu singkirkan. Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, periksa seluruh saluran udara untuk melihat apakah ada penghalang dan singkirkan penghalang tersebut. Hal ini mengacu pada nozzle, tabung, filter basah dalam peralatan Vakum & Pel. Pada peralatan Vakum saja, hal ini mengacu pada nozzle, tabung, wadah debu, dan filter busa.
	Tangki air kotor penuh.	Buka kunci tangki air kotor dan lepaskan. Lepaskan filter basah dari tangki air kotor dan sisihkan. Tuangkan air dari tangki air kotor ke wastafel.
	Nozzle AquaSpin macet. Ini adalah pemutus keselamatan jika ada sesuatu yang tersangkut di nozzle (misalnya, kabel listrik atau mainan).	Periksa sikat, bantalan, komponen motor, dan tutup untuk melihat apakah ada rambut atau penghalang lain, lalu singkirkan. Jika tidak ada halangan, mematikan dan menghidupkan kembali peralatan mungkin dapat menyelesaikan masalah.
	Lepaskan dari konektor sebelum digunakan.	Lepaskan koneksi alat tersebut dari stopkontak sebelum digunakan. Jika tidak, alat tidak akan bisa hidup. Sambungkan koneksi alat hanya selama pengisian daya dan AutoClean.


Kode kesalahan	Penyebab	Solusi
	Pengisi daya yang dihubungkan salah.	Ikon Baterai dan kesalahan yang BERKEDIP dan berwarna KUNING bersamaan berarti ada kesalahan pengisian daya. 1. Pengisi daya yang dihubungkan salah: Gunakan hanya adaptor asli untuk mengisi baterai alat. 2. Pin pengisian daya tidak dimasukkan dengan benar/sepenuhnya: Lepaskan pin pengisian daya dan masukkan kembali ke dalam alat 3. Powerhouse tidak dimasukkan dengan benar: lepaskan dan masukkan kembali powerhouse sampai terdengar suara "klik" yang jelas, lalu hubungkan pengisi daya yang benar
	Pengisi daya tidak terhubung.	Ikon AutoClean + ikon baterai berkedip cepat (putih) Pengisi daya perlu disambungkan agar program Pembersihan Otomatis dapat dijalankan. Pastikan peralatan ditempatkan dengan benar di stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan. Hubungkan pengisi daya.
	Daya baterai tidak cukup.	Ikon AutoClean + ikon baterai berkedip cepat (merah) Jika pengisi daya tersambung dan ikon ini ditampilkan, berarti Baterai tidak cukup untuk menjalankan Program Pembersihan Otomatis. Jika pengisi daya terhubung, tunggu hingga 30 menit agar baterai terisi daya. Setelah itu, tekan tombol Pembersihan otomatis untuk memulai program

Penggantian


Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka www.philips.com/parts-and-accessories atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Suku cadang pengganti dan nomor tipe:


Filter kering XV1771/10



Filter basah XV1770/10



Sikat pembersihan XV1773/10



i Catatan: Ganti filter dan sikat mikrofiber setiap 6 bulan untuk memastikan performa yang maksimal.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Menggunakan peralatan Vakum & Pel

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak bekerja saat saya menekan tombol  on/off.	Powerhouse tidak terhubung.	Hubungkan power house ke perangkat genggam Vakum & Pel.
	Baterai habis.	Untuk mengisi daya baterai, hubungkan peralatan Vakum & Pel dengan pengisi daya (lihat 'Pengisian daya').
	Anda tidak mengeluarkan peralatan dari stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan.	Keluarkan peralatan Vakum & Pel dari stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan sebelum menghidupkan peralatan tersebut.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Anda menekan tombol on/off  lebih dari satu kali.	Tunggu beberapa detik dan tekan tombol on/off  sekali lagi. Tunggu beberapa detik sebelum mencoba lagi.
	Anda tidak menyambungkan gagang vakum & pel ke peralatan dengan benar.	Letakkan bodi bagian bawah alat pada stasiun Pasca-Pembersihan & Penyimpanan. Kemudian letakkan gagang ke stasiun tersebut dan dorong kuat hingga terdengar bunyi klik.
	Peralatan terjebak.	Matikan peralatan dan keluarkan baterai atau perangkat genggam Vakum & Pel. Kemudian temukan dan singkirkan penghalang. Setelah itu, hidupkan kembali alat. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasi penyebab penghalang, hidupkan kembali alat. Hal ini mungkin sudah menyelesaikan masalahnya. Periksa bukaan saluran masuk udara untuk melihat apakah ada penghalang atau tidak, lalu singkirkan.
	Sikat mikrofiber tersangkut.	Keluarkan sikat mikrofiber dan pasang kembali.
Peralatan berhenti bekerja.	Anda tidak sengaja menyentuh tombol on/off  dengan tangan Anda.	Hidupkan alat dengan menekan tombol  on/off.
	Tangki air kotor mungkin penuh. Dalam kasus ini, ada ikon informasi yang ditampilkan di layar (lihat 'Menampilkan ikon dan artinya').	Kosongkan tangki air kotor.
Lantai tidak terlalu basah seperti biasanya.	Lubang pembuangan air tersumbat	Lepaskan sikat mikrofiber, isi air ke dalam tangki air bersih dan hidupkan alat. Lakukan gerakan maju dan mundur kecil pada posisi yang sama selama sekitar 15 detik. Anda seharusnya dapat melihat empat garis air di lantai. Jika hal ini tidak terjadi, atau jika satu atau lebih garis air hanya terdapat beberapa tetesan, berarti lubang pengeluaran air tersumbat sebagian atau sepenuhnya. Anda dapat mencoba membuka lubang tersebut dengan jarum secara hati-hati.
Satu sisi lantai di bawah nozzle kurang basah dibandingkan sisi lainnya.	Lubang pembuangan air tersumbat.	Lepaskan sikat mikrofiber, isi air ke dalam tangki air bersih dan hidupkan alat. Lakukan gerakan maju dan mundur kecil pada posisi yang sama selama sekitar 15 detik. Anda seharusnya dapat melihat empat garis air di lantai. Jika hal ini tidak terjadi, atau jika satu atau lebih garis air

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
		hanya terdapat beberapa tetesan, berarti lubang pengeluaran air tersumbat sebagian atau sepenuhnya. Anda dapat mencoba membuka lubang tersebut dengan jarum secara hati-hati.
Tidak ada air di lantai.	Tangki air bersih kosong.	Isi ulang tangki air bersih.
		Jika Anda telah memeriksa hal di atas dan masih tidak ada air di lantai, bawa peralatan tersebut ke pusat layanan Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Ada lebih banyak air di lantai atau di baki Pasca-Pembersihan dari biasanya.	Saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin kotor atau tersumbat.	Gunakan sikat pembersih dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin.
	Tangki air kotor tidak ditempatkan dengan benar.	Tempatkan tangki air kotor ke dalam peralatan dengan benar. Penutup sudah dikatakan benar apabila terdengar bunyi 'klik'.
Peralatan tersebut meninggalkan jejak air di lantai.	Anda telah memindahkan peralatan ke samping.	Untuk mencegah jejak air di lantai, usahakan untuk tidak terlalu memutar AquaTrio Seri 7000 Anda dengan kuat dan hindari menggerakkan alat ke samping. Anda dapat mengaktifkan mode penyerapan air  dengan menekan tombol mode pembersihan. Semua sisa air di lantai Anda akan diserap.
	Alat berbelok tajam.	Untuk mencegah jejak air di lantai, usahakan untuk tidak terlalu memutar AquaTrio Seri 7000 Anda dengan kuat dan hindari menggerakkan alat ke samping. Anda dapat mengaktifkan mode penyerapan air  dengan menekan tombol mode pembersihan. Semua sisa air di lantai Anda akan diserap.
	Anda telah mengangkat peralatan melewati ambang pintu, karpet, atau tangga.	Pastikan sikat mikrofiber tetap menyentuh lantai. Pastikan mode penyerapan air  dihidupkan sebelum Anda mengangkat alat melewati ambang pintu, karpet, atau tangga untuk mencegah jejak air di lantai atau untuk mencegah air terciprat dari nozzle AquaSpin.
	Anda mengangkat peralatan tersebut dari lantai segera setelah Anda mematikannya.	Hidupkan mode penyerapan air  untuk menyerap air yang tersisa. Pindahkan alat maju dan mundur beberapa kali dengan mode penyerapan air  diaktifkan sebelum mematikannya. Jika Anda mematikan peralatan dan segera mengangkatnya setelahnya, air yang ada

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
		antara sikat akan meninggalkan jejak air di lantai.
	Roda terhalang.	Periksa kondisi roda. Singkirkan kotoran yang menyumbat roda.
Performa pembersihan peralatan tidak sebaik dulu.	Tangki air bersih kosong.	Isi ulang tangki air bersih.
	Lubang pembuangan air tersumbat.	Lepaskan sikat mikrofiber, isi tangki air bersih dengan air, dan hidupkan alat. Lakukan gerakan maju dan mundur kecil pada posisi yang sama selama sekitar 15 detik. Anda seharusnya dapat melihat empat garis air di lantai. Jika hal ini tidak terjadi, atau jika satu atau lebih garis air hanya terdapat beberapa tetesan, berarti lubang pengeluaran air tersumbat sebagian atau sepenuhnya. Anda dapat mencoba membuka lubang tersebut dengan jarum secara hati-hati.
	Bagian dalam nozzle AquaSpin terlalu kotor.	Jalankan program AUTOCLEAN sebelum kembali membersihkan. Jika ada kotoran terkumpul di tepian nozzle, bersihkan. Pastikan untuk menggunakan fungsi AUTOCLEAN setelah setiap penggunaan.
	Sikat mikrofiber tidak tersedia.	Tempatkan sikat mikrofiber di nozzle AquaSpin.
		Jika Anda telah memeriksa hal di atas dan alat masih tidak membersihkan dengan baik, bawa ke pusat layanan Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Partikel kotoran yang berukuran lebih besar tidak tersedot lagi dan jatuh kembali ke lantai.	Saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin kotor atau tersumbat.	Gunakan sikat pembersih dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin.
Lantai mengering dengan bercak noda.	Anda mungkin menggunakan terlalu banyak deterjen.	Pastikan untuk menggunakan jumlah deterjen yang tepat.
	Roda kotor.	Bersihkan kotoran pada roda.
Terlalu banyak busa saat membersihkan, dan juga selama AUTOCLEAN.	Anda mungkin menggunakan terlalu banyak deterjen.	Pastikan untuk menggunakan jumlah deterjen yang tepat.
	Masih ada sisa deterjen di lantai.	Bersihkan lantai tanpa deterjen beberapa kali. Tunggu sejenak sebelum membersihkan noda yang sama lagi.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Sulit untuk membersihkan noda.	Anda mungkin menggunakan terlalu sedikit air atau menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk membersihkan noda.	Tuangkan air dan tunggu beberapa saat. Misalnya, Anda dapat mengusapkan air ke atas noda menggunakan alat, lalu mengulangnya lagi ke noda yang sama di akhir sesi pembersihan.
Suara alat berubah saat dibersihkan.	Mungkin ada rambut atau penghalang lain yang terlilit di sekitar sikat mikrofiber.	Lepaskan sikat mikrofiber dan periksa apakah ada penghalang, lalu singkirkan.
Layar menunjukkan bahwa tangki air kotor sudah penuh dan nonaktif, meskipun tangki air kotor belum penuh.	Mungkin ada busa atau kontaminasi pada tangki air kotor.	Hidupkan kembali alat. Jika cara tersebut tidak menyelesaikan masalah, bersihkan tangki air kotor. Jika masalahnya adalah busa, pastikan Anda tidak menggunakan lebih dari jumlah deterjen yang disarankan.
Air menetes keluar dari alat setelah dimatikan.	Peralatan meninggalkan genangan air di lantai karena Anda tidak memindahkannya saat mematkannya. Hal ini normal.	Alat dapat meninggalkan genangan air kecil di lantai jika Anda tidak memindahkan alat saat mematkannya. Anda dapat memperkecil ukuran genangan air dengan menggerakkan alat sambil mematkannya. Saat Anda mematikan alat, alat akan beralih ke mode penyerapan air  selama 6 detik untuk membersihkan air yang tersisa di nozzle. Jika perlu, Anda bisa mengelap tetesan terakhir dengan kain.
	Peralatan menetes saat dibawa di atas lantai (diangkat).	Saat membersihkan, jangan mengangkat ujung AquaSpin dari lantai, karena tindakan ini akan meninggalkan jejak air. Lakukan gerakan maju-mundur saja.
	Air bocor dari tangki air bersih karena Anda mengisi tangki air bersih secara berlebihan.	Jangan mengisi tangki air bersih melebihi tanda MAX. Jika dilakukan, air dapat tumpah dari tangki air bersih saat tutup dikencangkan.
	Ada retakan di salah satu tangki.	Jika salah satu tangki rusak, bawa ke pusat layanan Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Saya tidak dapat melepaskan sikat mikrofiber.	Rambut dan/atau kotoran tersangkut di sikat mikrofiber.	Buka kunci sikat dengan menggeser tuas keluar. Putar tuas beberapa kali di kedua arah untuk melonggarkan sikat. Putar ke kiri untuk melepaskan sikat. Jika sikat sulit dilepas, Anda juga dapat mendorongnya dari bagian bawah nozzle AquaSpin. Singkirkan rambut yang kusut atau kotoran. Jika sikat sulit ditarik keluar, Anda dapat mendorongnya dari bagian bawah nozzle AquaSpin.
Saya tidak dapat menggerakkan alat maju atau mundur.	Satu roda atau lebih mungkin terhalang oleh benda kecil.	Buka kunci sikat dengan menggeser tuas keluar. Putar tuas beberapa kali di kedua arah untuk melonggarkan sikat. Putar ke

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
		kiri untuk melepaskan sikat. Jika sikat sulit dilepas, Anda juga dapat mendorongnya dari bagian bawah nozzle aqua spin.
Daya isap alat ini lebih rendah dari biasanya.	Saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin kotor atau tersumbat.	Gunakan sikat pembersih dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau nozzle AquaSpin.
	Jaring di tangki air kotor belum cukup kering sebelum digunakan lagi.	Bersihkan dan keringkan tangki air kotor.
	Rambut kusut pada sikat mikrofiber.	Matikan alat dan singkirkan rambut dari sikat mikrofiber.
	Tangki air kotor tidak ditempatkan dengan benar.	Tempatkan tangki air kotor ke dalam peralatan dengan benar. Penutup sudah dikatakan benar apabila terdengar bunyi 'klik'.
Sikat mikrofiber tidak berputar lagi	Sikat mikrofiber tersumbat oleh rambut atau kotoran.	Bersihkan sikat mikrofiber dengan gunting atau dengan tangan.
Sikat mikrofiber muncul keluar.	Sikat mikrofiber tidak terkunci dengan benar.	Letakkan kembali sikat mikrofiber pada posisi yang benar, lalu kunci.
Daya alat tidak terisi.	Konektor listrik tidak tersambung dengan benar ke soket atau adaptor tidak dimasukkan ke soket dinding dengan benar.	Pastikan konektor listrik tersambung dengan benar ke soket dan adaptor dimasukkan ke soket dinding dengan benar.
	Power house tidak digunakan.	Masukkan power house.
	Power house tidak dimasukkan dengan benar.	Masukkan power house hingga Anda mendengar bunyi klik.
	Adaptor yang tersambung salah.	Gunakan adaptor asli.
		Jika sudah memeriksa semua poin di atas dan daya alat masih belum terisi, bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Saat saya menggunakan penyedot debu, kadang saya merasakan sengatan listrik statis.	Listrik statis meningkat pada alat. Semakin rendah kelembapan udara di ruangan, listrik statis pada alat semakin meningkat.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan Anda saat memegang alat tersebut.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Anda menyedot debu dan kotoran. Hal ini juga dapat menimbulkan listrik statis.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan Anda saat memegang alat tersebut.
Peralatan tidak langsung nonaktif.	Mematikan alat tertunda diaktifkan.	Setelah menekan tombol on/off, alat akan bekerja selama 6 detik sebelum mati sepenuhnya. Hal ini normal. Diperlukan waktu tambahan 6 detik untuk membersihkan sisa air di nozzle dan di lantai.

Menggunakan Peralatan vakum saja

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak bekerja saat saya menekan tombol  on/off.	Anda tidak menyambungkan power house.	Sambungkan power house ke perangkat genggam Vakum saja.
	Baterai habis.	Untuk mengisi daya baterai, sambungkan Peralatan vakum saja dengan pengisi daya (lihat 'Pengisian daya').
	Anda menekan tombol on/off  lebih dari satu kali.	Tunggu beberapa detik dan tekan tombol on/off  sekali lagi. Tunggu beberapa detik sebelum mencoba lagi.
	Peralatan terjebak.	Matikan alat dan lepaskan baterai atau powerhouse. Setelah itu, temukan dan singkirkan penyebab penghalang. Setelah itu, hidupkan kembali alat. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasi penyebab penghalang, hidupkan kembali alat. Hal ini mungkin sudah menyelesaikan masalahnya.
	Sikat rol macet.	Keluarkan sikat rol dan singkirkan semua rambut di sekitar sikat dan motor, lalu pasang kembali.
Anda tidak dapat menyambungkan perangkat genggam ke wadah debu.	Kotak filter dirakit terbalik.	Balikkan kotak filter. Bukaan bundar harus terlihat.
	Kotak filter tidak ditutup dengan benar.	Pastikan Anda mendengar bunyi klik saat menutup kotak filter. Jika sulit ditutup, filter busa mungkin diletakkan terbalik.
Peralatan berhenti bekerja.	Anda tidak sengaja menyentuh tombol on/off  dengan tangan Anda.	Hidupkan alat dengan menekan tombol  on/off.
	Peralatan terjebak.	Matikan alat dan lepaskan baterai atau powerhouse. Setelah itu, temukan dan singkirkan penyebab penghalang. Setelah itu, hidupkan kembali alat. Jika Anda tidak


Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
		dapat mengidentifikasi penyebab penghalang, hidupkan kembali alat. Hal ini mungkin sudah menyelesaikan masalahnya.
Suara alat berubah saat dibersihkan.	Mungkin ada rambut atau penghalang lain yang terlilit pada sikat rol.	Periksa penghalang dan singkirkan penghalang.
	Ada penghalang yang menghalangi siklon tersebut.	Periksa siklon apakah ada penghalang dan singkirkan.
Daya isap alat ini lebih rendah dari biasanya.	Filter dan/atau siklon kotor.	Kosongkan wadah debu. Bersihkan filter dan siklon. Pastikan Anda menghilangkan rambut dan kotoran yang tersangkut di siklon. Anda dapat melepas siklon untuk perawatan yang mudah. Pastikan Anda mencuci filter setidaknya sebulan sekali jika Anda menggunakan alat tersebut secara teratur.
	Ada sesuatu yang menghalangi siklon.	Periksa apakah ada sesuatu yang tersangkut di siklon, lalu ambil benda yang menghalangi siklon. Pastikan Anda menghilangkan rambut dan kotoran yang tersangkut di siklon.
	Saluran isap di belakang sikat rol tersumbat.	Lepaskan sikat rol dan periksa saluran isap untuk melihat ada atau tidaknya penghalang, lalu singkirkan penghalang tersebut.
	Anda belum memasang kotak filter dengan benar pada wadah debu, atau Anda belum memasang wadah debu dengan benar pada alat. Kedua kondisi ini akan membuat alat kehilangan daya isap.	Pastikan Anda memasang kotak filter ke tempat debu dan tempat debu ke alat dengan benar.
	Sikat tersumbat oleh rambut atau kotoran.	Matikan alat dan bersihkan sikat rol dengan gunting atau dengan tangan.
Ada debu yang keluar dari alat.	Filter busa tidak ada dalam kotak filter, atau penutup atas tidak ada.	Pastikan filter telah dipasang pada alat dan dirakit dengan benar.
Debu keluar saat wadah debu dibuka.	Ini adalah perilaku normal akibat tekanan yang kurang.	Jika memungkinkan, buka peralatan di luar.
Peralatan tersebut tidak bergerak dengan lancar di lantai saat saya membersihkan karpet.	Anda memilih daya isap yang terlalu tinggi.	Kurangi daya isap dengan memilih pengaturan 1 atau gerakkan lebih perlahan di atas karpet.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Sikat rol tidak mau berputar.	Sikat rol tersumbat oleh rambut atau kotoran.	Bersihkan sikat rol dengan gunting atau dengan tangan.
	Sikat rol dapat berhenti berputar ketika tertahan oleh serat yang tebal dari karpet.	Matikan alat lalu hidupkan kembali.
	Anda belum memasang sikat rol ke dalam nozzle dengan benar setelah dibersihkan.	Anda belum memasang sikat rol ke dalam nozzle dengan benar setelah dibersihkan. Kencangkan sikat rol di dalam nozzle dengan memasang tuas pengunci dengan benar.
LED di nozzle tidak menyala.	Anda belum memasang nozzle pada tabung atau peralatan dengan benar.	Pasang nozzle ke tabung atau peralatan dengan benar. Jika cara ini tidak membantu, bawa ke pusat layanan Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Daya alat tidak terisi.	Konektor tidak tersambung dengan benar ke stopkontak atau adaptor tidak dimasukkan ke soket dinding dengan benar.	Pastikan konektor tersambung dengan benar ke stopkontak dan adaptor dimasukkan ke soket dinding dengan benar.
	Power house tidak digunakan.	Masukkan power house.
	Power house belum terpasang sepenuhnya.	Masukkan power house hingga Anda mendengar bunyi klik.
	Adaptor yang tersambung salah.	Gunakan adaptor asli.
		Jika sudah memeriksa semua poin di atas dan daya alat masih belum terisi, bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Sikat Mini Turbo tidak berfungsi dengan baik.	Sikat rol tersumbat.	Singkirkan rambut dari sikat dengan gunting.
	Sikat rol tersumbat oleh kain atau permukaan saat membersihkan.	Pastikan sikat Turbo mini selalu sejajar dengan permukaan dan jangan menekan sikat Turbo pada permukaan yang lunak.
	Sikat rol tidak dimasukkan dengan benar ke dalam nozzle.	Pastikan sikat rol terpasang dengan benar ke dalam nozzle dan tidak ada celah di antara komponen.
Saat saya menggunakan penyedot debu, kadang saya merasakan sengatan listrik statis.	Listrik statis meningkat pada alat. Semakin rendah kelembapan udara di ruangan, listrik statis pada alat semakin meningkat.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan Anda saat memegang alat tersebut.
	Anda menyedot debu dan kotoran. Hal ini juga dapat menimbulkan listrik statis.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan saat Anda memegang alat.

Kandungan

Gambaran keseluruhan	96
Pengenalan	97
Perihalan umum	97
Sebelum penggunaan pertama	97
Pengecasan	102
Memvakum dan mengelap lantai keras	104
Pemvakuman lantai lembut dan keras	109
Pembersihan set Vakum & Mop	115
Pembersihan set Vakum sahaja	123
Paparkan ikon dan maknanya	130
Penggantian	132
Penyelesai Masalah	133

Gambaran keseluruhan



Pengenalan

Terima kasih kerana membeli produk Philips ini! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/myvacuum9000s.


Perihalan umum

- 1 Lekapan dinding
- 2 Muncung celah
- 3 Muncung 2 dalam 1
- 4 Butang turbo vakum kering
- 5 Butang hidup/mati vakum kering
- 6 Pemegang & baldi habuk vakum kering
- 7 Tiub lanjutan
- 8 Penyimpanan aksesori pada tiub
- 9 Muncung vakum
- 10 Berus turbo bermotor
- 11 Penyesuai
- 12 Kotak kuasa
- 13 Penunjuk mod basah yang tinggi
- 14 Penunjuk penuh DWT
- 15 Penunjuk AutoClean
- 16 Penunjuk bateri
- 17 Penunjuk penyerapan air
- 18 Penunjuk muncung tersumbat
- 19 Penunjuk ralat
- 20 Penunjuk turbo kering
- 21 Pemegang vakum basah
- 22 Butang tukar mod sedutan
- 23 Butang hidup/mati vakum basah
- 24 Butang bersih auto
- 25 Tangki air bersih
- 26 Tangki air kotor
- 27 Muncung AquaSpin
- 28 Berus pembersih 2 dalam 1
- 29 Stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan
- 30 Dulang Selepas Pembersihan
- 31 Detergen

Sebelum penggunaan pertama

Pemasangan stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan


Untuk menggunakan fungsi AUTOCLEAN atau menyimpan dan mengecas perkakas ini pada stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan, anda perlu




memasang stesen tersebut terlebih dahulu dengan mengklik pemegang perkakas ke dalam plat tapak.

i Nota: Pastikan dulang Selepas Pembersihan diletakkan dalam plat tapak dan suhu di dalam bilik perkakas disimpan, dicas dan dibersihkan adalah antara 5 °C dan 35 °C.

Pemasangan lekapan dinding



Jika anda ingin menyimpan dan mengecas set Vakum sahaja pada lekapan dinding, pasang lekapan dinding di dinding menggunakan skru yang dibekalkan. Pastikan lekapan dinding berada 105 - 115 cm di atas lantai.




i Nota: Set Vakum & Mop tidak boleh disimpan pada lekapan dinding. Hanya set Vakum sahaja boleh disimpan pada lekapan dinding.


i Nota: Pastikan suhu di dalam bilik yang menyimpan perkakas ini atau dicas pada suhu antara 5 °C dan 35 °C.

⚠ **Awas:** Untuk mengelak risiko kejutan elektrik, berhati-hatilah semasa mengerudi lubang pada dinding untuk memasang lekapan dinding.


Pemasangan set Vakum & Mop



- 1 Untuk memasang perkakas ini, masukkan pemegang ke dalam badan utama ('klik').




- 2 Masukkan kuasa dalam batang modul basah di atas tangki air Kotor (Klik!).



- 3 Untuk menyimpan set Vakum & Mop, anda boleh menempatkan perkakas ini dalam stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan.

Membongkar pemegang

Jika anda perlu menanggalkan perkakas semula, ikuti langkah-langkah berikut:




- 1 Masukkan pemutar skru pin/kepala rata ke dalam lubang di belakang perkakas dan tarik pemegang perkakas.




- 2 Tarik pemegang keluar daripada perkakas sambil terus menolak pemutar skru ke dalam lubang tersebut.

i Nota: Harap maklum sebilangan kecil sisa air bersih mungkin terdapat di dalam muncung dan tangki. Ini hasil pemeriksaan kualiti kilang. Jangan risau, peranti ini benar-benar bersih dan selamat untuk digunakan.


Memasang Pemasangan Vakum sahaja




- 1 Untuk memasang persediaan vakum sahaja, luncurkan pusat kuasa pada kedudukan di bawah pemegang (Klik!).



- 2 Pasang baldi yang dipegang tangan pada tiub (Klik).




- 3 Masukkan Tiub ke dalam muncung LED.




- 4 Untuk menyimpan persediaan vakum anda sahaja, letakkannya di pelekap dinding. Luncurkan baldi ke dalam pelekap dinding untuk muat dengan selamat.

Mengeluarkan dan memasang pusat kuasa

Mengalih keluar dan memasang kuasa dalam persediaan Vakum sahaja




- 1 Tekan butang di sisi pemegang.
- 2 Sambil terus menekan butang, luncurkan keluar pusat kuasa dari pegang tangan.




- 3 Untuk memasang pusat kuasa, hanya luncurkannya ke kedudukan di bawah pemegang (klik!). Pastikan untuk menjajarkan penyambung dengan betul untuk kesesuaian yang selamat.

Mengalih keluar dan memasang kuasa dalam persediaan Vakum & Mop sahaja



- 1 Tekan butang di sisi peranti.
- 2 Sambil terus menekan butang, luncurkan keluar pusat kuasa dari tangki air kotor.




- 3 Untuk memasang pusat kuasa, hanya luncurkannya ke kedudukan (klik!). Pastikan untuk menjajarkan penyambung dengan betul untuk kesesuaian yang selamat.

Pengecasan

Pengecasan untuk persediaan Vakum & Mop

Perkakas ini dilengkapi dengan bateri Li-Ion 25 V. Pengecasan mengambil masa 4 jam.



- 1 Untuk mengecas perkakas, buka penutup kedap di belakang perkakas.
- 2 Masukkan palam kuasa ke dalam soket di belakang perkakas.

- 3 Masukkan penyesuai dalam soket dinding




- 4 Ikon bateri dan segmen bulat akan berkelip pada skrin untuk menunjukkan bahawa perkakas sedang dicas.




- 5 Apabila perkakas dicas sepenuhnya, ikon bateri dan semua segmen bulat akan menyala pada skrin. Selepas beberapa minit, paparan akan dimatikan.





- 6 Cabut palam kuasa daripada soket di belakang perkakas sebelum menggunakannya bagi pembersihan.




- 7 Tutup penutup kedap.

 Petua: Anda boleh mengecas perkakas dalam stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan.


 Petua: Anda boleh mengecas perkakas secara berasingan di tempat yang paling sesuai untuk anda.

Pengecasan untuk persediaan Vakum sahaja

Perkakas ini dilengkapi dengan bateri Li-Ion 25 V. Pengecasan mengambil masa 4 jam.




- 1 Untuk mengecas perkakas ini, masukkan palam kuasa ke dalam soket di belakang perkakas.



- 2 Luncurkan pegang tangan dengan baldi ke dalam pelekap dinding.

- 3 Masukkan penyesuai dalam soket dinding




- 4 Ikon bateri dan segmen bulat akan berkelip pada skrin untuk menunjukkan bahawa perkakas sedang dicas.



- 5 Apabila perkakas dicas sepenuhnya, ikon bateri dan semua segmen bulat akan menyala pada skrin. Selepas beberapa minit, paparan akan dimatikan.



- 6 Cabut palam kuasa daripada soket di belakang perkakas sebelum menggunakannya bagi pembersihan.



💡 Petua: Anda boleh mengecap perkakas apabila perkakas dipasangkan pada lekapan dinding.

💡 Petua: Anda boleh mengecap perkakas secara berasingan di tempat yang paling sesuai untuk anda.


Memvakum dan mengelap lantai keras

Menggunakan perkakas


Tangki air bersih dan tangki air kotor sudah disambungkan kepada perkakas semasa penghantaran. Anda boleh menggunakan perkakas untuk membersihkan lantai keras.

i Nota: Perkakas ini sesuai untuk pemvakuman dan pengelapan pada masa yang sama. Tidak perlu memvakum lantai sebelum mengelap. Perkakas ini sesuai untuk pemvakuman dan pengelapan semua jenis lantai keras,

kecuali lantai kayu tidak bersalut. Anda boleh menguji perkakas di kawasan kecil yang tidak begitu kelihatan untuk memastikan perkakas tersebut sesuai untuk lantai anda.




- 1 Tekan butang ke bawah untuk membuka kunci tangki air bersih dan keluarkan tangki air bersih.




- 2 Buka penutup pada tangki air bersih.



- 3 Tambahkan 15 ml Pembersih Lantai Philips XV1792 ke tangki air bersih.




⚠ Awas: Philips telah menguji perkakas ini dengan Pembersih Lantai Philips XV1792. Bahan pencuci lain boleh menyebabkan pembuihan yang berlebihan, yang mengurangkan prestasi dan boleh menyebabkan perkakas ini pincang tugas. Pembersih Lantai Philips XV1792 tersedia di pasaran tertentu. Apabila menggunakan pembersih lantai cecair lain yang sesuai, tambahkan maksimum 10 ml ke tangki air bersih.




- 4 Isikan tangki air bersih hingga penuh dengan air paip sejuk atau suam.


⚠ Awas: Air paip yang dituang ke dalam tangki air bersih tidak harus lebih panas daripada 50°C.




5 Tutup penutup kedap tangki air.



6 Letakkan tangki air bersih kembali ke dalam perkakas.




7 Keluarkan perkakas dari stesen Selepas Pembersihan (After-Clean) & Penyimpanan dan letakkan di atas lantai. Letakkan kaki anda pada muncung AquaSpin dan tarik pemegang ke belakang untuk membuka kunci muncung AquaSpin. Perkakas kini sedia untuk digunakan.



8 Untuk menghidupkan perkakas, tekan butang hidup/mati .

i Nota: Perkakas akan dihidupkan secara automatik dalam mod basah biasa.

⚠ Awas: jangan biarkan perkakas tanpa pengawasan apabila muncung AquaSpin dibuka kunci atau apabila perkakas dihidupkan.



9 Gunakan butang tukar mod  untuk menogol antara tiga tetapan yang berbeza:

- Mod basah biasa (secara automatik apabila dimulakan)
- Mod basah yang tinggi
- Mod penyerapan air

Mod basah biasa ialah tetapan lalai apabila perkakas Vakum & Mop dihidupkan. Anda boleh menggunakan mod ini untuk pembersihan basah biasa.

Mod basah yang tinggi  adalah untuk pembersihan kesan kotoran sangat sukar dihilangkan.

Jika terdapat bintik basah di atas lantai selepas pembersihan, anda boleh memilih mod penyerapan air  untuk membersihkan bintik basah. Kami juga

mengesyorkan penggunaannya semasa mengangkat perkakas melintas bendul, permaidani atau tangga.

Jika anda memilih mod penyerapan air , perkakas akan berhenti membekalkan air dan meningkatkan kuasa sedutan selama 45 saat untuk menyerap baki air di atas lantai.

Apabila anda selesai menggunakan perkakas, matikan perkakas dengan menekan butang hidup/mati. Perkakas akan bertukar kepada mod penyerapan air selama 6 saat untuk membersihkan apa-apa air yang baki dalam muncung.

i Nota: Perkakas ini boleh meninggalkan lopak kecil air di atas lantai jika anda tidak menggerakkan perkakas semasa memamatkannya. Anda boleh mengurangkan saiz lopak tersebut dengan menggerakkan perkakas ini semasa memamatkannya. Jika perlu, anda boleh mengelap titisan terakhir dengan kain.

i Nota: Kelewatan masa tutup: Selepas menekan butang hidup/mati, perkakas akan berjalan selama 6 saat sebelum dimatikan sepenuhnya. Ini perkara biasa. 6 saat tambahan diperlukan untuk membersihkan sebarang air yang tinggal di dalam muncung dan di atas lantai

Jeda fungsi dalam persediaan Vakum & Mop


Perkakas mempunyai fungsi jeda.

Semasa penggunaan, jika pemegang ditolak ke hadapan dan dikunci dalam kedudukan tegak, peranti akan masuk ke mod siap sedia dan berhenti seketika selama 15 saat.



Untuk memulakan semula pembersihan, letakkan kaki anda pada muncung aqua spin dan tarik kembali pemegang dalam masa 15 saat. Peranti akan menyambung semula pembersihan secara automatik.

i Nota: Peranti akan dimatikan secara automatik jika tiada aktiviti selepas 15 saat menggunakan fungsi jeda. Untuk memulakan semula peranti selepas pepadaman automatik, hanya tekan butang hidup/mati.



Sistem perlindungan aktif

- Perkakas ini dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif. Sistem perlindungan aktif ini telah direka untuk mengenali apabila objek asing selain daripada habuk atau cecair dikutip dari lantai.
- Apabila sistem diaktifkan, perkakas dimatikan dan ikon ralat yang disekat muncung akan mula berkelip pada paparan (lihat ikon paparan dan maknanya). Sistem perlindungan aktif juga boleh diaktifkan apabila berus mikrofiber terlalu basah, apabila anda menggerakkan perkakas di atas permaidani atau ambal, atau apabila anda menggerakkan perkakas di atas lantai yang tidak dilekatkan dengan betul.

Petua dan maklumat penting yang lain

- Tidak perlu memvakum lantai sebelum mengemop kerana set Vakum & Mop akan membersihkan lantai keras anda secara aktif untuk menangkap semua jenis habuk, termasuk cecair dan kesan kotoran. Gunakan set Vakum sahaja pada permaidani dan ambal.
- Jika lantai keras anda tidak perlu dilap, hanya gunakan set Vakum sahaja yang menampilkan lampu LED dan teknologi PowerCyclone 12 untuk pengutipan habuk yang tepat dan kuat.
- Anda boleh menggerakkan perkakas ini se pantas pembersih vakum. Untuk menanggalkan kesan kotoran yang sukar dihilangkan, klik butang mod membersih untuk mengaktifkan mod basah yang tinggi  dan menggerakkan perkakas secara perlahan ke atas kesan kotoran tersebut.
- Perkakas ini boleh meninggalkan lopak kecil air di atas lantai jika anda tidak menggerakkan perkakas semasa memamatkannya. Anda boleh mengurangkan saiz lopak tersebut dengan menggerakkan perkakas ini semasa memamatkannya. Jika perlu, anda boleh mengelap titisan terakhir dengan kain.
- Anda disyorkan untuk mengaktifkan mod penyerapan air  semasa mengangkat perkakas melintas bendul, permaidani atau tangga semasa pembersihan. Tindakan ini akan mencegah air kotor daripada menitis keluar daripada muncung AquaSpin.
- Semasa menggerakkan perkakas, anda disyorkan untuk meregangkan lengan anda untuk mengurangkan tekanan yang tidak diperlukan pada otot. Dalam posisi ini, anda dapat mengawal perkakas ini dengan baik semasa pembersihan, dan posisi ini adalah yang paling selesa.

i Nota: Apabila anda menggunakan mod penyerapan air , tiada lagi air yang keluar dari perkakas dan kuasa sedutan meningkat. Selepas 45 saat, jika anda tidak mengambil apa-apa tindakan, perkakas ditukar kembali kepada mod basah yang normal secara automatik.

i Nota: Harap maklum sebilangan kecil sisa air bersih mungkin terdapat di dalam muncung dan tangki. Ini hasil pemeriksaan kualiti kilang. Jangan risau, peranti ini benar-benar bersih dan selamat untuk digunakan.

Sekatan penggunaan

- Set Vakum & Mop ini sesuai untuk pemvakuman dan pengelapan semua jenis lantai keras, kecuali lantai kayu tidak bersalut.
- Set Vakum & Mop bertujuan untuk pembersihan biasa lantai keras. Sentiasa ikuti arahan pembersihan untuk lantai keras anda apabila anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda ingin menambah pembersih lantai cecair selain daripada Pembersih Lantai Philips XV1792 ke dalam air di dalam tangki air bersih, pastikan anda menggunakan pembersih lantai cecair kurang buih atau tidak berbuih yang boleh dicairkan dalam air seperti Pembersih Lantai Philips XV1792.
- Memandangkan kapasiti tangki air Bersih mempunyai kapasiti 450ml, anda hanya perlu menambah beberapa titis (maks 15ml) cecair pembersih lantai ke dalam air.
- Jika anda menggunakan set Vakum & Mop ke atas lantai linoleum, hanya lakukan demikian ke atas lantai linoleum yang dilekatkan dengan betul untuk mencegah linoleum daripada ditarik ke dalam muncung AquaSpin.
- Jangan gunakan set Vakum & Mop air untuk membersihkan permaidani.

- Jika anda menggerakkan/mengangkat perkakas di atas permaidani atau ambal semasa perkakas dimatikan, titisan air sisa mungkin akan terjatuh ke atas permaidani atau ambal anda.
- Jangan tolak perkakas ini di atas jeriji lantai pemanas konvektor. Oleh sebab perkakas ini tidak boleh menyedut air yang keluar daripada muncung apabila anda menggerakkannya di atas jeriji, air akan tertinggal di bahagian bawah lubang konvektor.
- Semasa pembersihan, jangan angkat muncung AquaSpin dari lantai atau menggerakkan muncung AquaSpin ke tepi, dan jangan melakukan belokan yang kuat kerana tindakan ini akan meninggalkan kesan air. Hanya bergerak ke hadapan dan belakang.


i Nota: Masa operasi bergantung pada paras kuasa yang digunakan semasa pembersihan.

Pemvakuman lantai lembut dan keras


Penggunaan set Vakum sahaja



- 1 Untuk mengosongkan lantai lembut atau keras, luncurkan kuasa besar pada kedudukannya dalam pegang tangan (Klik!).




- 2 Sambungkan tiub ke pegang tangan (klik)".




- 3 Masukkan hujung tiub yang lain ke dalam muncung LED (klik).

⚠ **Awas: Pastikan bekas penapis dimasukkan ke dalam baldi habuk sebelum meneruskan pembersihan.**




- 4 Untuk menghidupkan perkakas, tekan butang hidup/mati ①.

i Mod sedutan biasa ialah tetapan lalai apabila perkakas Vakum sahaja atau pegang tangan vakum sahaja dihidupkan.



- 5 Gunakan butang Turbo ② untuk bertukar kepada tetapan kuasa sedutan yang lebih tinggi.



- 6 Tekan butang Turbo ② sekali lagi untuk menukar kembali kepada tetapan kuasa biasa.




⚠ Petua: LED dalam muncung LED menjadikannya mudah untuk melihat habuk di atas lantai. Tiub dan muncung LED membenarkan anda mencapai di bawah perabot rendah tanpa perlu memutarakan perkakas.

⚠ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.



⚠ Awas: Jangan lihat terus ke dalam LED muncung LED atau halakan LED pada mata seseorang. Lampu LED sangat terang.

Penggunaan tiub



Anda boleh memasang tiub kepada alat tangan dan menggunakan tiub itu tanpa muncung untuk memvakum ruang sempit di antara atau di sebalik perabot dengan hujung tiub.



 Petua: Berus Turbo Mini juga boleh dipasang kepada tiub.




 Petua: Alat ceruk panjang juga boleh dipasang kepada tiub.



 Petua: Ia juga mungkin untuk menambah alat gabungan ke tiub.

Penggunaan alat tangan




Tanpa muncung dan tiub, anda boleh menggunakan alat tangan untuk membersihkan tompokan habuk dan kotoran yang kecil, seperti serbuk roti yang tumpah atau untuk memvakum tangga dan rak.

⚠️ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.


Penggunaan muncung LED

Anda boleh menggunakan muncung LED untuk membersihkan kawasan, seperti anak tangga, untuk memvakum habuk di sudut atau belebas sempit atau untuk membersihkan tompokan habuk kecil, seperti serbuk roti yang tumpah.

- 1 Untuk memasang muncung LED, masukkan tiub atau alat tangan ke dalam muncung.




- 2 Untuk mencabut muncung LED, tekan butang pelepas (1) dan tarik tiub atau alat tangan daripada muncung (2).




⚠️ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.

i Nota: Ia juga mungkin untuk menambah alat gabungan ke tiub.


Penggunaan berus Turbo Mini




- 1 Untuk memasang berus Turbo Mini, masukkan tiub alat tangan ke dalam berus Turbo Mini.



- 2 Anda boleh menggunakan berus Turbo Mini untuk pembersihan standard, sebagai contoh kawasan lembut seperti katil dan sofa. Anda boleh melaraskan tetapan kuasa untuk memenuhi keperluan pembersihan anda.



- 3 Anda boleh menggunakan berus Turbo Mini untuk pembersihan teliti tambahan, sebagai contoh untuk memvakum bulu haiwan kesayangan atau untuk membersihkan tompokan habuk kecil, seperti serbuk roti yang tumpah. Anda boleh melaraskan tetapan kuasa untuk memenuhi keperluan pembersihan anda.




- 4 Untuk menanggalkan berus Turbo Mini, tekan butang pelepas (1) dan tarik alat tangan daripada berus Turbo Mini (2).




⚠️ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.


Penggunaan alat ceruk panjang



- 1 Untuk memasang alat ceruk panjang, masukkan tiub atau alat tangan ke dalam alat ceruk panjang.



- 2 Anda boleh menggunakan alat ceruk panjang untuk membersihkan sudut yang sempit atau tempat yang sukar dicapai. Anda boleh melaraskan tetapan kuasa untuk memenuhi keperluan pembersihan anda.



- 3 Untuk menanggalkan alat ceruk panjang, tekan butang pelepas (1) dan tarik tiub atau alat tangan daripada alat ceruk panjang (2).




⚠️ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.


Menggunakan alat gabungan



- 1 Untuk memasang alat gabungan, masukkan tiub atau alat tangan ke dalam alat gabungan.



- 2 Alat gabungan direka untuk membersihkan bingkai tingkap, langsir, atau sarang lelabah, dengan tetapan pelepasan berus dan pencahayaan.



- 3 Untuk menanggalkan alat gabungan, tekan butang pelepas (1) dan tarik tiub atau alat tangan daripada alat gabungan (2).




⚠️ Amaran: Jangan vakum air atau cecair lain.


Pembersihan set Vakum & Mop

AUTOCLEAN selepas setiap penggunaan


Untuk mencegah bau busuk dan endapan sisik, gunakan fungsi AUTOCLEAN selepas setiap penggunaan. Mod AUTOCLEAN membantu anda membersihkan perkakas penuh anda dalam masa lebih kurang 4 minit.




- 1 Letakkan set Vakum & Mop dalam stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan.




i Nota: Jika paras air kotor berada di bawah paras AUTOCLEAN, tangki tersebut tidak perlu dikosongkan sebelum memulakan program AUTOCLEAN. Anda boleh melangkau langkah yang berikut dan maju ke langkah 6.




- 2 Tekan butang untuk membuka kunci tangki air kotor dan keluarkan tangki tersebut.




- 3 Keluarkan penapis basah daripada tangki air kotor.




- 4 Tuangkan air keluar daripada tangki air kotor ke dalam sink.




- 5 Letakkan penapis basah kembali pada tangki air kotor.




- 6 Letakkan tangki air kotor yang kosong kembali ke dalam perkakas dan keluarkan tangki air yang bersih.



7 Tanggalkan penutup daripada tangki air bersih.




8 Tuangkan apa-apa baki cecair bahan pencuci daripada tangki air bersih ke dalam sink.




9 Isikan tangki air bersih dengan air paip sejuk atau suam sekurang-kurangnya sehingga penunjuk AUTOCLEAN.

⚠ Awas: Air paip yang dituang ke dalam tangki air bersih tidak harus lebih panas daripada 50°C.


⚠ Awas: Jangan guna bahan pencuci untuk AUTOCLEAN kerana tindakan ini boleh menyebabkan pembuihan yang berlebihan.



10 Tutup tangki air dengan penutup kedap.



11 Letakkan tangki air bersih kembali ke dalam perkakas.




- 12** Cas alat tersebut. Masukkan palam kuasa ke dalam soket di belakang perkakas. Kemudian masukkan penyesuai ke dalam soket dinding.

i Nota: Ia perlu untuk menyambungkan pengecas untuk memulakan fungsi AUTOCLEAN.




- 13** Untuk memulakan kitaran AUTOCLEAN, tekan butang Auto-Clean. Pastikan pengecas disambungkan sebelum memulakan Autoclean.




- 14** Perkakas melakukan kitaran AUTOCLEAN.


i Nota: Kitaran AUTOCLEAN bertahan selama lebih kurang 4 minit. Untuk hasil yang terbaik, biarkan perkakas menjalani kitaran AUTOCLEAN dengan sepenuhnya. Anda boleh berhenti seketika atau membatalkan kitaran AUTOCLEAN pada bila-bila masa.

i Nota: Jika anda membatalkan program AUTOCLEAN, perkakas akan menyedut baki air dalam dulang Selepas Pembersihan selama lebih kurang 10 saat.




- 15** Selepas AUTOCLEAN selesai, tekan butang untuk membuka kunci tangki air kotor dan mengeluarkannya.






16 Keluarkan penapis basah daripada tangki air kotor.



17 Tuangkan air keluar daripada tangki air kotor ke dalam sink.




18 Bersihkan tangki air kotor di bawah paip.




19 Bersihkan penapis basah di bawah paip.


i Nota: Tanggalkan penapis berlipat sebelum mencuci unit penapis basah di bawah paip.



⚠ Amaran: Penapis berlipat tidak boleh dicuci. Jika anda perlu membersihkannya, ketuk perlahan-lahan pada tong sampah anda untuk mengeluarkan sebarang kotoran yang terperangkap di dalamnya.




20 Biarkan penapis basah kering.




21 Letakkan penapis basah kembali pada tangki air kotor.


i Nota: Pastikan penapis berlipat dimasukkan ke tempatnya.



22 Letakkan semula tangki air kotor ke dalam perkakas.



23 Untuk mengeluarkan berus, tarik keluar tuil dari sisi (1) dan putar lawan jam (2). Tarik keluar berus dari muncung aquaspin (3)




24 Untuk membenarkan berus kering, letakkan hujung terbuka berus pada pemegang yang ditetapkan pada Stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan.

i Nota: Pengeringan boleh mengambil masa lebih kurang 24 jam.


Pembersihan dulang Selepas Pembersihan

Jika dulang Selepas Pembersihan menjadi kotor, anda boleh membersihkan dulang tersebut dengan mengikut langkah-langkah di bawah.


- 1 Keluarkan dulang Selepas Pembersihan daripada stesen penyimpanan.



- 2 Bilas dulang Selepas Pembersihan di bawah paip dan biarkan ia kering sebelum meletakkan semula dulang Selepas Pembersihan ke dalam stesen Penyimpanan.





- 3 Pastikan untuk sentiasa meletakkan semula dulang Selepas Pembersihan ke dalam stesen Penyimpanan. Dulang Selepas Pembersihan penting untuk menjalankan AUTOCLEAN dengan betul.




Pembersihan muncung AquaSpin

- 1 Untuk mengeluarkan berus, tarik keluar tuil dari sisi (1) dan putar lawan jam (2). Tarik keluar berus dari muncung aquaspin (3).






- 2 Anda boleh mengeluarkan rambut atau benang yang tersangkut daripada berus mikrofiber dengan meluncurkan berus mikrofiber ke bawah dengan satu tangan.




Petua: Anda juga boleh menggunakan gunting untuk memotong rambut dan benang yang tersangkut di sekeliling berus mikrofiber.

Mengeluarkan halangan daripada badan utama



Jika terdapat halangan dalam perkakas, matikan perkakas terlebih dahulu dan keluarkan tangki air kotor. Kemudian keluarkan halangan dengan menggerakkan berus pembersihan ke atas dan bawah dalam saluran sedutan badan utama.

Pengeluaran halangan daripada muncung AquaSpin





Jika terdapat halangan dalam muncung AquaSpin, tanggalkan berus daripada muncung. Kemudian gerakkan berus pembersihan ke atas dan bawah dalam saluran sedutan muncung AquaSpin.

Pembersihan set Vakum sahaja


Pengosongan timba habuk

Penyelenggaraan sistem pengurusan debu


Kosongkan timba habuk selepas setiap kali guna atau apabila habuk sampai ke penunjuk paras MAKS.



1 Matikan perkakas.



2 Pegang perkakas pada sudut 45 darjah seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Tanggalkan timba habuk dengan menekan butang pelepas. Butang pelepasan terletak pada bahagian bawah timba.







i Nota: Tanggalkan timba habuk sementara memastikan perkakas dalam keadaan menegak.




- 3 Pegang pada bahagian gengaman. Tanggalkan siklon daripada timba habuk dengan mengangkat keluar timba.




- 4 Kosongkan habuk yang terkumpul dalam timba habuk ke dalam tong sampah.



- 5 Keluarkan sisa habuk dari siklon dengan mengetuknya perlahan-lahan pada tong sampah.



- 6 Letakkan kembali siklon ke dalam timba habuk. Pastikan kedua-dua bahagian itu sejajar.




- 7 Letakkan kembali timba yang telah dipasangkan. Pertama, sejajarkan sebelah penapis sebelum menyangkut pada tempat.


Penyelenggaraan berkala dari semasa ke semasa

Penyelenggaraan sistem pengurusan debu


Bersihkan penapis sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.




- 1 Putarkan kaunter penapis mengikut arah jam untuk menanggalkan daripada timba habuk.



- 2 Tanggalkan penapis busa boleh cuci daripada selongsong penapis plastik.




- 3 Ketuk selongsong penapis dan juga penapis busa ke dalam tong sampah.




- 4 Bilas penapis busa dan perah sehingga air bersih keluar.


i Nota: untuk memastikan hasil yang terbaik lalukan air melalui penapis dengan tab penapis menghala ke bawah, membolehkan debu yang terlekat di dalam dibilas keluar.

i Nota: Pastikan anda mencuci penapis sekurang-kurangnya sekali sebulan jika anda menggunakan perkakas secara kerap.



- 5 Biarkan penapis yang telah dicuci supaya kering selama 24 jam sebelum memasang semula penapis busa ke dalam selongsong penapis.






- 6 Untuk penyelenggaraan yang menyeluruh, bersihkan timba habuk dan siklon di bawah pili air yang mengalir, atau dalam air bersabun suam.




- 7 Lap timba habuk yang telah dibersihkan dan bahagian yang berkaitan hingga kering.




⚠ Awas: Pastikan semua bahagian telah benar-benar kering sebelum anda memasang semula perkakas.




i Nota: semua bahagian tidak boleh dibersihkan di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.



- 8 Pasangkan semula penapis ke dalam timba habuk. Putar penapis mengikut arah jam untuk memastikan penapis terpasang dengan kukuh.




- 9 Letakkan kembali timba yang telah dipasangkan. Pertama, sejajarkan sebelah penapis sebelum menyangkut pada tempat.




i Nota: Selepas penyelenggaraan, sentiasa pastikan bahawa penapis dipasang di dalam perkakas sebelum guna.


Penyelenggaraan Muncung Pintar PrecisionPower




- 1 Sentiasa matikan perkakas sebelum membersihkan gulungan berus muncung.




- 2 Untuk mengakses gulungan berus, cari butang pada bahagian tepi muncung. Tekan dan putar untuk buka.




- 3 Keluarkan gulungan berus dan penutup sisi mudah muncung dengan perlahan-lahan.



- 4 Keluarkan apa-apa rambut yang kusut daripada gulungan berus dengan berhati-hati. Bantu penanggalan pencemaran tersebut dengan sepasang gunting.




- 5 Sewaktu memasang semula, pastikan penjajaran yang betul bagi gulungan berus.




- 6 Kunci gulungan berus muncul dengan mengetatkan muncul sehingga anda mendengar bunyi "KLIK".


Penyelenggaraan TurboBrush Mini



- 1 Putar berus lawan jam untuk melepaskan. Tarik keluar berus setelah kunci dilepaskan.



- 2 Gunakan tangan atau sepasang gunting untuk menanggalkan apa-apa pencemaran pada berus.



- 3 Luncurkan berus ke kedudukannya dan putar mengikut arah jam untuk menguncinya dalam kedudukan.

Paparkan ikon dan maknanya

Kod ralat

Kod ralat	Sebab	Penyelesaian
	Terdapat ralat sistem.	Ikon merah padu bermakna Pembersih Vakum siri Philips AquaTrio 7000 anda mempunyai ralat sistem. Untuk menyelesaikan ralat ini, sila cuba satu atau kedua-dua pilihan berikut: 1. Keluarkan pusat kuasa daripada perkakas dan masukkan semula Pusat Kuasa. Kemudian cuba mulakan semula perkakas. 2. Putuskan sambungan vakum hanya pegang tangan daripada tiub dan tekan butang hidup/mati pada pegang tangan. Jika anda masih melihat ikon merah padu, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan. Jika anda tidak melihat ikon merah padu dan perkakas masih tidak berfungsi, mungkin terdapat masalah perhubungan dengan tiub atau muncung. Sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
	Suhu terlalu rendah.	Bateri berkelip dan ikon ralat Merah bersama-sama bermakna suhu ambien sama ada terlalu rendah atau terlalu panas. Pastikan suhu di dalam bilik yang menggunakan, menyimpan atau mengecas perkakas ini melebihi 5 °C.

Kod ralat	Sebab	Penyelesaian
	Suhu terlalu tinggi.	Bateri berkelip dan ikon ralat Merah bersama-sama bermakna suhu ambien sama ada terlalu rendah atau terlalu panas. Pastikan suhu di dalam bilik yang menggunakan, menyimpan atau mengecas perkakas ini di bawah 35 °C. Jangan dedahkan peranti kepada cahaya matahari secara langsung atau suhu tinggi (berdekatan dengan dapur yang panas, dalam ketuhar gelombang mikro atau dapur induksi). Bateri boleh meletup jika terlalu panas.
	Ikon merah berkelip bermakna bukaan salur masuk udara disekat. Pembukaan salur masuk udara tersekat.	Periksa pembukaan salur masuk udara untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut. Jika tindakan ini tidak menyelesaikan masalah, periksa seluruh laluan udara untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut. Ini merujuk kepada muncung, tiub, penapis basah dalam persediaan Vakum & Mop. Dalam persediaan Vakum sahaja, ini merujuk kepada muncung, tiub, baldi habuk dan penapis buih.
	Tangki air kotor sudah penuh.	Buka kunci tangki air kotor dan keluarkannya. Keluarkan penapis basah dari tangki air kotor dan ketepikan. Tuangkan air keluar daripada tangki air kotor ke dalam sink.
	Muncung AquaSpin tersangkut. Perkara ini merupakan pemotongan keselamatan jika ada sesuatu yang tersangkut di dalam muncung (misalnya, kabel kuasa atau mainan).	Periksa berus, bearing, bahagian motor dan penutup untuk rambut atau halangan lain dan keluarkan bahan tersebut. Jika tiada halangan, matikan dan menghidupkan perkakas mungkin dapat menyelesaikan masalah.
	Cabut palam untuk guna.	Cabut palam perkakas untuk guna. Jika tidak, perkakas tidak akan dihidupkan. Pasangkan palam perkakas semasa pengecasan dan AutoClean sahaja.

Kod ralat	Sebab	Penyelesaian
	Pengecas yang salah telah disambungkan.	BERKEDIPAN Bateri dan ikon ralat AMBER bersama-sama bermakna terdapat ralat pengecasan. 1. Pengecas yang salah disambungkan: Hanya gunakan penyesuai yang asal untuk mengecas perkakas. 2. Pin pengecasan tidak dimasukkan dengan betul/sepenuhnya: Tanggalkan pin pengecas dan masukkan semula ke dalam perkakas 3. Pusat kuasa tidak dimasukkan dengan betul: keluarkan dan masukkan semula kuasa sehingga anda mendengar bunyi "klik" yang pasti, dan sambungkan pengecas yang betul
	Pengecas tidak disambungkan.	Ikon AutoClean + ikon bateri berkelip pantas (putih) Pengecas perlu disambungkan untuk menjalankan program Auto-Clean. Pastikan perkakas diletakkan dengan betul di dalam After-Clean & Stesen penyimpanan. Sambungkan pengecas.
	Bateri tidak mencukupi.	Ikon AutoClean + ikon bateri berkelip pantas (merah) Jika pengecas disambungkan dan ikon ini ditunjukkan, itu bermakna Bateri tidak mencukupi untuk menjalankan Program Pembersihan Auto. Jika pengecas disambungkan, kemudian tunggu sehingga 30 minit untuk bateri dicas. Kemudian Tekan butang Auto-bersih untuk memulakan program

Penggantian


Untuk membeli aksesori atau alat ganti, lawati www.philips.com/parts-and-accessories atau kunjungi wakil penjual Philips anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan Philips di negara anda.

Bahagian ganti dan nombor jenis:


Penapis kering XV1771/10



Penapis basah XV1770/10



Berus pembersihan XV1773/10



i Nota: Gantikan penapis dan berus mikrofiber setiap 6 bulan untuk memastikan prestasi yang maksimum.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Penggunaan set Vakum & Mop

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi apabila saya menekan butang  hidup/mati.	Pusat kuasa tidak disambungkan.	Sambungkan pusat kuasa kepada Vakum & Mop pegang tangan.
	Bateri kosong.	Untuk mengecas bateri, sambungkan perkakas Vakum & Mop dengan pengecas (lihat 'Pengecasan').

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
	Anda tidak mengeluarkan perkakas daripada stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan.	Keluarkan set Vakum & Mop daripada stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan sebelum menghidupkan perkakas.
	Anda telah menekan butang  hidup/mati lebih daripada sekali.	Tunggu beberapa saat dan tekan butang  hidup/mati sekali lagi. Tunggu beberapa saat sebelum mencuba lagi.
	Anda tidak menyambungkan pemegang vakum & persediaan mop ke perkakas dengan betul.	Letakkan bahagian bawah badan perkakas pada stesen Selepas Pembersihan & Penyimpanan. Kemudian sambungkan pemegang padanya dan tolak ke bawah dengan kuat sehingga bunyi klik kedengaran.
	Perkakas tersumbat.	Matikan perkakas dan keluarkan bateri atau alat tangan Vakum & Mop. Kemudian cari dan keluarkan punca halangan tersebut. Selepas itu, mulakan semula perkakas. Jika anda tidak dapat mengenal pasti punca halangan tersebut, mulakan semula perkakas. Tindakan ini mungkin sudah pun menyelesaikan masalah tersebut. Periksa pembukaan salur masuk udara untuk halangan dan bersihkan.
	Berus mikrofiber tersangkut.	Keluarkan berus mikrofiber dan letakkan semula berus.
Perkakas berhenti berfungsi.	Anda telah menyentuh butang  hidup/mati dengan tangan anda tanpa sengaja.	Hidupkan perkakas dengan menekan butang  hidup/mati.
	Tangki air kotor mungkin penuh. Dalam hal yang demikian, terdapat ikon maklumat yang ditunjukkan pada skrin (lihat 'Paparkan ikon dan maknanya').	Kosongkan tangki air kotor.
Lantai kurang basah daripada biasa.	Lubang pancaran air terhalang	Keluarkan berus mikrofiber, isikan sedikit air ke dalam tangki air bersih dan hidupkan perkakas. Buat pergerakan kecil ke hadapan dan ke belakang pada kedudukan yang sama selama 15 saat. Anda sepatutnya dapat melihat empat jalur air di atas lantai. Jika ini tidak berlaku atau jika satu atau lebih jalur air hanya terdiri daripada beberapa titisan, lubang pengeluaran air separa tersekat atau tersekat sepenuhnya. Anda boleh cuba membuka lubang tersebut dengan teliti menggunakan jarum.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Satu bahagian lantai di bawah muncung kurang basah berbanding bahagian yang satu lagi.	Lubang pancaran air terhalang.	Keluarkan berus mikrofiber, isikan sedikit air ke dalam tangki air bersih dan hidupkan perkakas. Buat pergerakan kecil ke hadapan dan ke belakang pada kedudukan yang sama selama 15 saat. Anda sepatutnya dapat melihat empat jalur air di atas lantai. Jika ini tidak berlaku atau jika satu atau lebih jalur air hanya terdiri daripada beberapa titisan, lubang pengeluaran air separa tersekat atau tersekat sepenuhnya. Anda boleh cuba membuka lubang tersebut dengan teliti menggunakan jarum.
Tiada air di atas lantai.	Tangki air bersih kosong.	Isikan semula tangki air bersih. Jika anda telah memeriksa perkara di atas dan masih tiada air di atas lantai, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
Terdapat lebih banyak air di atas lantai atau dulang Selepas Pembersihan daripada biasa.	Saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin tercemar atau tersekat.	Gunakan berus pembersihan dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin.
	Tangki air kotor tidak diletakkan dengan betul.	Letakkan tangki air kotor ke dalam perkakas dengan betul. Tangki ditutup dengan betul apabila anda mendengar bunyi 'klik'.
Perkakas meninggalkan kesan air di atas lantai.	Anda telah menggerakkan perkakas ke tepi.	Untuk mengelakkan kesan air di atas lantai, cuba putarkan Siri AquaTrio 7000 anda dengan kurang kuat dan elakkan penggerakan perkakas mengikut sisi. Anda boleh mengaktifkan mod penyerapan air  dengan menekan butang mod membersihkan. Semua air yang masih tinggal di atas lantai anda akan diserap.
	Anda membuat belokan yang kuat dengan perkakas ini.	Untuk mengelakkan kesan air di atas lantai, cuba putarkan Siri AquaTrio 7000 anda dengan kurang kuat dan elakkan penggerakan perkakas mengikut sisi. Anda boleh mengaktifkan mod penyerapan air  dengan menekan butang mod membersihkan. Semua air yang masih tinggal di atas lantai anda akan diserap.
	Anda telah mengangkat perkakas ini melintasi bendul, permaidani atau tangga.	Pastikan berus mikrofiber terus menyentuh lantai. Pastikan mod penyerapan air  dihidupkan sebelum anda mengangkat perkakas melintasi bendul, permaidani atau tangga untuk mengelakkan kesan air di

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
		atas lantai atau untuk mengelakkan percikan air daripada muncung AquaSpin.
	Anda mengangkat perkakas daripada lantai sejurus selepas anda mematikan perkakas.	Hidupkan mod penyerapan air  untuk menyerap air yang masih tinggal. Gerakkan perkakas ke hadapan dan ke belakang beberapa kali dengan mod penyerapan air  sebelum mematikan perkakas. Jika anda mematikan perkakas dan mengangkat perkakas sejurus selepas itu, air yang ada di antara kedua-dua berus meninggalkan kesan air di atas lantai.
	Roda tersekat.	Periksa keadaan roda. Keluarkan habuk yang menghalang roda tersebut.
Perkakas tidak membersihkan sebaik seperti sebelum ini.	Tangki air bersih kosong.	Isikan semula tangki air bersih.
	Lubang pancaran air terhalang.	Keluarkan berus mikrofiber, isikan tangki air bersih dengan sedikit air dan hidupkan perkakas. Buat pergerakan kecil ke hadapan dan ke belakang pada kedudukan yang sama selama 15 saat. Anda sepatutnya dapat melihat empat jalur air di atas lantai. Jika ini tidak berlaku atau jika satu atau lebih jalur air hanya terdiri daripada beberapa titisan, lubang pengeluaran air separa tersekat atau tersekat sepenuhnya. Anda boleh cuba membuka lubang tersebut dengan teliti menggunakan jarum.
	Bahagian dalam muncung AquaSpin terlalu kotor.	Jalankan program AUTOCLEAN sebelum kembali membersihkan. Jika terdapat pengumpulan habuk di hujung muncung, keluarkan habuk tersebut. Pastikan untuk menggunakan fungsi AUTOCLEAN selepas setiap penggunaan.
	Tiada berus mikrofiber.	Letakkan berus mikrofiber dalam muncung AquaSpin.
		Jika anda telah memeriksa perkara di atas dan perkakas masih belum membersihkan dengan baik, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
Zarah habuk yang lebih besar tidak disedut lagi dan jatuh semula ke atas lantai.	Saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin tercemar atau tersekat.	Gunakan berus pembersihan dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Lantai kering berjalur.	Anda mungkin telah menggunakan terlalu banyak bahan pencuci.	Pastikan untuk menggunakan jumlah bahan pencuci yang betul.
	Roda kotor.	Keluarkan habuk daripada roda.
Terdapat terlalu banyak buih semasa membersihkan dan juga semasa AUTOCLEAN.	Anda mungkin telah menggunakan terlalu banyak bahan pencuci.	Pastikan untuk menggunakan jumlah bahan pencuci yang betul.
	Masih ada sisa bahan pencuci di atas lantai.	Bersihkan lantai beberapa kali tanpa bahan pencuci. Tunggu sebentar sebelum membersihkan kesan kotoran yang sama sekali lagi.
Sukar untuk membersihkan kesan kotoran.	Anda mungkin telah menggunakan terlalu sedikit air atau mengambil terlalu sedikit masa untuk membersihkan kesan kotoran.	Sapukan air dan tunggu sebentar. Sebagai contoh, anda boleh menjalankan perkakas ke atas kesan kotoran itu untuk menyapu air dan datang semula ke kesan kotoran yang sama di penghujung sesi pembersihan.
Bunyi perkakas berubah semasa membersihkan.	Mungkin ada rambut atau halangan lain yang tersangkut di sekeliling berus mikrofiber.	Keluarkan berus mikrofiber dan periksa untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut.
Paparan menunjukkan bahawa tangki air kotor telah penuh dan ditutup, walaupun tangki air kotor masih belum penuh.	Mungkin ada pembuihan atau pencemaran tangki air kotor.	Mula semula perkakas. Jika tindakan itu tidak menyelesaikan masalah, bersihkan tangki air kotor. Jika pembuihan menjadi masalahnya, pastikan anda tidak menggunakan lebih daripada jumlah bahan pencuci yang disyorkan.
Air menitis keluar daripada perkakas selepas dimatikan.	Perkakas meninggalkan lopak di atas lantai kerana anda tidak menggerakkan perkakas semasa mematikan. Ini perkara biasa.	Perkakas ini boleh meninggalkan lopak kecil air di atas lantai jika anda tidak menggerakkan perkakas semasa memamatkannya. Anda boleh mengurangkan saiz lopak tersebut dengan menggerakkan perkakas ini semasa memamatkannya. Apabila anda mematikan perkakas, perkakas akan bertukar kepada mod penyerapan air ④ selama 6 saat untuk membersihkan apa-apa air yang baki dalam muncung. Jika perlu, anda boleh mengelap titisan terakhir dengan kain.
	Perkakas menitis air semasa dibawa di atas lantai (memegang di udara).	Semasa membersihkan, jangan angkat muncung AquaSpin daripada lantai, kerana tindakan ini meninggalkan kesan air. Hanya bergerak ke hadapan dan belakang.
	Air bocor dari tangki air bersih kerana anda mengisi tangki air bersih dengan berlebihan.	Jangan isikan tangki air bersih melebihi penunjuk MAKS. Jika anda berbuat demikian, air mungkin melimpah dari

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
		tangki air bersih apabila anda mengetatkan penutup.
	Ada keretakan pada salah satu tangki.	Jika salah satu tangki rosak, bawa perkakas ke pusat khidmat Philips atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
Saya tidak dapat mengeluarkan berus mikrofiber.	Rambut dan/atau habuk tersangkut pada berus mikrofiber.	Buka kunci berus dengan menggongsor keluar tuil. Putar tuil beberapa kali dalam kedua-dua arah untuk melonggarkan berus. Pusing mengikut arah lawan jam untuk mengeluarkan berus. Jika sukar untuk mengeluarkan berus, anda juga boleh menolaknya dari bawah muncung AquaSpin. Keluarkan rambut atau habuk yang tersangkut. Jika sukar untuk mengeluarkan berus, anda boleh menolak berus dari bawah muncung AquaSpin.
Saya tidak dapat menggerakkan perkakas ke hadapan atau ke belakang.	Satu atau lebih roda mungkin terhalang oleh objek kecil.	Buka kunci berus dengan menggongsor keluar tuil. Putar tuil beberapa kali dalam kedua-dua arah untuk melonggarkan berus. Pusing mengikut arah lawan jam untuk mengeluarkan berus. Jika sukar untuk mengeluarkan berus, anda juga boleh menolaknya dari bawah muncung aqua spin.
Perkakas mempunyai kuasa sedut yang lebih rendah daripada biasa.	Saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin tercemar atau tersekat.	Gunakan berus pembersihan dan bersihkan saluran air modul basah dan/atau muncung AquaSpin.
	Jejaring di dalam tangki air kotor tidak cukup kering sebelum digunakan semula.	Bersihkan dan keringkan tangki air kotor.
	Rambut tersangkut pada berus mikrofiber.	Matikan perkakas dan keluarkan rambut daripada berus mikrofiber.
	Tangki air kotor tidak diletakkan dengan betul.	Letakkan tangki air kotor ke dalam perkakas dengan betul. Tangki ditutup dengan betul apabila anda mendengar bunyi 'klik'.
Berus mikrofiber tidak lagi berpusing	Berus mikrofiber tersumbat dengan rambut atau kotoran.	Bersihkan berus mikrofiber dengan gunting atau tangan.
Berus mikrofiber terkeluar.	Berus mikrofiber tidak dikunci dengan betul.	Letakkan semula berus mikrofiber dalam kedudukan yang betul dan kuncikan berus mikrofiber.
Perkakas tidak mengecas.	Palam kuasa tidak disambungkan kepada soket dengan betul atau penyesuai	Pastikan palam kuasa disambungkan kepada soket dengan betul dan penyesuai dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
	tidak dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.	
	Pusat kuasa tidak disambungkan.	Sila masukkan pusat kuasa.
	Pusat kuasa tidak dimasukkan dengan betul.	Sila masukkan pusat kuasa sehingga anda mendengar bunyi klik.
	Penyesuai yang salah telah disambungkan.	Sila gunakan penyesuai yang asal.
		Jika anda telah memeriksa perkara di atas dan perkakas tetap tidak dicas, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
Kadang-kadang saya terasa kejutan elektrik statik ketika menggunakan pembersih vakum.	Pembersih vakum anda mengumpulkan elektrik statik. Lebih rendah kelembapan udara lebih tinggi elektrik statik yang terkumpul pada perkakas.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan anda sambil memegang perkakas.
	Anda memvakum habuk dan kotoran. Ini juga menyebabkan elektrik statik.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan anda sambil memegang perkakas.
Perkakas tidak dimatikan dengan segera.	Suis tertunda dimatikan diaktifkan.	Selepas menekan butang hidup/mati, perkakas akan berjalan selama 6 saat sebelum dimatikan sepenuhnya. Ini perkara biasa. 6 saat tambahan diperlukan untuk membersihkan sebarang air yang tinggal di muncung dan di atas lantai.

Penggunaan set Vakum sahaja

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi apabila saya menekan butang  hidup/mati.	Anda tidak menyambungkan pusat kuasa.	Sambungkan pusat kuasa kepada Vakum pegang tangan sahaja.
	Bateri kosong.	Untuk mengecas bateri, sambungkan perkakas Vakum sahaja dengan pengecas (lihat 'Pengecasan').
	Anda telah menekan butang  hidup/mati lebih daripada sekali.	Tunggu beberapa saat dan tekan butang  hidup/mati sekali lagi. Tunggu beberapa saat sebelum mencuba lagi.
	Perkakas tersumbat.	Matikan perkakas dan keluarkan bateri atau stesen kuasa. Kemudian cari dan keluarkan punca halangan tersebut.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
		Selepas itu, mulakan semula perkakas. Jika anda tidak dapat mengenal pasti punca halangan tersebut, mulakan semula perkakas. Tindakan ini mungkin sudah pun menyelesaikan masalah tersebut.
	Berus guling tersangkut.	Keluarkan berus guling itu dan tanggalkan apa-apa rambut di sekeliling berus dan motor, kemudian letakkan kembali berus itu.
Tidak boleh menyambungkan pemegang tangan kepada timba habuk.	Bekas penapis dipasang secara terbalik.	Songsangkan bekas penapis itu. Pembukaan bulat harus dapat dilihat.
	Bekas penapis tidak ditutup dengan betul.	Pastikan anda mendengar bunyi klik semasa menutup bekas penapis itu. Jika sukar untuk ditutup, penapis buih mungkin terbalik.
Perkakas berhenti berfungsi.	Anda telah menyentuh butang  hidup/mati dengan tangan anda tanpa sengaja.	Hidupkan perkakas dengan menekan butang  hidup/mati.
	Perkakas tersumbat.	Matikan perkakas dan keluarkan bateri atau stesen kuasa. Kemudian cari dan keluarkan punca halangan tersebut. Selepas itu, mulakan semula perkakas. Jika anda tidak dapat mengenal pasti punca halangan tersebut, mulakan semula perkakas. Tindakan ini mungkin sudah pun menyelesaikan masalah tersebut.
Bunyi perkakas berubah semasa membersih.	Mungkin ada rambut atau halangan lain yang tersangkut di sekeliling berus guling.	Sila periksa untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut.
	Halangan menyekat siklon.	Periksa siklon untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut.
Perkakas mempunyai kuasa sedut yang lebih rendah daripada biasa.	Penapis dan/atau siklon kotor.	Kosongkan timba habuk. Bersihkan penuras dan siklon. Pastikan anda mengeluarkan apa-apa rambut dan kotoran yang tersekat dalam siklon. Anda boleh mengeluarkan siklon untuk diselenggarakan dengan mudah. Pastikan anda mencuci penapis sekurang-kurangnya sekali sebulan jika anda menggunakan perkakas secara kerap.
	Ada yang menyekat siklon.	Periksa siklon untuk objek yang tersangkut di dalam dan keluarkan apa-apa objek yang menyekat siklon. Pastikan anda mengeluarkan apa-apa rambut dan kotoran yang tersekat dalam siklon.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
	Saluran sedutan di sebalik berus guling tersumbat.	Keluarkan berus guling dan periksa saluran sedutan untuk halangan dan keluarkan halangan tersebut.
	Anda belum memasang bekas penapis pada timba habuk dengan betul atau anda belum memasang timba habuk pada perkakas dengan betul. Dalam kedua-dua keadaan, perkakas akan kehilangan kuasa sedutan.	Pastikan anda memasang bekas penapis kepada timba habuk dan timba habuk kepada perkakas dengan betul.
	Berus tersumbat dengan rambut atau kotoran.	Matikan perkakas dan bersihkan berus guling dengan menggunakan gunting atau tangan.
Habuk terkeluar daripada perkakas.	Tiada penapis buih dalam bekas penapis atau penutup atasnya hilang.	Pastikan penuras berada di dalam perkakas dan dipasang dengan betul.
Habuk keluar semasa membuka timba habuk.	Situasi ini merupakan perkara biasa disebabkan oleh kurang tekanan.	Jika boleh, buka perkakas di luar.
Perkakas tidak bergerak dengan lancar di atas lantai semasa saya membersihkan karpet.	Anda telah memilih kuasa sedutan yang terlalu tinggi.	Kurangkan kuasa sedutan dengan memilih tetapan 1 atau bergerak dengan lebih perlahan di atas permadani.
Berus golek tidak lagi berpusing.	Berus guling tersumbat dengan rambut atau kotoran.	Bersihkan berus guling dengan menggunakan gunting atau tangan.
	Berus golek mungkin berhenti berputar apabila ia berhadapan dengan terlalu banyak rintangan daripada karpet yang tebal.	Matikan perkakas dan kemudian hidupkan semula perkakas.
	Anda belum memasang berus golek ke dalam muncung dengan betul selepas pembersihan.	Ikut arahan dalam manual pengguna ini untuk meluncurkan berus guling ke dalam muncung dengan betul. Ketatkan berus golek di dalam muncung dengan mengunci tuas pengunci di tempatnya.
LED dalam muncung tidak beryala.	Anda tidak memasang muncung dengan betul pada tiub atau perkakas.	Pasangkan muncung kepada tiub atau perkakas dengan betul. Jika tindakan ini tidak membantu, sila bawa perkakas ke pusat khidmat Philips atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan.
Perkakas tidak mengecas.	Palam tidak disambungkan kepada soket alur keluar dengan betul atau penyesuai	Pastikan palam disambungkan kepada soket alur keluar dengan betul dan penyesuai dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
	tidak dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.	
	Pusat kuasa tidak disambungkan.	Sila masukkan pusat kuasa.
	Pusat kuasa tidak dimasukkan dengan sepenuhnya.	Sila masukkan pusat kuasa sehingga anda mendengar bunyi klik.
	Penyesuai yang salah telah disambungkan.	Sila gunakan penyesuai yang asal.
		Jika anda telah memeriksa perkara di atas dan perkakas tetap tidak dicas, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan.
Berus Turbo Mini tidak berfungsi dengan betul.	Berus golek tersumbat.	Keluarkan rambut daripada berus menggunakan gunting.
	Berus guling dihalang oleh fabrik atau permukaan semasa pembersihan.	Sejajarkan berus Mini Turbo dengan permukaan dan jangan tolak berus Turbo ke dalam permukaan lembut.
	Berus guling tidak dimasukkan ke dalam muncung dengan betul.	Pastikan berus guling dimasukkan ke dalam muncung dengan betul dan tiada jurang di antara bahagian tersebut.
Kadang-kadang saya terasa kejutan elektrik statik ketika menggunakan pembersih vakum.	Pembersih vakum anda mengumpulkan elektrik statik. Lebih rendah kelembapan udara lebih tinggi elektrik statik yang terkumpul pada perkakas.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan anda sambil memegang perkakas.
	Anda memvakum habuk dan kotoran. Ini juga menyebabkan elektrik statik.	Pastikan untuk menyentuh pin logam dengan tangan anda, sambil memegang perkakas.

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Philips! Để tận dụng tối đa các dịch vụ hỗ trợ mà Philips cung cấp, vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại địa chỉ www.philips.com/myvacuum9000s.


Mô tả chung

- 1 Giá treo tường
- 2 Đầu hút có khe hở
- 3 Đầu hút 2 trong 1
- 4 Nút Turbo của máy hút bụi khô
- 5 Nút bật/tắt của máy hút bụi khô
- 6 Tay cầm và hộp chứa bụi của máy hút bụi khô
- 7 Ống nối dài
- 8 Nơi cất phụ kiện trên ống
- 9 Đầu hút bụi
- 10 Bàn chải turbo gắn động cơ
- 11 Bộ đổi nguồn
- 12 Bộ phận cấp nguồn
- 13 Chỉ báo chế độ ước sâu
- 14 Chỉ báo đầy đủ DWT
- 15 Chỉ báo AutoClean
- 16 Chỉ báo pin
- 17 Chỉ báo hút nước
- 18 Chỉ báo kẹt đầu hút
- 19 Chỉ báo lỗi
- 20 Chỉ báo turbo khô
- 21 Tay cầm của máy hút bụi ướt
- 22 Nút thay đổi chế độ hút
- 23 Nút bật/tắt của máy hút bụi ướt
- 24 Nút tự động làm sạch
- 25 Ngăn chứa nước sạch
- 26 Ngăn chứa nước bẩn
- 27 Đầu phun AquaSpin
- 28 Bàn chải làm sạch 2 trong 1
- 29 Trạm sau khi làm sạch và cất trữ
- 30 Khay sau khi làm sạch
- 31 Chất tẩy rửa

Trước khi sử dụng lần đầu


Lắp ráp Trạm sau khi làm sạch và cất trữ

Để sử dụng chức năng AUTOCLEAN hoặc cất trữ và sạc thiết bị trên Trạm sau khi làm sạch và cất trữ, trước tiên, bạn cần lắp ráp trạm bằng cách gắn trụ giữ thiết bị vào mặt đế.




i Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng Khay sau khi làm sạch được đặt vào mặt đế và nhiệt độ trong phòng cất trữ, sạc và làm sạch thiết bị nằm trong khoảng từ 5°C đến 35°C.

Lắp giá treo tường



Nếu bạn muốn cất trữ và sạc hệ thống Hút bụi trên giá treo tường, hãy gắn chặt giá treo tường vào tường bằng ốc vít đi kèm. Đảm bảo giá treo tường cao hơn sàn nhà 105 – 115 cm.




i Lưu ý: Không thể cất trữ hệ thống Hút bụi và lau sàn trên giá treo tường. Chỉ có thể cất trữ hệ thống Hút bụi trên giá treo tường.


i Lưu ý: Đảm bảo nhiệt độ phòng cất thiết bị hoặc sạc thiết bị là từ 5°C đến 35°C.

⚠ Thận trọng: Hãy thận trọng khi khoan lỗ vào tường để gắn giá treo tường, nhằm tránh nguy cơ bị điện giật.


Lắp ráp hệ thống Hút bụi và lau sàn



1 Để lắp ráp thiết bị, hãy lắp tay cầm vào thân chính ("tiếng tách").



- 2 Lắp bộ phận cấp nguồn vào thanh mô-dun ước phía trên Ngăn chứa nước bồn (Tiếng tách!).





- 3 Để cất trữ hệ thống Hút bụi và lau sàn, bạn có thể đặt vào Trạm sau khi làm sạch và cất trữ.

Tháo rời tay cầm

Nếu bạn cần tháo rời thiết bị một lần nữa, hãy làm theo các bước dưới đây:


- 1 Đưa chốt/tua vít đầu dẹt vào lỗ ở mặt sau của thiết bị và kéo tay cầm lên.




- 2 Kéo tay cầm ra khỏi thiết bị trong khi tiếp tục đẩy tua vít vào lỗ.

i Lưu ý: Xin lưu ý là một lượng nhỏ nước sạch có thể còn sót lại bên trong đầu phun và ngăn chứa nước. Đây là kết quả của quá trình kiểm tra chất lượng tại nhà máy. Hãy yên tâm rằng thiết bị vẫn làm sạch kỹ lưỡng và an toàn khi sử dụng.


Lắp hệ thống Hút bụi




- 1 Để lắp ráp hệ thống hút bụi, hãy trượt bộ phận cấp nguồn vào vị trí bên dưới tay cầm (Tiếng tách!).



- 2 Gắn thiết bị cầm tay kèm hộp vào ống (Tiếng tách).



- 3 Lắp Ống vào đầu phun có đèn LED.





- 4 Để cất trữ hệ thống hút bụi, hãy đặt vào giá treo tường. Trượt hộp vào giá treo tường sao cho vừa khít.

Tháo và gắn bộ phận cấp nguồn

Tháo và gắn bộ phận cấp nguồn trong hệ thống Hút bụi



- 1 Nhấn nút ở bên cạnh tay cầm.
- 2 Trong khi nhấn nút, trượt bộ phận cấp nguồn ra khỏi thiết bị cầm tay.



- 3 Để gắn bộ phận cấp nguồn, chỉ cần trượt vào vị trí bên dưới tay cầm (tiếng tách!). Đảm bảo căn chỉnh các đầu nối đúng cách sao cho vừa khít.

Tháo và gắn bộ phận cấp nguồn trong hệ thống Hút bụi và lau sàn

- 1 Nhấn nút ở bên cạnh thiết bị.
- 2 Trong khi nhấn nút, trượt bộ phận cấp nguồn ra ngoài từ phía trên ngăn chứa nước bẩn.




- 3 Để gắn bộ phận cấp nguồn, chỉ cần trượt vào đúng vị trí (tiếng tách!). Đảm bảo căn chỉnh các đầu nối đúng cách sao cho vừa khít.


Cách sạc pin

Sạc hệ thống Hút bụi và lau sàn

Thiết bị này được trang bị pin Li-Ion 25 V. Thời gian sạc pin là 4 giờ.



- 1 Để sạc thiết bị, hãy mở nắp bít kín ở mặt sau của thiết bị.
- 2 Cắm phích điện vào ổ cắm ở mặt sau của thiết bị.




- 3 Cắm bộ nối tiếp vào ổ điện




- 4 Biểu tượng pin và các phần hình tròn sẽ nhấp nháy trên màn hình để cho biết thiết bị đang sạc.



- 5 Khi thiết bị được sạc đầy, biểu tượng pin và tất cả các phần hình tròn sẽ sáng lên trên màn hình. Sau vài phút, màn hình sẽ tắt.



- 6 Tháo phích cắm điện khỏi ổ cắm ở mặt sau của thiết bị trước khi sử dụng thiết bị để vệ sinh.



7 Đóng nắp bụi kín.


Mẹo: Bạn có thể sạc thiết bị trong Trạm sau khi làm sạch và cất trữ.

Mẹo: Bạn có thể sạc thiết bị riêng biệt ở nơi phù hợp nhất với bạn.


Sạc hệ thống Hút bụi

Thiết bị này được trang bị pin Li-Ion 25 V. Thời gian sạc pin là 4 giờ.


1 Để sạc thiết bị, hãy cắm phích điện vào ổ cắm ở mặt sau của thiết bị.



2 Trượt thiết bị cầm tay kèm hộp vào giá treo tường.



3 Cắm bộ nối tiếp vào ổ điện




4 Biểu tượng pin và các phần hình tròn sẽ nhấp nháy trên màn hình để cho biết thiết bị đang sạc.





- 5 Khi thiết bị được sạc đầy, biểu tượng pin và tất cả các phần hình tròn sẽ sáng lên trên màn hình. Sau vài phút, màn hình sẽ tắt.



- 6 Tháo phích cắm điện khỏi ổ cắm ở mặt sau của thiết bị trước khi sử dụng thiết bị để vệ sinh.

 Mẹo: Bạn có thể sạc thiết bị khi thiết bị được gắn vào giá treo tường.

 Mẹo: Bạn có thể sạc thiết bị riêng biệt ở nơi phù hợp nhất với bạn.


Hút bụi và lau sàn cứng

Sử dụng thiết bị


Ngăn chứa nước sạch và ngăn chứa nước bẩn đã được gắn sẵn vào thiết bị. Bạn có thể sử dụng thiết bị để làm sạch sàn cứng.

i Lưu ý: Thiết bị này phù hợp để hút bụi và lau sàn cùng lúc. Bạn không cần hút bụi trước khi lau sàn.

Thiết bị này phù hợp để hút bụi và lau mọi loại sàn cứng, ngoại trừ sàn gỗ không có lớp phủ. Bạn có thể kiểm tra thiết bị trên một diện tích nhỏ ngoài tầm nhìn trực tiếp để đảm bảo thiết bị phù hợp với sàn nhà của bạn.




- 1 Nhấn nút xuống để mở khóa ngăn chứa nước sạch rồi lấy ngăn chứa nước sạch ra.




2 Mở nắp trên ngăn chứa nước sạch.



3 Thêm 15 ml Dung dịch lau sàn XV1792 Philips vào ngăn chứa nước sạch.




⚠ Thận trọng: Philips đã thử nghiệm thiết bị này với Nước lau sàn Philips XV1792. Các chất tẩy rửa khác có thể dẫn đến tạo quá nhiều bọt, làm giảm hiệu quả vệ sinh và có thể khiến thiết bị hoạt động không chính xác. Nước lau sàn Philips XV1792 hiện chỉ có tại một số thị trường nhất định. Khi sử dụng bất kỳ nước lau sàn thích hợp nào khác, hãy thêm tối đa 10 ml vào ngăn chứa nước sạch.




4 Đổ nước máy lạnh hoặc ấm vào ngăn chứa nước sạch cho đến khi đầy.


⚠ Thận trọng: Nước máy đổ vào ngăn chứa nước sạch không được nóng hơn 50°C.




5 Đóng nắp bịt kín của ngăn chứa nước.



6 Đặt ngăn chứa nước sạch trở lại thiết bị.




7 Lấy thiết bị ra khỏi Trạm sau khi làm sạch và cất trữ rồi đặt lên sàn. Đặt chân lên đầu phun AquaSpin và kéo tay cầm về phía sau để mở khóa đầu phun AquaSpin. Lúc này, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.



8 Nhấn nút bật/tắt để bật thiết bị.

i Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động bật ở chế độ ướt bình thường.

⚠ **Thận trọng:** không được để thiết bị ngoài tầm quan sát khi chưa khóa đầu phun AquaSpin hoặc khi thiết bị đang bật.



9 Dùng nút đổi chế độ để chuyển đổi giữa ba cài đặt khác nhau:

- Chế độ ướt bình thường (tự động được chọn khi khởi động)
- Chế độ ướt sâu
- Chế độ hút nước

Chế độ ướt bình thường là cài đặt mặc định khi bật thiết bị Hút bụi và lau sàn. Bạn có thể sử dụng chế độ này để làm sạch thông thường ở chế độ ướt.

Chế độ ướt sâu được dùng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu.

Nếu có những chỗ ướt trên sàn nhà sau khi làm sạch, bạn có thể chọn chế độ hút nước để hút sạch nước. Bạn cũng nên sử dụng chế độ này khi nhắc thiết bị qua ngưỡng cửa, thảm hoặc cầu thang.

Nếu bạn chọn chế độ hút nước , thiết bị sẽ ngừng cung cấp nước và tăng sức hút trong 45 giây để hút sạch nước còn lại trên sàn.

Khi bạn sử dụng xong thiết bị, hãy tắt thiết bị bằng cách nhấn nút bật/tắt. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ hút nước trong 6 giây để hút sạch toàn bộ nước còn sót lại trong đầu phun.



i Lưu ý: Thiết bị có thể để lại một vũng nước nhỏ trên sàn nếu bạn không chuyển thiết bị trong khi tắt máy. Bạn có thể hạn chế vũng nước này bằng cách di chuyển thiết bị sang vị trí khác sau khi tắt. Nếu cần, bạn có thể dùng giẻ để lau những giọt nước còn sót trên đầu phun.

i Lưu ý: Độ trễ tắt máy: Sau khi nhấn nút bật/tắt, thiết bị sẽ chạy trong 6 giây trước khi tắt hoàn toàn. Đây là hiện tượng bình thường. Cần thêm 6 giây để làm sạch toàn bộ nước còn sót lại trong đầu phun và trên sàn

Chức năng tạm dừng trong hệ thống Hút bụi và lau sàn

Thiết bị này có chức năng tạm dừng.

Trong quá trình sử dụng, nếu đẩy tay cầm về phía trước và khóa ở vị trí thẳng đứng, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ và tạm dừng trong 15 giây.



Để bắt đầu làm sạch, đặt chân lên đầu phun AquaSpin và kéo tay cầm về phía sau trong vòng 15 giây. Thiết bị sẽ tự động tiếp tục làm sạch.

i Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt nếu không có hoạt động nào sau 15 giây chuyển sang chức năng tạm dừng. Để khởi động lại thiết bị sau khi tự động tắt, chỉ cần nhấn nút bật/tắt.

Hệ thống bảo vệ chủ động

- Thiết bị này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động. Hệ thống bảo vệ chủ động này được thiết kế để nhận biết khi hút được một vật lạ khác ngoài bụi hoặc chất lỏng từ sàn nhà.
- Khi hệ thống được kích hoạt, thiết bị sẽ tắt và biểu tượng lỗi đầu phun bị chặn sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình (xem biểu tượng hiển thị và ý nghĩa tương ứng). Hệ thống bảo vệ chủ động cũng có thể tự động kích hoạt khi bàn chải vi sợi quá ướt, khi bạn di chuyển thiết bị trên bề mặt như thảm hoặc chiếu hoặc khi sàn nhà không được cố định chắc chắn.

Lời khuyên và thông tin quan trọng khác

- Không cần thiết phải hút bụi sàn trước khi lau, vì chế độ Hút bụi và Lau sàn này sẽ chủ động làm sạch kiểu ướt cho sàn cứng để hút mọi loại bụi bẩn, kể cả chất lỏng và vết bẩn. Đối với thảm và thảm trải sàn, chỉ sử dụng chế độ Hút bụi.
- Nếu không cần lau sàn cứng, bạn chỉ cần dùng hệ thống Hút bụi có đèn LED và công nghệ PowerCyclone 12 để hút bụi chính xác và mạnh mẽ.
- Bạn có thể di chuyển thiết bị nhanh như một máy hút bụi. Để loại bỏ vết bẩn cứng đầu, hãy nhấn nút chế độ làm sạch để kích hoạt chế độ ướt sâu (Ⓜ) và di chuyển thiết bị chậm trên vết bẩn.
- Thiết bị có thể để lại một vũng nước nhỏ trên sàn nếu bạn không chuyển thiết bị trong khi tắt máy. Bạn có thể hạn chế vũng nước này bằng cách di chuyển thiết bị sang vị trí khác sau khi tắt. Nếu cần, bạn có thể dùng giẻ để lau những giọt nước còn sót trên đầu phun.
- Bạn nên kích hoạt chế độ hút nước (Ⓜ) khi nhắc thiết bị qua ngưỡng cửa, thảm hoặc cầu thang trong quá trình làm sạch. Làm như vậy sẽ ngăn nước bắn nhỏ giọt ra khỏi đầu phun AquaSpin.

- Khi di chuyển thiết bị, bạn nên duỗi thẳng tay để giảm căng cơ một cách không cần thiết. Ở tư thế này, bạn sẽ có thể kiểm soát tốt nhất thiết bị trong quá trình vệ sinh và sẽ thấy thoải mái nhất.

i Lưu ý: Khi bạn sử dụng chế độ hút nước , nước sẽ không còn chảy ra từ thiết bị và sức hút sẽ tăng lên. Sau 45 giây, nếu bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào, thiết bị sẽ tự động chuyển về chế độ ướt bình thường.

i Lưu ý: Xin lưu ý là một lượng nhỏ nước sạch có thể còn sót lại bên trong đầu phun và ngăn chứa nước. Đây là kết quả của quá trình kiểm tra chất lượng tại nhà máy. Hãy yên tâm rằng thiết bị vẫn làm sạch kỹ lưỡng và an toàn khi sử dụng.

Hạn chế sử dụng

- Chế độ Hút bụi và Lau sàn phù hợp để hút bụi và lau mọi loại sàn cứng, ngoại trừ sàn gỗ không có lớp phủ.
- Chế độ Hút bụi và Lau sàn được thiết kế để làm sạch thường xuyên sàn cứng. Luôn làm theo hướng dẫn làm sạch cho sàn cứng khi sử dụng thiết bị này.
- Nếu bạn muốn thêm nước lau sàn khác không phải Nước lau sàn Philips XV1792 vào trong ngăn chứa nước sạch, hãy nhớ sử dụng loại nước lau sàn ít tạo bọt hoặc không tạo bọt có thể hòa tan trong nước giống như Nước lau sàn Philips XV1792.
- Vì Ngăn chứa nước sạch có dung tích 450 ml nên bạn chỉ phải thêm vài giọt nước lau sàn (tối đa 15 ml) vào nước.
- Nếu bạn sử dụng hệ thống Hút bụi và lau sàn trên sàn bằng vải sơn, thì chỉ sử dụng thiết bị trên sàn vải sơn được trải đúng cách để tránh hút cả vải sơn vào đầu phun AquaSpin.
- Không dùng hệ thống Hút bụi và lau sàn để làm sạch thảm.
- Nếu bạn di chuyển/nâng thiết bị qua thảm khi thiết bị đã tắt thì các giọt nước bắn có thể rơi lên thảm.
- Không đẩy thiết bị qua lưới nhiệt đối lưu trên sàn nhà. Vì thiết bị không thể hút nước thoát ra từ đầu vòi khi bạn di chuyển thiết bị trên lưới, nước sẽ đọng lại ở đáy hốc đối lưu.
- Trong khi làm sạch, không nâng đầu phun AquaSpin lên khỏi sàn hoặc di chuyển đầu phun AquaSpin sang hai bên và không đổi hướng đột ngột vì làm như vậy sẽ để lại những vệt nước. Chỉ di chuyển về phía trước và phía sau.


i Lưu ý: Thời gian hoạt động phụ thuộc vào mức công suất được sử dụng trong quá trình làm sạch.

Hút bụi sàn cứng và mềm


Sử dụng hệ thống chỉ Hút bụi



- 1 Để hút bụi sàn mềm hoặc cứng, hãy trượt bộ phận cấp nguồn vào đúng vị trí trong thiết bị cầm tay (Tiếng tách!).




- 2 Kết nối ống với thiết bị cầm tay (tiếng tách)".




- 3 Lắp đầu kia của ống vào đầu phun LED (tiếng tách).

⚠️ Thận trọng: Đảm bảo đã lắp hộp lọc vào hộp chứa bụi trước khi tiến hành làm sạch.




- 4 Nhấn nút bật/tắt  để bật thiết bị.

i Chế độ hút bình thường là cài đặt mặc định khi bật thiết bị chỉ Hút bụi hoặc thiết bị cầm tay chỉ hút bụi.



5 Sử dụng nút Turbo (T) để chuyển sang cài đặt sức hút cao hơn.



6 Nhấn lại nút Turbo (T) để chuyển về cài đặt sức hút bình thường.



⚠ Mẹo: Các đèn LED trong đầu phun có đèn LED giúp dễ dàng nhìn thấy bụi bẩn trên sàn nhà. Ống và đầu phun có đèn LED cho phép bạn tiếp cận khu vực dưới đồ nội thất thấp mà không cần xoay thiết bị.


⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.



⚠ Thận trọng: Không nhìn thẳng vào đèn LED của đầu phun có đèn LED hoặc chiếu đèn LED vào mắt người khác. Đèn LED rất sáng.

Sử dụng ống

Bạn có thể gắn ống vào thiết bị cầm tay và sử dụng mà không cần đầu phun để hút bụi ở những không gian hẹp nằm giữa hoặc phía sau đồ nội thất bằng đầu ống.



💡 Mẹo: Bạn cũng có thể gắn bàn chải Turbo mini vào ống.



💡 Mẹo: Bạn cũng có thể gắn đầu hút khe dài vào ống.



💡 Mẹo: Bạn cũng có thể gắn thêm đầu hút kết hợp vào ống.

Sử dụng thiết bị cầm tay




Không có đầu phun và ống, bạn có thể dùng thiết bị cầm tay để làm sạch những mảng bụi và vết bẩn nhỏ, như vụn bánh mì rơi hoặc để hút bụi cầu thang và kệ.

⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.


Sử dụng đầu phun có đèn LED

Bạn có thể sử dụng đầu phun có đèn LED để làm sạch các khu vực như bậc thang, hút bụi ở góc hoặc trên các gờ hẹp, hoặc làm sạch những mảng bụi nhỏ như vụn bánh mì rơi.

- 1 Để lắp đầu phun có đèn LED, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu phun.




- 2 Để tháo đầu phun có đèn LED, hãy nhấn nút thả (1) rồi kéo ống hoặc thiết bị cầm tay ra khỏi đầu phun (2).




⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

i Lưu ý: Bạn cũng có thể gắn thêm đầu hút kết hợp vào ống.


Sử dụng bàn chải Turbo mini




- 1 Để lắp bàn chải Turbo mini, hãy cắm ống của thiết bị cầm tay vào bàn chải Turbo mini.



- 2 Bạn có thể sử dụng Bàn chải Turbo mini để làm sạch thông thường, ví dụ các khu vực mềm như giường và ghế dài. Bạn có thể điều chỉnh chế độ công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.



- 3 Bạn có thể sử dụng Bàn chải Turbo mini để làm sạch kỹ hơn, ví dụ như hút lông thú cưng, hoặc làm sạch các mảng bụi bẩn nhỏ như vụn bánh mì. Bạn có thể điều chỉnh chế độ công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.




- 4 Để tháo bàn chải Turbo mini, hãy nhấn nút thả (1) rồi kéo ống hoặc thiết bị cầm tay ra khỏi bàn chải Turbo mini (2).




⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.


Sử dụng đầu hút khe dài




- 1 Để lắp đầu hút khe dài, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu hút khe dài đó.



- 2 Bạn có thể sử dụng đầu hút khe loại dài để làm sạch các góc hẹp hoặc chỗ khó tiếp cận. Bạn có thể điều chỉnh chế độ công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.



- 3 Để tháo đầu hút khe dài, hãy nhấn nút thả (1) rồi kéo ống hoặc thiết bị cầm tay ra khỏi đầu hút khe dài (2).




⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.


Sử dụng đầu hút kết hợp



- 1 Để lắp đầu hút kết hợp, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu hút kết hợp đó.



- 2 Đầu hút kết hợp này được thiết kế để làm sạch khung cửa sổ, rèm cửa hay mạng nhện, với chế độ đèn chiếu sáng và tháo bàn chải điều chỉnh được.



- 3 Để tháo đầu hút kết hợp, hãy nhấn nút thả (1) rồi kéo ống hoặc thiết bị cầm tay ra khỏi đầu hút kết hợp (2).




⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.


Vệ sinh hệ thống Hút bụi và lau sàn

Sử dụng chế độ AUTOCLEAN sau mỗi lần sử dụng


Để ngăn mùi hôi và cặn bám, hãy dùng chức năng AUTOCLEAN sau mỗi lần sử dụng. Chế độ AUTOCLEAN giúp bạn vệ sinh toàn bộ thiết bị trong khoảng 4 phút.




- 1 Đặt hệ thống Hút bụi và lau sàn vào Trạm sau khi làm sạch và cất trữ.




i Lưu ý: Nếu mực nước thấp hơn mức AUTOCLEAN, bạn không cần phải đổ hết khay chứa trước khi bắt đầu chương trình AUTOCLEAN. Bạn có thể bỏ qua các bước tiếp theo và chuyển thẳng đến bước 6.




2 Nhấn nút để mở khóa ngăn chứa nước bẩn rồi lấy ngăn chứa nước bẩn ra.




3 Tháo bộ lọc ước khỏi ngăn chứa nước bẩn.




4 Đổ nước từ ngăn chứa nước bẩn vào bồn rửa.




5 Đặt bộ lọc ước vào lại ngăn chứa nước bẩn.




6 Đặt lại ngăn chứa nước bẩn trống vào thiết bị rồi lấy ngăn chứa nước sạch ra.



7 Tháo nắp khỏi ngăn chứa nước sạch.




8 Đổ dung dịch tẩy rửa còn lại khỏi ngăn chứa nước sạch vào bồn rửa.




9 Đổ đầy nước sạch lạnh hoặc ấm vào ngăn chứa nước sạch tối thiểu đến vạch AUTOCLEAN.

⚠ Thận trọng: Nước máy đổ vào ngăn chứa nước sạch không được nóng hơn 50°C.


⚠ Thận trọng: Không sử dụng chất tẩy rửa cho chế độ AUTOCLEAN vì điều này có thể dẫn đến tình trạng tạo bọt quá mức.



10 Dừng nắp bọt kín để đầy ngăn chứa nước.




11 Đặt ngăn chứa nước sạch trở lại thiết bị.




- 12** Sạc thiết bị. Cắm phích điện vào ổ cắm ở mặt sau của thiết bị. Sau đó, cắm bộ đổi nguồn vào ổ điện.



i Lưu ý: Cần kết nối bộ sạc để khởi động chức năng AUTOCLEAN.




- 13** Để khởi động chức năng AUTOCLEAN, hãy nhấn nút Tự động làm sạch. Đảm bảo đã kết nối bộ sạc trước khi khởi động chế độ Autoclean.




- 14** Thiết bị thực hiện chu trình AUTOCLEAN.

i Lưu ý: Chu trình AUTOCLEAN kéo dài khoảng 4 phút. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy để thiết bị chạy hoàn toàn chu trình AUTOCLEAN. Bạn có thể tạm dừng hoặc hủy chu trình AUTOCLEAN bất cứ lúc nào.


i Lưu ý: Nếu bạn hủy chương trình AUTOCLEAN, thiết bị sẽ hút nước còn lại trong Khay sau khi làm sạch trong khoảng 10 giây.



- 15** Sau khi dùng xong chức năng AUTOCLEAN, nhấn nút để mở khóa ngăn chứa nước bẩn rồi lấy ngăn chứa nước bẩn ra.




16 Tháo bộ lọc ướn khỏi ngấn chứa nước bẩn.



17 Đổ nước từ ngấn chứa nước bẩn vào bồn rửa.




18 Làm sạch ngấn chứa nước bẩn dưới vòi nước.




19 Làm sạch bộ lọc ướn dưới vòi nước.


i Lưu ý: Tháo bộ lọc có mặt gấn trước khi rửa bộ lọc ướn dưới vòi nước.



⚠ Cảnh báo: Không được rửa bộ lọc có mặt gấn. Nếu bạn cần làm sạch, hãy gỡ nhẹ bộ lọc vào thùng rác để toàn bộ bụi bẩn vương trong đó rơi ra.




20 Phơi khô bộ lọc ướt.




21 Đặt bộ lọc ướt vào lại ngăn chứa nước bẩn.


i Lưu ý: Đảm bảo bộ lọc có mặt gấp được lắp vào đúng vị trí.



22 Đặt ngăn chứa nước bẩn trở lại thiết bị.



23 Để tháo bàn chải, kéo chốt ra khỏi mặt bên (1) và xoay ngược chiều kim đồng hồ (2). Kéo bàn chải ra khỏi đầu phun AquaSpin (3)




24 Để cho bàn chải khô, hãy đặt đầu mở của bàn chải vào các trụ đỡ được chỉ định của Trạm sau khi làm sạch và cất trữ.

i Lưu ý: Thời gian khô có thể kéo dài khoảng 24 giờ.


Vệ sinh Khay sau khi làm sạch

Nếu Khay sau khi làm sạch bị bẩn, bạn có thể vệ sinh khay này bằng cách làm theo các bước sau.


- 1 Tháo Khay sau khi làm sạch khỏi trạm cất trữ.



- 2 Rửa Khay sau khi làm sạch dưới vòi nước và để khô trước khi đặt lại vào trạm cất trữ.





- 3 Hãy đảm bảo luôn đặt Khay sau khi làm sạch trở lại Trạm cất trữ. Cần có Khay sau khi làm sạch để thực hiện chức năng AUTOCLEAN chính xác.




Vệ sinh đầu phun AquaSpin

- 1 Để tháo bàn chải, kéo chốt ra khỏi mặt bên (1) và xoay ngược chiều kim đồng hồ (2). Kéo bàn chải ra khỏi đầu phun AquaSpin (3).






- 2 Bạn có thể loại bỏ tóc hoặc dây chỉ bị rối khỏi bàn chải vi sợi bằng cách trượt bàn chải vi sợi xuống bằng một tay.




Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc kéo để cắt tóc và dây chỉ bị rối quanh bàn chải vi sợi.

Loại bỏ vật cản khỏi phần thân chính



Nếu xảy ra tắc nghẽn trong thiết bị, trước tiên hãy tắt thiết bị và tháo ngăn chứa nước bẩn. Sau đó, loại bỏ tắc nghẽn bằng cách di chuyển bàn chải vệ sinh lên và xuống trong kênh hút của phần thân chính.

Loại bỏ vật cản khỏi đầu phun AquaSpin





Nếu xảy ra tắc nghẽn trong đầu phun AquaSpin, hãy tháo bàn chải ra khỏi đầu phun. Sau đó, di chuyển bàn chải làm sạch lên và xuống trong kênh hút của đầu phun AquaSpin.

Vệ sinh hệ thống Hút bụi



Trút sạch bụi ra khỏi hộp chứa bụi

Bảo dưỡng hệ thống quản lý bụi


Đổ hộp chứa bụi sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bụi đạt chỉ báo mức TỐI ĐA.




1 Tắt thiết bị.




2 Giữ thiết bị ở góc 45 độ như trong hình minh họa. Tháo hộp chứa bụi bằng cách ấn nút nhả. Nút nhả ở dưới đáy của hộp chứa bụi.




i Lưu ý: Vừa tháo hộp chứa bụi vừa giữ thiết bị thẳng đứng.




- 3** Giữ chặt tay cầm màu đen. Tháo bộ phận hút bụi kiểu gió xoáy ra khỏi hộp chứa bụi bằng cách nâng lên khỏi hộp chứa bụi




- 4** Đổ bụi trong hộp vào thùng rác.



- 5** Loại bỏ bụi còn sót lại từ hệ thống gió xoáy bằng cách gõ nhẹ hộp vào thùng rác.



- 6** Lắp bộ phận hút bụi kiểu gió xoáy trở lại hộp chứa bụi. Bảo đảm căn chỉnh hai bộ phận đó.




- 7** Lắp hộp chứa bụi vào. Trước tiên, căn chỉnh mặt phía bộ lọc của hộp chứa bụi rồi mới gắn vào vị trí.

Bảo dưỡng định kỳ theo lịch


Bảo dưỡng hệ thống quản lý bụi

Làm sạch bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng.



- 1** Xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ để tháo khỏi thùng chứa bụi.



- 2** Tháo bộ lọc bọt có thể giặt ra khỏi vỏ bộ lọc bằng nhựa.




3 Gõ vỏ bộ lọc và bộ lọc bọt vào thùng rác.




4 Rửa bộ lọc bọt rồi vẩy sạch nước.


i Lưu ý: Để có kết quả làm sạch tốt nhất, hãy cho nước chảy qua bộ lọc, để vấu bộ lọc úp xuống giúp rửa sạch bụi bám sâu.

i Lưu ý: Đảm bảo rửa sạch bộ lọc ít nhất là mỗi tháng một lần nếu bạn dùng thiết bị thường xuyên.



5 Phơi khô bộ lọc đã rửa sạch trong 24 giờ trước khi lắp lại bộ lọc bọt vào trong vỏ bộ lọc.






- 6 Để bảo dưỡng kỹ lưỡng, hãy làm sạch hộp chứa bụi và bộ phận hút bụi kiểu gió xoáy dưới vòi nước chảy hoặc trong nước ấm có xà phòng.




- 7 Lau khô hộp chứa bụi đã được làm sạch và các bộ phận liên quan.




⚠ Thận trọng: Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại.




i Lưu ý: không phải bộ phận nào cũng có thể rửa bằng máy rửa chén.



- 8 Lắp bộ lọc trở lại hộp chứa bụi. Xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ để cố định vào đúng vị trí.




- 9 Lắp hộp chứa bụi vào. Trước tiên, căn chỉnh mặt phía bộ lọc của hộp chứa bụi rồi mới gắn vào vị trí.




i Lưu ý: Sau khi bảo dưỡng, luôn đảm bảo lắp bộ lọc vào trong thiết bị trước khi sử dụng.


Bảo dưỡng Đầu phun thông minh PrecisionPower




- 1 Luôn tắt thiết bị trước khi làm sạch bàn chải xoay của đầu phun.




- 2 Để tiếp cận bàn chải xoay, hãy tìm nút ở bên cạnh đầu phun. Nhấn nút này rồi xoay để mở.




- 3 Nhẹ nhàng tháo bàn chải xoay và nắp bên của đầu phun.



4 Cần thận gỡ tóc rối ra khỏi bàn chải xoay. Dùng kéo để hỗ trợ loại bỏ rác bẩn.




5 Khi lắp trở lại, hãy đảm bảo căn chỉnh đúng cách bàn chải xoay.




6 Khóa bàn chải xoay của đầu phun bằng cách vặn cho đến khi nghe thấy tiếng "TÁCH".


Bảo dưỡng Bàn chải Turbo mini



1 Xoay bàn chải ngược chiều kim đồng hồ để nhả ra. Kéo bàn chải ra sau khi khóa nhả ra.



2 Dùng tay hoặc kéo để loại bỏ rác khỏi bàn chải.



- 3 Trượt bàn chải vào đúng vị trí và xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa bàn chải vào vị trí.

Biểu tượng trên màn hình và ý nghĩa

Mã lỗi

Mã lỗi

Nguyên nhân

Giải pháp



Có lỗi hệ thống.

Biểu tượng màu đỏ ổn định cho biết Máy hút bụi Philips AquaTrio 7000 series của bạn gặp lỗi hệ thống.

Để giải quyết vấn đề này, vui lòng thử một hoặc cả hai cách sau:

1. Tháo bộ phận cấp nguồn ra khỏi thiết bị rồi lắp lại Bộ phận cấp nguồn. Sau đó, thử khởi động lại thiết bị.

2. Ngắt kết nối thiết bị cầm tay chỉ hút bụi khỏi ống rồi nhấn nút bật/tắt trên thiết bị cầm tay. Nếu bạn vẫn thấy biểu tượng màu đỏ ổn định, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Nếu bạn không thấy biểu tượng màu đỏ ổn định và thiết bị vẫn không hoạt động, có thể có vấn đề về kết nối với ống hoặc đầu phun. Vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.



Nhiệt độ quá thấp.

Biểu tượng pin và lỗi cùng nhấp nháy màu Đỏ cho biết nhiệt độ môi trường xung quanh quá thấp hoặc quá nóng

Đảm bảo nhiệt độ phòng sử dụng, cất trữ hoặc sạc thiết bị cao hơn 5°C.

Mã lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
	Nhiệt độ quá cao.	Biểu tượng pin và lỗi cùng nhấp nháy màu Đỏ cho biết nhiệt độ môi trường xung quanh quá thấp hoặc quá nóng. Đảm bảo nhiệt độ phòng sử dụng, cất trữ hoặc sạc thiết bị thấp hơn 35°C. Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao (gần bếp nóng, trong lò vi sóng hoặc trên bếp từ). Pin có thể bị nổ nếu quá nóng.
	Biểu tượng màu đỏ nhấp nháy cho biết các lỗ thông gió bị tắc. Các lỗ thông gió bị tắc.	Kiểm tra các lỗ thông gió để loại bỏ vật gây tắc nghẽn. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy kiểm tra toàn bộ đường dẫn khí để tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn và loại bỏ chúng. Hãy kiểm tra đầu phun, ống, bộ lọc ướt trong hệ thống Hút bụi và lau sàn. Trong hệ thống chỉ Hút bụi, hãy kiểm tra đầu hút, ống, hộp chứa bụi và bộ lọc bọt.
	Ngăn chứa nước bẩn đã đầy.	Mở khóa ngăn chứa nước bẩn rồi lấy ngăn chứa nước ra. Lấy bộ lọc ướt ra khỏi ngăn chứa nước bẩn và để sang một bên. Đổ nước từ ngăn chứa nước bẩn vào bồn rửa.
	Đầu phun AquaSpin bị kẹt. Đây là một biện pháp an toàn nếu có vật gì đó bị kẹt trong đầu phun (ví dụ, dây điện hoặc đồ chơi).	Kiểm tra bàn chải, ổ trục, các bộ phận của động cơ và nắp để xem có tóc hoặc vật cản khác không và loại bỏ chúng. Nếu không có trở ngại gì, việc tắt rồi bật lại thiết bị có thể giải quyết vấn đề.
	Rút phích cắm để sử dụng.	Rút phích cắm điện của thiết bị để sử dụng. Nếu không, thiết bị sẽ không bật. Chỉ cắm phích cắm vào thiết bị trong khi sạc và sử dụng chức năng AutoClean.

Mã lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
	Kết nối sai bộ sạc.	Biểu tượng pin và lỗi cùng NHẮP NHÁY MÀU HỒNG PHÁCH cho biết có lỗi sạc. 1. Kết nối sai bộ sạc: Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn chính hãng để sạc pin cho thiết bị. 2. Chân sạc không được lắp chính xác/hoàn toàn: Tháo chân sạc ra rồi lắp lại vào thiết bị 3. Bộ phận cấp nguồn không được lắp đúng cách: tháo bộ phận cấp nguồn ra rồi lắp lại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách" và kết nối đúng bộ sạc
	Chưa kết nối bộ sạc.	Biểu tượng AutoClean + biểu tượng pin nhấp nháy nhanh (màu trắng) Cần kết nối bộ sạc để chạy chương trình Tự động làm sạch. Đảm bảo thiết bị được đặt đúng cách trong Trạm sau khi làm sạch và cất trữ. Kết nối bộ sạc.
	Không có đủ pin.	Biểu tượng AutoClean + biểu tượng pin nhấp nháy nhanh (màu đỏ) Nếu đã kết nối bộ sạc và biểu tượng này xuất hiện, thì điều đó cho biết không có đủ Pin để chạy chương trình Tự động làm sạch. Nếu đã kết nối bộ sạc, hãy đợi tối đa 30 phút để sạc pin. Sau đó, bấm nút Tự động làm sạch để khởi động chương trình



Thay thế phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập www.philips.com/parts-and-accessories hoặc tới đại lý Philips của bạn. Bạn có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia của bạn.

Mã bộ phận thay thế và kiểu:

Bộ lọc khô XV1771/10





i Lưu ý: Thay bộ lọc và bàn chải vi sợi 6 tháng một lần để đảm bảo đạt được hiệu suất cao nhất.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với những thông tin sau, hãy truy cập www.philips.com/support để xem một danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Sử dụng hệ thống Hút bụi và lau sàn

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động khi tôi nhấn nút bật/tắt  .	Chưa kết nối bộ phận cấp nguồn.	Kết nối bộ phận cấp nguồn với thiết bị cầm tay Hút bụi và lau sàn.
	Hết pin.	Đổi sạc pin, hãy kết nối thiết bị Hút bụi và lau sàn với bộ sạc (xem 'Cách sạc pin').
	Bạn chưa lấy thiết bị ra khỏi Trạm sau khi làm sạch và cất trữ.	Hãy lấy hệ thống Hút bụi và lau sàn ra khỏi Trạm sau khi làm sạch và cất trữ trước khi bật thiết bị.
	Bạn đã nhấn nút bật/tắt  quá một lần.	Đợi một vài giây rồi nhấn nút bật/tắt  lại một lần nữa. Đợi vài giây trước khi thử lại.
	Bạn đã kết nối tay cầm của hệ thống hút bụi và lau sàn với thiết bị theo cách không chính xác.	Đặt phần thân dưới của thiết bị vào Trạm sau khi làm sạch và cất trữ. Sau đó, kết nối tay cầm với phần thân dưới và đẩy mạnh xuống cho đến khi nghe thấy tiếng tách.
	Thiết bị đang bị tắc.	Tắt thiết bị rồi tháo pin hoặc thiết bị Hút bụi và lau sàn cầm tay. Sau đó, xác định và loại bỏ nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Sau

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
		đó, khởi động lại thiết bị. Nếu bạn không thể xác định nguyên nhân gây tắc nghẽn, hãy khởi động lại thiết bị. Cách này có thể giải quyết được vấn đề. Kiểm tra các lỗ thông gió để dọn sạch vật gây tắc nghẽn.
	Bàn chải vi sợi bị kẹt.	Lấy bàn chải vi sợi ra rồi đặt lại vào .
Thiết bị ngừng hoạt động.	Bạn vô tình chạm tay vào nút bật/tắt ⑤ .	Bật thiết bị bằng cách nhấn nút bật/tắt ⑤ .
	Ngăn chứa nước bẩn có thể đã đầy. Trong trường hợp này, có một biểu tượng thông tin hiển thị trên màn hình (xem 'Biểu tượng trên màn hình và ý nghĩa').	Đổ hết nước khỏi ngăn chứa nước bẩn.
Sàn không ướt như mọi ngày.	Các lỗ phun nước bị tắc nghẽn	Tháo bàn chải vi sợi ra, đổ một ít nước vào ngăn chứa nước sạch rồi bật thiết bị. Di chuyển nhẹ nhàng về phía trước và phía sau tại cùng một vị trí trong khoảng 15 giây. Bạn sẽ có thể nhìn thấy bốn vạch nước trên sàn nhà. Nếu không thấy hoặc nếu một hay nhiều vạch nước chỉ có một vài giọt, tức là các lỗ phun nước bị tắc một phần hoặc hoàn toàn. Bạn có thể thử mở cẩn thận các lỗ bằng một cây kim.
Một bên sàn nhà dưới đầu phun ướt ít hơn bên kia.	Các lỗ phun nước bị tắc nghẽn.	Tháo bàn chải vi sợi ra, đổ một ít nước vào ngăn chứa nước sạch rồi bật thiết bị. Di chuyển nhẹ nhàng về phía trước và phía sau tại cùng một vị trí trong khoảng 15 giây. Bạn sẽ có thể nhìn thấy bốn vạch nước trên sàn nhà. Nếu không thấy hoặc nếu một hay nhiều vạch nước chỉ có một vài giọt, tức là các lỗ phun nước bị tắc một phần hoặc hoàn toàn. Bạn có thể thử mở cẩn thận các lỗ bằng một cây kim.
Không có nước trên sàn.	Ngăn chứa nước sạch đã hết nước.	Đổ nước vào ngăn chứa nước sạch.
		Nếu bạn đã kiểm tra các vấn đề trên và vẫn không thấy nước trên sàn, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
Có nhiều nước trên sàn nhà hoặc trong Khay sau khi làm sạch hơn bình thường.	Kênh nước của mô-đun ướt và/hoặc đầu phun AquaSpin bị ô nhiễm hoặc tắc.	Sử dụng bàn chải vệ sinh và vệ sinh kênh nước của mô-đun ướt và/hoặc đầu phun AquaSpin.
	Ngăn chứa nước bẩn không được đặt đúng vị trí.	Đặt ngăn chứa nước bẩn vào thiết bị theo đúng cách. Ngăn chứa nước được đẩy đúng cách khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị để lại những vết nước trên sàn nhà.	Bạn đã di chuyển thiết bị sang hai bên.	Để tránh tạo vết nước trên sàn, hãy cố gắng làm các vòng quay nhẹ hơn với AquaTrio 7000 Series và tránh di chuyển thiết bị sang hai bên. Bạn có thể kích hoạt chế độ hút nước  bằng cách ấn nút chế độ làm sạch. Toàn bộ nước còn lại trên sàn sẽ được hút hết.
	Bạn đã xoay mạnh thiết bị.	Để tránh tạo vết nước trên sàn, hãy cố gắng làm các vòng quay nhẹ hơn với AquaTrio 7000 Series và tránh di chuyển thiết bị sang hai bên. Bạn có thể kích hoạt chế độ hút nước  bằng cách ấn nút chế độ làm sạch. Toàn bộ nước còn lại trên sàn sẽ được hút hết.
	Bạn đã nhắc thiết bị qua ngưỡng cửa, thảm hoặc cầu thang.	Đảm bảo bàn chải vi sợi luôn tiếp xúc với sàn. Đảm bảo chế độ hút nước  được bật trước khi nhắc thiết bị qua ngưỡng cửa, thảm hoặc cầu thang để tránh vết nước trên sàn hoặc để ngăn nước bắn ra từ đầu phun AquaSpin.
	Bạn nhắc thiết bị lên khỏi sàn nhà ngay sau khi tắt thiết bị.	Bật chế độ hút nước  để hút nước còn lại. Di chuyển thiết bị về phía trước và phía sau vài lần trong khi đang bật chế độ hút nước  trước khi tắt thiết bị. Nếu bạn vừa tắt thiết bị và nhắc ngay lên, nước trên bàn chải sẽ để lại vết nước trên sàn.
	Bánh xe bị kẹt.	Kiểm tra tình trạng bánh xe. Loại bỏ bụi bẩn đang làm kẹt bánh xe.
Thiết bị làm sạch không tốt như trước đây.	Ngăn chứa nước sạch đã hết nước.	Đổ nước vào ngăn chứa nước sạch.
	Các lỗ phun nước bị tắc nghẽn.	Tháo bàn chải vi sợi ra, đổ một ít nước vào ngăn chứa nước sạch rồi bật thiết bị. Di chuyển nhẹ nhàng về phía trước và phía sau tại cùng một vị trí trong khoảng 15 giây. Bạn sẽ có thể nhìn thấy bốn vạch nước trên sàn nhà. Nếu không thấy hoặc nếu một hay nhiều vạch nước chỉ có một vài giọt, tức là các lỗ phun nước bị tắc một phần hoặc hoàn toàn. Bạn có thể thử mở cẩn thận các lỗ bằng một cây kim.
	Bên trong đầu phun AquaSpin quá bẩn.	Chạy chương trình AUTOCLEAN trước khi quay lại vệ sinh. Nếu có bụi bẩn tích tụ ở các cạnh của đầu phun, hãy loại bỏ bụi bẩn. Đảm bảo sử dụng chức năng AUTOCLEAN sau mỗi lần sử dụng.
	Không có bàn chải vi sợi.	Đặt bàn chải vi sợi vào đầu phun AquaSpin.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
		Nếu bạn đã kiểm tra hết các trường hợp trên mà thiết bị vẫn làm sạch không hiệu quả, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng.
Những hạt bụi lớn hơn không bị hút vào nữa và rơi trở lại sàn nhà.	Kênh nước của mô-đun ướt và/hoặc đầu phun AquaSpin bị ô nhiễm hoặc tắc.	Sử dụng bàn chải vệ sinh và vệ sinh kênh nước của mô-đun ướt và/hoặc đầu phun AquaSpin.
Sàn xuất hiện vệt khi khô.	Bạn có thể đã dùng quá nhiều chất tẩy rửa.	Bạn nên dùng đúng liều lượng chất tẩy rửa.
	Bánh xe bị bẩn.	Loại bỏ bụi bẩn khỏi bánh xe.
Có quá nhiều bọt xà phòng trong quá trình vệ sinh, cũng như trong quá trình AUTOCLEAN.	Bạn có thể đã dùng quá nhiều chất tẩy rửa.	Bạn nên dùng đúng liều lượng chất tẩy rửa.
	Vẫn còn những vệt xà phòng bám trên sàn.	Lau sàn bằng nước sạch nhiều lần. Hãy đợi một lát trước khi vệ sinh lại vùng bị bẩn đó.
Rất khó để lau sạch các vết bẩn.	Bạn có thể đã không dùng đủ nước hoặc không dành đủ thời gian để tẩy vết bẩn.	Làm ướt và chờ một lát. Ví dụ, bạn có thể dùng thiết bị để chà nước lên vết bẩn rồi quay lại chà lần nữa vào cuối chu trình làm sạch.
Âm thanh của thiết bị thay đổi trong quá trình làm sạch.	Có thể có tóc hoặc các vật cản khác quấn quanh bàn chải vi sợi.	Tháo bàn chải vi sợi và kiểm tra xem có vật cản nào không và lấy các vật cản ra.
Màn hình hiển thị cho biết ngăn chứa nước bẩn đã đầy rồi tắt, mặc dù ngăn chứa nước bẩn vẫn chưa đầy.	Có thể có bọt hoặc chất ô nhiễm trong ngăn chứa nước bẩn.	Khởi động lại thiết bị. Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy vệ sinh ngăn chứa nước bẩn. Nếu có bọt, hãy đảm bảo bạn không sử dụng quá lượng chất tẩy rửa khuyến nghị.
Nước rỉ ra từ thiết bị sau khi tắt.	Thiết bị để lại một vũng nước trên sàn vì bạn không di chuyển thiết bị trong khi tắt máy. Đây là hiện tượng bình thường.	Thiết bị có thể để lại một vũng nước nhỏ trên sàn nếu bạn không chuyển thiết bị trong khi tắt máy. Bạn có thể hạn chế vũng nước này bằng cách di chuyển thiết bị sang vị trí khác sau khi tắt. Khi bạn tắt thiết bị, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ hút nước  trong 6 giây để hút sạch nước còn sót lại trong đầu phun. Nếu cần, bạn có thể dùng giẻ để lau những giọt nước còn sót trên đầu phun.
	Thiết bị rò rỉ nước khi di chuyển trên sàn (giữ trên không).	Trong khi làm sạch, không nâng đầu phun AquaSpin lên khỏi sàn vì làm như vậy sẽ để lại những vệt nước. Chỉ di chuyển về phía trước và phía sau.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Nước rò rỉ từ ngăn chứa nước sạch vì bạn đã đổ quá đầy ngăn chứa nước sạch.	Không đổ nước vào ngăn chứa nước sạch quá vạch MAX. Nếu bạn làm vậy, nước có thể tràn ra từ ngăn chứa nước sạch khi bạn vận chặt nắp.
	Có một vết nứt trên một trong ngăn chứa nước.	Nếu một trong các ngăn chứa nước bị hư hỏng, hãy mang đến Trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
Tôi không thể tháo bàn chải vi sợi.	Tóc và/hoặc bụi bẩn bị vướng vào bàn chải vi sợi.	Mở khóa bàn chải bằng cách trượt chốt ra. Vận chốt vài lần theo cả hai hướng để nới lỏng bàn chải. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo bàn chải. Nếu khó tháo bàn chải, bạn cũng có thể đẩy bàn chải từ phía dưới đầu phun AquaSpin. Lấy tóc rối hoặc bụi bẩn ra. Nếu khó rút bàn chải ra, bạn có thể đẩy chúng từ phía dưới đầu phun AquaSpin.
Tôi không thể di chuyển thiết bị về phía trước hoặc phía sau.	Một vật nhỏ có thể đang làm kẹt một hoặc nhiều bánh xe.	Mở khóa bàn chải bằng cách trượt chốt ra. Vận chốt vài lần theo cả hai hướng để nới lỏng bàn chải. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo bàn chải. Nếu khó tháo bàn chải, bạn cũng có thể đẩy bàn chải từ phía dưới đầu phun AquaSpin.
Thiết bị có công suất hút thấp hơn bình thường.	Kênh nước của mô-đun ướn và/hoặc đầu phun AquaSpin bị ô nhiễm hoặc tắc.	Sử dụng bàn chải vệ sinh và vệ sinh kênh nước của mô-đun ướn và/hoặc đầu phun AquaSpin.
	Lưới lọc trong ngăn chứa nước bẩn chưa đủ khô trước khi được sử dụng lại.	Làm sạch và để khô ngăn chứa nước bẩn.
	Tóc vướng vào bàn chải vi sợi.	Tắt thiết bị rồi gỡ tóc ra khỏi bàn chải vi sợi.
	Ngăn chứa nước bẩn không được đặt đúng vị trí.	Đặt ngăn chứa nước bẩn vào thiết bị theo đúng cách. Ngăn chứa nước được đặt đúng cách khi bạn nghe thấy tiếng "tách".
Bàn chải vi sợi không xoay được nữa	Bàn chải vi sợi bị tắc do tóc hoặc bụi bẩn.	Làm sạch bàn chải vi sợi bằng kéo hoặc bằng tay.
Bàn chải vi sợi bị bật ra.	Bàn chải vi sợi chưa được khóa chắc chắn.	Đặt bàn chải vi sợi trở lại đúng vị trí rồi khóa lại.
Thiết bị không sạc.	Phích cắm điện chưa được kết nối đúng cách với ổ điện hoặc bộ nguồn chưa được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.	Hãy đảm bảo phích cắm điện được kết nối đúng cách với ổ điện và bộ nguồn được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.
	Chưa lắp bộ phận cấp nguồn.	Vui lòng lắp bộ phận cấp nguồn.
	Bộ phận cấp nguồn không được lắp đúng cách.	Hãy lắp bộ phận cấp nguồn vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Kết nối sai bộ đổi nguồn.	Vui lòng sử dụng bộ đổi nguồn ban đầu.
		Nếu bạn đã kiểm tra hết các trường hợp trên mà thiết bị vẫn không sạc, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
Tôi cảm thấy có sốc tĩnh điện khi sử dụng máy hút bụi.	Máy hút bụi của bạn gây ra sự tích tụ tĩnh điện. Độ ẩm không khí trong phòng càng thấp thì thiết bị tích tụ tĩnh điện càng nhiều.	Hãy chắc chắn chạm vào chân kim loại bằng tay của bạn trong khi cầm thiết bị.
	Bạn đã hút sạch bụi bẩn. Điều này cũng gây ra tĩnh điện.	Hãy chắc chắn chạm vào chân kim loại bằng tay của bạn trong khi cầm thiết bị.
Máy không tự động tắt ngay.	Chức năng tắt trễ được kích hoạt.	Sau khi nhấn nút bật/tắt, thiết bị sẽ chạy trong 6 giây trước khi tắt hoàn toàn. Đây là hiện tượng bình thường. Cần thêm 6 giây để làm sạch toàn bộ nước còn sót lại trong đầu phun và trên sàn.

Chỉ sử dụng hệ thống Hút bụi

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động khi tôi nhấn nút bật/tắt  .	Bạn đã không kết nối bộ phận cấp nguồn.	Kết nối bộ phận cấp nguồn với thiết bị Hút bụi cầm tay.
	Hết pin.	Để sạc pin, hãy kết nối thiết bị Hút bụi với bộ sạc (xem 'Cách sạc pin').
	Bạn đã nhấn nút bật/tắt  quá một lần.	Đợi một vài giây rồi nhấn nút bật/tắt  lại một lần nữa. Đợi vài giây trước khi thử lại.
	Thiết bị đang bị tắc.	Tắt thiết bị rồi tháo pin hoặc bộ phận cấp nguồn ra. Sau đó, xác định và loại bỏ nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Sau đó, khởi động lại thiết bị. Nếu bạn không thể xác định nguyên nhân gây tắc nghẽn, hãy khởi động lại thiết bị. Cách này có thể giải quyết được vấn đề.
	Bàn chải xoay bị kẹt.	Lấy bàn chải lăn ra, loại bỏ bất kỳ sợi tóc nào xung quanh bàn chải và động cơ, rồi đặt lại vào vị trí cũ.
Không thể kết nối thiết bị cầm tay với hộp chứa bụi.	Hộp lọc bị lắp ngược.	Đảo ngược hộp lọc. Bạn phải nhìn thấy lỗ tròn.
	Hộp lọc không được đóng chặt.	Chắc chắn bạn nghe thấy tiếng "tách" khi đóng hộp lọc. Nếu khó đóng, có thể bộ lọc xốp đã được đặt ngược chiều.


Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị ngừng hoạt động.	Bạn vô tình chạm tay vào nút bật/tắt ⑩.	Bật thiết bị bằng cách nhấn nút bật/tắt ⑩.
	Thiết bị đang bị tắc.	Tắt thiết bị rồi tháo pin hoặc bộ phận cấp nguồn ra. Sau đó, xác định và loại bỏ nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Sau đó, khởi động lại thiết bị. Nếu bạn không thể xác định nguyên nhân gây tắc nghẽn, hãy khởi động lại thiết bị. Cách này có thể giải quyết được vấn đề.
Âm thanh của thiết bị thay đổi trong quá trình làm sạch.	Có thể có tóc hoặc các vật cản khác quấn quanh bàn chải xoay.	Vui lòng kiểm tra xem có vật cản nào không và gỡ bỏ chúng.
	Chướng ngại vật bị kẹt trong hệ thống gió xoáy.	Kiểm tra hệ thống gió xoáy xem có vật cản nào không và gỡ bỏ chúng.
Thiết bị có công suất hút thấp hơn bình thường.	Bộ lọc và/hoặc hệ thống gió xoáy bị bẩn.	Trút sạch bụi ra khỏi thùng chứa bụi. Làm sạch bộ lọc và hệ thống gió xoáy. Đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ hết tóc và bụi bẩn bị mắc kẹt trong hệ thống gió xoáy. Bạn có thể tháo hệ thống gió xoáy để dễ dàng bảo trì. Đảm bảo rửa sạch bộ lọc ít nhất là mỗi tháng một lần nếu bạn dùng thiết bị thường xuyên.
	Có vật gì đó đang chặn hệ thống gió xoáy.	Hãy kiểm tra hệ thống gió xoáy xem có vật nào bị kẹt bên trong không và loại bỏ bất kỳ vật nào cản hệ thống gió xoáy. Đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ hết tóc và bụi bẩn bị mắc kẹt trong hệ thống gió xoáy.
	Kênh hút phía sau bàn chải xoay bị tắc.	Tháo bàn chải xoay và kiểm tra kênh hút xem có vật cản nào không rồi lấy chúng ra.
	Bạn chưa lắp hộp lọc đúng cách vào hộp chứa bụi hoặc bạn chưa lắp hộp chứa bụi đúng cách vào thiết bị. Trong cả hai trường hợp, lực hút sẽ bị giảm.	Hãy đảm bảo bạn lắp hộp lọc vào thùng chứa bụi và lắp thùng chứa bụi vào thiết bị đúng cách.
	Bàn chải bị tắc do tóc hoặc bụi bẩn.	Tắt thiết bị và làm sạch bàn chải xoay bằng kéo hoặc bằng tay.
Bụi thoát ra khỏi thiết bị.	Hộp lọc không có lọc xốp hoặc nắp trên bị mất.	Hãy đảm bảo bộ lọc có trong thiết bị và đã được lắp vào đúng cách.
Bụi bay ra khi mở hộp chứa bụi.	Đây là tình trạng bình thường do áp suất thấp gây ra.	Nếu có thể, hãy mang thiết bị ra ngoài để mở.
Thiết bị không di chuyển trơn tru trên sàn nhà khi tôi vệ sinh thảm.	Bạn đã chọn công suất hút quá cao.	Giảm sức hút bằng cách chọn cài đặt 1 hoặc di chuyển chậm hơn trên thảm.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Bàn chải xoay không xoay được nữa.	Bàn chải xoay bị tắc do tóc hoặc bụi bẩn.	Làm sạch bàn chải xoay bằng kéo hoặc bằng tay.
	Bàn chải xoay có thể ngừng quay nếu gặp quá nhiều cản trở từ thảm sợi dài.	Hãy tắt thiết bị rồi bật lại.
	Bạn chưa lắp đúng bàn chải xoay vào đầu phun sau khi vệ sinh.	Hãy làm theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này để trượt bàn chải xoay vào đầu phun đúng cách. Cố định bàn chải xoay trong đầu hút bằng cách ấn cần khóa vào đúng vị trí.
Đèn LED trên đầu phun không sáng.	Bạn chưa gắn đầu phun vào ống hoặc thiết bị đúng cách.	Hãy gắn đầu phun vào ống hoặc thiết bị đúng cách. Nếu cách này không hiệu quả, vui lòng mang thiết bị đến Trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
Thiết bị không sạc.	Phích cắm chưa được kết nối đúng cách với ổ điện hoặc bộ nguồn chưa được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.	Hãy đảm bảo phích cắm được kết nối đúng cách với ổ điện và bộ nguồn được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.
	Chưa lắp bộ phận cấp nguồn.	Vui lòng lắp bộ phận cấp nguồn.
	Bộ phận cấp nguồn không được lắp vào hoàn toàn.	Hãy lắp bộ phận cấp nguồn vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.
	Kết nối sai bộ đổi nguồn.	Vui lòng sử dụng bộ đổi nguồn ban đầu.
		Nếu bạn đã kiểm tra hết các trường hợp trên mà thiết bị vẫn không sạc, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
Bàn chải Turbo mini hoạt động không đúng.	Bàn chải xoay bị tắc.	Loại bỏ lông tóc khỏi bàn chải bằng kéo.
	Bàn chải xoay bị tắc do vải hoặc bề mặt trong quá trình làm sạch.	Giữ cho bàn chải Turbo mini thẳng hàng với bề mặt và không ấn bàn chải Turbo vào các bề mặt mềm.
	Bàn chải xoay được lắp không đúng cách vào đầu phun.	Đảm bảo bàn chải xoay được lắp đúng cách vào đầu phun và không có khe hở giữa các bộ phận.
Tôi cảm thấy có sốc tĩnh điện khi sử dụng máy hút bụi.	Máy hút bụi của bạn gây ra sự tích tụ tĩnh điện. Độ ẩm không khí trong phòng càng thấp thì thiết bị tích tụ tĩnh điện càng nhiều.	Hãy chắc chắn chạm vào chân kim loại bằng tay của bạn trong khi cầm thiết bị.
	Bạn đã hút sạch bụi bẩn. Điều này cũng gây ra tĩnh điện.	Hãy chắc chắn chạm vào chân kim loại bằng tay của bạn, trong khi cầm thiết bị.

สารบัญ

ภาพรวม	189
ข้อมูลเบื้องต้น	189
คำอธิบายทั่วไป	190
ก่อนใช้งานครั้งแรก	191
การชาร์จแบตเตอรี่	195
การดูดฝุ่นและถูพื้นที่แข็ง	197
การดูดฝุ่นพื้นที่อ่อนนุ่มและแข็ง	203
การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น	209
การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น	217
ไอคอนบนจอแสดงผลและความหมาย	224
การเปลี่ยนอะไหล่	226
การแก้ปัญหา	227

ภาพรวม



ข้อมูลเบื้องต้น

ขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips!
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

www.philips.com/myvacuum9000s

เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้

คำอธิบายทั่วไป

- 1 ตัวยึดติดผนัง
- 2 หัวดูดชอกซอน
- 3 หัวดูดแบบ 2 อื่น 1
- 4 ปุ่มเทอร์โบของอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง
- 5 ปุ่มเปิด/ปิดของอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง
- 6 ด้ามจับและถังเก็บฝุ่นของอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง
- 7 ก่อต่อขยาย
- 8 ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมบนท่อ
- 9 หัวดูดฝุ่น
- 10 แปรงเทอร์โบติดมอเตอร์
- 11 อะแดปเตอร์
- 12 แหล่งจ่ายไฟ
- 13 สัญญาณไฟแสดงโหมดเปียกพลังแรงสูง
- 14 สัญญาณไฟแสดงเมื่อ DWT เต็ม
- 15 สัญญาณไฟ AutoClean
- 16 สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
- 17 สัญญาณไฟแสดงโหมดดูดซับน้ำ
- 18 สัญญาณไฟเตือนว่าหัวดูดติด
- 19 สัญญาณไฟแสดงข้อผิดพลาด
- 20 สัญญาณไฟแสดงโหมดเทอร์โบสำหรับพื้นแข็ง
- 21 ด้ามจับของอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับพื้นเปียก
- 22 ปุ่มเปลี่ยนโหมดดูด
- 23 ปุ่มเปิด/ปิดของอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับพื้นเปียก
- 24 ปุ่ม AutoClean
- 25 แท่งค้ำน้ำสะอาด
- 26 แท่งค้ำน้ำเสีย
- 27 หัวดูด AquaSpin
- 28 แปรงทำความสะอาดแบบ 2 อื่น 1
- 29 แท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด
- 30 ถาดวางหลังการทำความสะอาด
- 31 น้ำยาทำความสะอาด

ก่อนใช้งานครั้งแรก

การประกอบแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด


หากต้องการใช้ฟังก์ชัน AUTOCLEAN

หรือจัดเก็บและชาร์จเครื่องบนแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด


คุณต้องประกอบแท่นก่อนโดยใส่ที่ยึดเครื่องเข้ากับแผ่นฐาน

i หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางถาดวางหลังทำความสะอาดไว้ในแผ่นฐานและอุณหภูมิในห้องที่จัดเก็บ ชาร์จไฟ หรือทำความสะอาดเครื่องอยู่ระหว่าง 5 °C และ 35 °C




การติดตั้งตัวยึดติดผนัง



หากคุณต้องการจัดเก็บและชาร์จชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่นบนตัวยึดติดผนัง ให้ยึดตัวยึดติดผนังเข้ากับผนังด้วยสกรูที่ให้มา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดติดผนังอยู่สูงจากพื้น 105 - 115 ซม.



i หมายเหตุ:

ไม่สามารถจัดเก็บชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถุงพื้นบนตัวยึดติดผนัง สามารถจัดเก็บเฉพาะชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่นบนตัวยึดติดผนัง


i หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิในห้องที่จัดเก็บหรือชาร์จไฟเครื่องอยู่ระหว่าง 5 °C และ 35 °C


⚠ ข้อควรระวัง:

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะรูบนผนังเพื่อติดตัวยึดติดผนัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต


การประกอบชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น



1 หากต้องการประกอบเครื่อง ให้ใส่ด้ามจับเข้าไปในตัวเครื่อง (เสียง 'คลิก')




2 สอดแหล่งจ่ายไฟเข้าไปในด้ามของอุปกรณ์ดูดฝุ่นเหนือแท่งค้ำน้ำเสีย (จนมีเสียงคลิก)



3 หากต้องการจัดเก็บชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น คุณสามารถวางไว้ในแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด

การถอดด้ามจับ



หากคุณจำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1 สอดหมุด/ไขควงปากแบนเข้าไปในรูที่ด้านหลังของเครื่อง แล้วดึงด้ามจับ




2 ดึงด้ามจับออกจากเครื่องในขณะที่ยังคงดันไขควงเข้าไปในรู

i หมายเหตุ:


โปรดทราบว่าด้านในของหัวดูดและแท่งสว่านจะมีคราบน้ำสะอาดติดอยู่จำนวนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน ขอให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน

การติดตั้งชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่น




1 หากต้องการประกอบชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น


ให้เลื่อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปที่ตำแหน่งด้านล่างด้ามจับ (จนมีเสียงคลิก)



2 ติดมือจับพร้อมทั้งเข้ากับท่อดูดฝุ่น (จนมีเสียงคลิก)



3 ใส่ท่อดูดฝุ่นเข้าไปในหัวดูด LED




4 สำหรับการจัดเก็บชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่นนั้น


ให้วางบนตัวยึดติดผนัง แล้วเลื่อนเข้าไปในตัวยึดติดผนังให้แน่นพอดี

การถอด/ใส่แหล่งจ่ายไฟ


การถอด/ใส่แหล่งจ่ายไฟในชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่น



- 1 กดปุ่มที่ด้านข้างของด้ามจับ
- 2 ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ ให้เลื่อนแหล่งจ่ายไฟออกจากมือจับ




- 3 หากติดแหล่งจ่ายไฟ เพียงเลื่อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปในตำแหน่งด้านล่างด้ามจับ (จนมีเสียงคลิก) จะต้องจัดตำแหน่งตัวเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเพื่อให้ยึดได้แน่นพอดี



การถอด/ใส่แหล่งจ่ายไฟในชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น

- 1 กดปุ่มที่ด้านข้างของอุปกรณ์
- 2 ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ ให้เลื่อนแหล่งจ่ายไฟออกจากบริเวณเหนือแท่งค้ำน้ำเสีย




- 3 ในการติดแหล่งจ่ายไฟ ให้เลื่อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปในตำแหน่งที่กำหนด (จนมีเสียงคลิก) จะต้องจัดตำแหน่งตัวเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเพื่อให้ยึดได้แน่นพอดี

การชาร์จแบตเตอรี่


การชาร์จชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น

ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ Li-Ion 25 V การชาร์จไฟจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง

- 1 หากต้องการชาร์จเครื่อง ให้เปิดฝาปิดที่ด้านหลังเครื่อง
- 2 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่อยู่ตรงด้านหลังของเครื่อง



- 3 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง




- 4 ไอคอนแบตเตอรี่และบริเวณรอบๆ จะกะพริบบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังชาร์จไฟอยู่




- 5 เมื่อชาร์จไฟจนเต็มแล้ว ไอคอนแบตเตอรี่และบริเวณรอบๆ จะมีไฟสว่างขึ้นมาบนหน้าจอ หลังจากนั้นไม่กี่นาทีจอแสดงผลจะปิดลง





6 ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับที่อยู่ตรงด้านหลังของเครื่องก่อนนำไปใช้-
ทำความสะอาด



7 ปิดฝาปิด


 เคล็ดลับ:
คุณสามารถชาร์จเครื่องได้ในระหว่างการจัดเก็บหลังทำความสะอาด

 เคล็ดลับ:
คุณสามารถชาร์จเครื่องแยกกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด


การชาร์จชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่น

ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ Li-Ion 25 V การชาร์จไฟจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง

1 หากต้องการชาร์จเครื่อง
ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ด้านหลังของเครื่อง



2 เลื่อนมือจับพร้อมทั้งเข้าไปในตัวยึดติดผนัง



3 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง




4 ไอคอนแบตเตอรี่และบริเวณรอบๆ จะกะพริบบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังชาร์จไฟอยู่



5 เมื่อชาร์จไฟจนเต็มแล้ว ไอคอนแบตเตอรี่และบริเวณรอบๆ จะมีไฟสว่างขึ้นมาบนหน้าจอ หลังจากนั้นไม่กี่นาที จอแสดงผลจะปิดลง



6 ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับที่อยู่ตรงด้านหลังของเครื่องก่อนนำไปใช้- ทำความสะอาด



 เคล็ดลับ: คุณสามารถชาร์จเครื่องได้เมื่อติดกับตัวยึดติดผนัง

 เคล็ดลับ:
คุณสามารถชาร์จเครื่องแยกกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด


การดูดฝุ่นและถูพื้นที่แข็ง

การใช้งานเครื่อง


แท่งค้ำน้ำสะอาดและแท่งค้ำน้ำเสียติดเข้ากับเครื่องแล้วเมื่อส่งมอบ
คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อทำความสะอาดพื้นที่แข็ง

i หมายเหตุ: เครื่องนี้เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและถูพื้นพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นพื้นก่อนถูพื้น
เครื่องเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและถูพื้นที่แข็งทุกประเภท ยกเว้นพื้นไม้ที่ไม่เคลือบผิว คุณสามารถทดสอบเครื่องบนพื้นที่เล็กๆ นอกเหนือจากการมองด้วยตา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องเหมาะสมกับพื้นของคุณ


1 กดปุ่มเพื่อปลดล็อกแท่งค้ำน้ำสะอาดและถอดแท่งค้ำน้ำสะอาด



2 เปิดฝาของแท่งค้ำน้ำสะอาด



3 เติมน้ำยาทำความสะอาดพื้น Philips รุ่น XV1792 ปริมาณ 15 มล. ลงในแท่งค้ำน้ำสะอาด



⚠ ข้อควรระวัง: Philips


ทำการทดสอบเครื่องนี้กับน้ำยาทำความสะอาดพื้น Philips รุ่น XV1792

น้ำยาทำความสะอาดแบบอื่นอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปซึ่งจะลดประสิทธิภาพและอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

น้ำยาทำความสะอาดพื้น Philips รุ่น XV1792

มีวางจำหน่ายในบางประเทศ

เมื่อใช้สารทำความสะอาดชนิดเหลวที่เหมาะสมอื่นๆ ให้เติมสารสูงสุด 10 มล. ลงในแท็งก์น้ำสะอาด




- 4 เติมน้ำประปาที่เย็นหรืออุ่นลงในแท็งก์น้ำสะอาดจนถึงระดับขอบด้านบน


⚠ ข้อควรระวัง:

น้ำประปาที่เทลงในแท็งก์น้ำสะอาดต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C


- 5 ปิดฝาปิดแท็งก์น้ำ



- 6 ใส่แท็งก์น้ำสะอาดกลับเข้าไปในเครื่อง



- 7 นำเครื่องออกจากแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาดและวางลงบนพื้น วางเท้าของคุณบนหัวดูด AquaSpin แล้วดึงด้ามจับไปด้านหลังเพื่อปลดล็อกหัวดูด AquaSpin เครื่องพร้อมใช้งานได้ทันที





- 8 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

i หมายเหตุ: เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติในโหมดเปียกธรรมดา

⚠ ข้อควรระวัง:

อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลเมื่อปลดล็อกหัวดูด AquaSpin หรือเมื่อเปิดเครื่อง





9 ใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมด (๙)

เพื่อสลับไปมาระหว่างการตั้งค่าที่แตกต่างกันสามแบบ:

- โหมดเปียกธรรมดา (อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง)
- โหมดเปียกพลังแรงสูง
- โหมดดูดซับน้ำ

โหมดเปียกธรรมดาเป็นโหมดเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มเปิดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น คุณสามารถใช้โหมดนี้สำหรับการทำความสะอาดพื้นเปียกปกติได้

โหมดเปียกพลังแรงสูง (๙) ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่น

หากมีรอยเปียกบนพื้นหลังจากทำความสะอาด

คุณสามารถเลือกโหมดดูดซับน้ำ (๙) เพื่อทำความสะอาดได้

เรายังแนะนำให้ใช้โหมดดูดซับน้ำเมื่อยกเครื่องขึ้นเหนือธรณีประตู พรม หรือบันได

หากคุณเลือกโหมดดูดซับน้ำ (๙)

เครื่องจะหยุดจ่ายน้ำและเพิ่มพลังดูดเป็นเวลา 45

วินาทีเพื่อดูดซับน้ำบนพื้นที่หลงเหลืออยู่

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด

เครื่องจะสลับไปที่โหมดดูดซับน้ำเป็นเวลา 6 วินาที

เพื่อกำจัดน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวดูด

i หมายเหตุ: เครื่องอาจถึงแองน้ำเล็กๆ ไว้บนพื้น

หากคุณไม่ขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง

คุณสามารถลดขนาดของแองน้ำได้โดยการขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง

หากจำเป็น คุณสามารถใช้ผ้าเช็ดหยดย้ำออกได้

i หมายเหตุ: เวลาปิดแบบดีเลย์: หลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด

เครื่องจะยังคงทำงานเป็นเวลา 6 วินาที

ก่อนที่จะจะเครื่องจะปิดโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เวลา 6

วินาทีดังกล่าวเป็นเวลาให้เครื่องได้กำจัดน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวดูดและบนพื้น

ฟังก์ชันหยุดชั่วคราวของชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น


เครื่องนี้มีฟังก์ชันหยุดชั่วคราว


ระหว่างการใช้งาน

หากดันด้ามจับไปข้างหน้าและล็อกเอาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งตรง

อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายและหยุดทำงานชั่วคราวเป็นเวลา 15

วินาที





หากต้องการทำความสะอาดต่อ ให้วางเท้าของคุณบนหัวดูด AquaSpin แล้วดึงด้ามจับไปด้านหลังภายใน 15 วินาที

อุปกรณ์จะทำความสะอาดต่อโดยอัตโนมัติ

i หมายเหตุ: อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีกิจกรรมใดๆ หลังจากเปิดใช้ฟังก์ชันหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 15 วินาที หากต้องการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากปิดเครื่องอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

ระบบการป้องกันแบบแอ็กทีฟ

- อุปกรณ์นี้มีการติดตั้งระบบป้องกันแบบแอ็กทีฟ ระบบป้องกันแบบแอ็กทีฟนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รับรู้เมื่อเครื่องดูดวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ใช่สิ่งสกปรกหรือของเหลวขึ้นจากพื้น
- เมื่อเปิดใช้งานระบบ เครื่องจะปิดและไอคอนแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหัวดูดดูดตันจะเริ่มกะพริบบนจอแสดงผล (ดูไอคอนบนจอแสดงผลและความหมาย) ระบบป้องกันแบบแอ็กทีฟยังจะเปิดใช้งานเมื่อแรงดันไฟฟ้าเบรคเกอร์เปิดไป เมื่อคุณย้ายเครื่องไปไว้บนพรมหรือพรมเช็ดเท้า หรือเมื่อย้ายเครื่องไปไว้บนพื้นที่เลื่อนไปมา

เคล็ดลับและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นพื้นก่อนถูพื้น เนื่องจากชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นจะทำความสะอาดพื้นที่แข็งของคุณเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทุกประเภท รวมถึงของเหลวและคราบสกปรกบนพรมและพรมเช็ดเท้า ให้ใช้ชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น
- หากไม่จำเป็นต้องถูพื้นที่แข็งของคุณ ก็ให้ใช้เพียงแค่อุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่นซึ่งมีไฟ LED และเทคโนโลยี PowerCyclone 12 เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่แม่นยำและทรงพลัง
- คุณสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้เร็วพอๆ กับเครื่องดูดฝุ่น หากต้องการจัดคราบที่ฝังลึก ให้คลิกปุ่มโหมดทำความสะอาดเพื่อเปิดใช้งานโหมดเป่าพลังแรงสูง  และเคลื่อนเครื่องเข้าๆ เหนือคราบ
- เครื่องอาจกักเอาน้ำเล็กๆ ไว้บนพื้น หาก你不ขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง คุณสามารถลดขนาดของแอ่งน้ำได้โดยการขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง หากจำเป็น คุณสามารถใช้ผ้าเช็ดหยดย้ำออกได้
- ขอแนะนำให้เปิดใช้งานโหมดดูดซับน้ำ  เมื่อยกเครื่องขึ้นเหนือธรณีประตู พรม หรือบันไดระหว่างการทำความสะอาด วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกไหลออกจากหัวดูด AquaSpin
- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่อง ขอแนะนำให้เหยียดแขนเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ในตำแหน่งนี้ คุณจะควบคุมเครื่องได้ดีที่สุดเมื่อทำความสะอาด และจะรู้สึกสะดวกสบายที่สุด

i หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้โหมดดูดซับน้ำ ⑤

น้ำจะไม่ไหลออกจากเครื่องและพลังดูดจะเพิ่มขึ้น หลังจาก 45 วินาที หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ เครื่องจะสลับกลับเป็นโหมดเปียกปกติโดยอัตโนมัติ

i หมายเหตุ:

โปรดทราบว่าด้านในของหัวดูดและแท่งค้ำอาจจะมีคราบน้ำสะสมติดอยู่จำนวนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน ขอให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน

ข้อจำกัดการใช้งาน

- ชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถุงพื้นเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและถุงพื้นที่แข็งทุกประเภท ยกเว้นพื้นไม้ที่มันเคลือบผิว
- ชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถุงพื้นมีไว้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่แข็งเป็นประจำ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่แข็งของคุณเสมอเมื่อคุณใช้เครื่องนี้
- หากคุณต้องการใส่สารทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว นอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดพื้น Philips รุ่น XV1792 ลงในน้ำในแท่งค้ำน้ำสะอาด ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้สารทำความสะอาดชนิดเหลวแบบฟองน้อยหรือไร้ฟองที่สามารถละลายน้ำได้เหมือนกับน้ำยาทำความสะอาดพื้น Philips รุ่น XV1792
- เนื่องจากแท่งค้ำน้ำสะอาดมีความจุ 450 มล. คุณจึงต้องใส่สารทำความสะอาดพื้นชนิดเหลวลงในน้ำเพียงสองสามหยด (สูงสุด 15 มล.) เท่านั้น
- หากคุณใช้ชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถุงพื้นบนเสื่อน้ำมัน ให้ใช้เฉพาะกับเสื่อน้ำมันที่ตัดพื้นอย่างเหมาะสมเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันถูกดูดเข้าไปในหัวดูด AquaSpin
- ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถุงพื้นเพื่อทำความสะอาดพรม
- หากคุณย้าย/ยกเครื่องขึ้นเหนือพรมหรือพรมเช็ดเท้าเมื่อปิดสวิตช์ หยดน้ำเสียอาจตกลงไปบนพรมหรือพรมเช็ดเท้าของคุณ
- อย่าดันเครื่องไปบนพื้นตะแกรงของฮีตเตอร์แบบเป่าลมร้อน น้ำอาจหยดลงในรูเป่าลมร้อน เนื่องจากเครื่องนี้ไม่สามารถดูดน้ำที่ออกมาจากหัวดูดขณะที่คุณเคลื่อนเครื่องเหนือตะแกรง
- ขณะทำความสะอาด ห้ามยกหัวดูด AquaSpin ขึ้นจากพื้นหรือขยับหัวดูด AquaSpin ไปด้านข้าง และอย่าเสียวเครื่องอย่างแรง เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยคราบน้ำ ให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น

i หมายเหตุ:


ระยะเวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับระดับกำลังไฟในขณะทำความสะอาด

การดูดฝุ่นพื้นที่อ่อนนุ่มและแข็ง


การใช้งานชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น



- 1 หากต้องการดูดฝุ่นพื้นที่อ่อนนุ่มหรือแข็ง ให้เลื่อนแหล่งจ่ายไฟไปในตำแหน่งของด้ามจับ (จนมีเสียงคลิก)




- 2 สวมท่อดูดฝุ่นเข้ากับด้ามจับ (จนมีเสียงคลิก)



- 3 ใส่ปลายอีกด้านของท่อดูดฝุ่นเข้าไปในหัวดูด LED (จนมีเสียงคลิก)


⚠ ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตลับใส่แผ่นกรองในถังเก็บฝุ่นก่อนเริ่มทำความสะอาด




- 4 กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิดเครื่อง

i โหมดประหยัดพลังงานเป็นโหมดเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่นหรือดูดฝุ่นแบบใช้มือจับเท่านั้น



5 ใช้ปุ่มเทอร์โบ (T) เพื่อเปลี่ยนความแรงในการดูดให้สูงขึ้น



6 กดปุ่มเทอร์โบอีกครั้ง (T) เพื่อเปลี่ยนความแรงกลับเป็นปกติ



⚠️ เคล็ดลับ: ไฟ LED ในหัวดูด LED ช่วยให้มองเห็นสิ่งสกปรกบนพื้นได้ง่ายขึ้น หัวดูดฝุ่นและหัวดูด LED ช่วยให้คนเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ที่ตี้ยได้โดยไม่ต้องบิดเครื่อง





⚠️ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

⚠️ ข้อควรระวัง: อย่ามองตรงไปที่ไฟ LED ของหัวดูด LED หรือชี้ไฟ LED ไปที่ดวงตาของผู้อื่น ไฟ LED นั้นสว่างมาก

การใช้ท่อดูดฝุ่น

คุณสามารถตัดท่อดูดฝุ่นเข้ากับที่จับและใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้หัวดูดเพื่อดูดฝุ่นในช่องว่างที่แคบระหว่างหรือหลังเฟอร์นิเจอร์ด้วยปลายท่อดูดฝุ่น



💡 เคล็ดลับ:

นอกจากนี้ยังสามารถติดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กเข้ากับท่อดูดฝุ่นได้อีกด้วย



💡 เคล็ดลับ:

นอกจากนี้ยังสามารถติดหัวดูดชอกซอนขนาดยาวเข้ากับท่อดูดฝุ่นได้อีกด้วย



💡 เคล็ดลับ:

นอกจากนี้ยังสามารถติดหัวดูดแบบผสมเข้ากับท่อดูดฝุ่นได้อีกด้วย

การใช้งานที่จับ



หากไม่มีหัวดูดและท่อดูดฝุ่น

คุณยังสามารถใช้ที่จับเพื่อทำความสะอาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเล็กๆ เช่น เศษขนมปังที่หก หรือเพื่อดูดฝุ่นบนบันไดและชั้นวาง

⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ


การใช้งานหัวดูด LED

คุณสามารถใช้หัวดูด LED เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เช่น

ชั้นบันไดเพื่อดูดสิ่งสกปรกตามมุมหรือบนหิ้งแคบ


หรือเพื่อทำความสะอาดคราบเล็กๆ เช่น เศษขนมปังที่หก

1 หากต้องการติดตั้งหัวดูด LED ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูด



2 หากต้องการถอดหัวดูด LED ให้กดปุ่มปลดล็อก (1)

แล้วดึงท่อดูดฝุ่นหรือที่จับออกจากหัวดูด (2)



⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

i หมายเหตุ:


นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวดูดแบบผสมเข้ากับท่อดูดฝุ่นได้อีกด้วย

การใช้งานแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก




1 หากต้องการติดตั้งแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก


ให้สอดท่อดูดฝุ่นของที่จับเข้ากับแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก



- 2 คุณสามารถใช้แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กสำหรับการทำความสะอาดแบบมาตรฐานในบริเวณที่อ่อนนุ่ม เช่น เติ่งและโซฟา คุณสามารถปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ



- 3 คุณสามารถใช้แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ดูดขนสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดคราบเล็กๆ เช่น เกล็ดขนมปังที่หก คุณสามารถปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ




- 4 หากต้องการถอดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก ให้กดปุ่มปลดล็อก (1) แล้วดึงที่จับออกจากแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก (2)




⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ


การใช้งานหัวดูดชอกซอนขนาดยาว




- 1 หากต้องการติดหัวดูดชอกซอนขนาดยาว ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูดชอกซอนขนาดยาว



- 2 คุณสามารถใช้หัวดูดชอกซอนขนาดยาวเพื่อทำความสะอาดมุมแคบหรือบริเวณที่เข้าถึงยากได้
คุณสามารถปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ



- 3 หากต้องการถอดหัวดูดชอกซอนขนาดยาว ให้กดปุ่มปลดล็อก (1) แล้วดึงท่อดูดฝุ่นหรือที่จับออกจากหัวดูดชอกซอนขนาดยาว (2)




⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ


การใช้งานหัวดูดแบบผสม




- 1 หากต้องการที่จะติดหัวดูดแบบผสม ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูดแบบผสม



- 2 หัวดูดแบบผสมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดขอบหน้าต่าง ฝ้าเพดาน หรือใยแมงมุม พร้อมทั้งปลดแปรงและการตั้งค่าไฟส่องสว่างที่ปรับได้



- 3 หากต้องการถอดหัวดูดแบบผสม ให้กดปุ่มปลดล็อก (1) แล้วดึงท่อดูดฝุ่นหรือที่จับออกจากหัวดูดแบบผสม (2)




⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ


การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น

AUTOCLEAN หลังการใช้งานทุกครั้ง


หากต้องการป้องกันกลิ่นและคราบตะกอน ให้ใช้ฟังก์ชัน AUTOCLEAN หลังจากใช้งานทุกครั้ง โหมด AUTOCLEAN ช่วยให้คุณทำความสะอาดเครื่องทั้งหมดได้ในเวลาประมาณ 4 นาที




- 1 วางชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นในแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด




i หมายเหตุ: หากระดับน้ำสกปรกต่ำกว่าระดับ AUTOCLEAN ก็ไม่จำเป็นต้องล้างแท่งก่อนเริ่มโปรแกรม AUTOCLEAN คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่อไปนี้ได้และไปยังขั้นตอนที่ 6 ได้เลย




2 กดปุ่มเพื่อปลดล็อกและนำแท่งน้ำเสียออก




3 ถอดตัวกรองแบบเปียกออกจากแท่งน้ำเสีย




4 เทน้ำออกจากแท่งน้ำเสียลงในอ่างน้ำ




5 วางตัวกรองแบบเปียกกลับเข้าไปในแท่งน้ำเสีย




6 ใส่แท่งน้ำเสียที่ว่างเปล่ากลับเข้าไปในเครื่องแล้วนำแท่งน้ำเสียสะอาดออก



7 ถอดฟ้กรองออกจากแท้งค้น้ำสะอาด



8 เทน้ำยาทำความสะอาดที่เหลืออยู่จากแท้งค้น้ำสะอาดลงในอ่างน้ำ




9 เติมน้ประปาที่เย็นหรืออุ่นลงในแท้งค้น้ำสะอาดตามระดับข้อบ่งชี้ AUTOCLEAN เป็นอย่างน้อย


⚠ ข้อควรระวัง:

น้ำประปาที่เทลงในแท้งค้น้ำสะอาดต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C



⚠ ข้อควรระวัง: อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับ AUTOCLEAN เพราะอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป



10 ปิดฝาปิดของแท้งค้น้ำ




11 ใส่แท้งค้น้ำสะอาดกลับเข้าไปในเครื่อง



12 ชาร์จเครื่องโกนหนวด


เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่อยู่ตรงด้านหลังของเครื่อง
จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง

i หมายเหตุ: จำเป็นต้องเชื่อมต่ออยู่กับที่ชาร์จเพื่อเริ่มใช้ฟังก์ชัน
AUTOCLEAN



13 หากต้องการเริ่ม AUTOCLEAN ให้กดปุ่ม AutoClean

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออยู่กับที่ชาร์จแล้วก่อนเริ่มโหมด AutoClean





14 เครื่องดำเนินการรอบ AUTOCLEAN

i หมายเหตุ: รอบ Autoclean ใช้เวลาประมาณ 4 นาที
ปล่อยให้เครื่องทำงานตามรอบ AUTOCLEAN
อย่างสมบูรณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกรอบ AUTOCLEAN ได้ทุกเมื่อ


i หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกโปรแกรม AUTOCLEAN
เครื่องจะดูดน้ำที่เหลืออยู่ในถาดวางหลังการทำความสะอาดเป็นเวลาประ-
มาณ 10 วินาที

15 หลัง AUTOCLEAN เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเพื่อปลดล็อกแท่งค้ำน้ำเสีย แล้วถอดออก






16 ถอดตัวกรองแบบเปียกออกจากแท่งค้ำน้ำเสีย



17 เทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำเสียลงในอ่างน้ำ




18 ทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำเสียโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน



19 ทำความสะอาดตัวกรองแบบเปียกโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน


i หมายเหตุ:

ถอดแผ่นกรองแบบจิบออกก่อนล้างชุดกรองแบบเปียกโดยให้น้ำไหลผ่าน




⚠ คำเตือน: ไม่สามารถล้างแผ่นกรองแบบจิบได้

หากคุณต้องการทำความสะอาดแผ่นกรองแบบจิบ ให้เคาะเบาๆ
ในถังขยะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในนั้น




20ตากแผ่นกรองแบบเปียกให้แห้ง




21วางตัวกรองแบบเปียกกลับเข้าไปในแท่งค้ำน้ำเสีย


i หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าสอดแผ่นกรองแบบจับเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว



22ใส่แท่งค้ำน้ำเสียกลับเข้าไปในเครื่อง



23หากต้องการถอดแปร่งทำความสะอาด ให้ดึงก้านจากด้านข้าง (1) แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา (2) ดึงแปร่งออกจากหัวดูด AquaSpin (3)



24หากต้องการให้แปร่งแห้ง

ให้วางด้านปลายเปิดของแปร่งบนที่ยึดที่กำหนดของแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด


i หมายเหตุ: การทำให้แห้งจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

การทำความสะอาดถาดวางหลังการทำความสะอาด


หากถาดวางหลังการทำความสะอาดสกปรก

คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง


1 นำถาดวางหลังการทำความสะอาดออกจากแท่นจัดเก็บ



2 ล้างถาดวางหลังการทำความสะอาดโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านและปล่อยให้แห้งก่อนวางกลับเข้าไปในแท่นจัดเก็บ





3 ตรวจสอบว่าได้ใส่ถาดวางหลังการทำความสะอาดกลับเข้าไปในแท่นจัดเก็บเสมอ
ถาดวางหลังการทำความสะอาดมีความสำคัญต่อการดำเนินการ AUTOCLEAN อย่างถูกต้อง




การทำความสะอาดหัวดูด AquaSpin

1 หากต้องการถอดแตรงทำความสะอาด ให้ดึงก้านจากด้านข้าง (1) แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา (2) ดึงแตรงออกจากหัวดูด AquaSpin (3)






- 2 คุณสามารถกำจัดเส้นผมหรือด้ายที่พันกันออกจากแปรงไมโครไฟเบอร์ได้โดยการเลื่อนแปรงไมโครไฟเบอร์ลงด้วยมือเดียว



เคล็ดลับ:


คุณยังสามารถใช้กรรไกรตัดเส้นผมและด้ายที่พันกันพันรอบแปรงไมโครไฟเบอร์ได้

การขจัดสิ่งอุดตันออกจากตัวเครื่อง



หากมีการอุดตันในเครื่อง ก่อนอื่นให้ปิดเครื่องและถอดแท่งค้ำน้ำเสียออก จากนั้นนำสิ่งอุดตันออกโดยขยับแปรงทำความสะอาดขึ้นลงในช่องดูดของตัวเครื่อง

การขจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูด AquaSpin





หากมีสิ่งอุดตันในหัวดูด AquaSpin ให้ถอดแปรงออกจากหัวดูด จากนั้นขยับแปรงทำความสะอาดขึ้นลงในช่องดูดของหัวดูด AquaSpin

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น



การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

การบำรุงรักษาระบบการจัดการฝุ่น



เทถังเก็บฝุ่นทิ้งหลังการใช้งานแต่ละครั้งหรือเมื่อฝุ่นถึงระดับ MAX แล้ว




1 ปิดเครื่อง




2 ถือเครื่องในมุม 45 องศาตามที่แสดงในภาพประกอบ ถอดถังเก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่มปลดล็อก ปุ่มปลดล็อกจะอยู่ที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่น




i หมายเหตุ:
ถอดถักเก็บฝุ่นออกโดยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง




3 จับที่จับสีดำไว้ ถอดตัวหมูนอกจากถักเก็บฝุ่นโดยยกออกจากถัก




4 เทฝุ่นที่สะสมไว้ในถักเก็บฝุ่นลงในถังขยะ



5 กำจัดฝุ่นที่หลงเหลืออยู่ออกจากตัวหมูนโดยการนำไปเคาะเบาๆ ในถังขยะ



- 6 ใส่ตัวหมุนกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่นตามเดิม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองส่วนอยู่ในแนวเดียวกัน




- 7 ใส่ถังที่ประกอบแล้วกลับที่เดิม ชั้นแรก
จัดตำแหน่งด้านตัวกรองของถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะใส่บานพับเข้าที่

การบำรุงรักษาเป็นระยะๆ


การบำรุงรักษาระบบการจัดการฝุ่น


ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- 1 หมุนตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากถังเก็บฝุ่น




- 2 ถอดแผ่นกรองโฟมแบบล้างทำความสะอาดได้ออกจากตัวกรอง-
พลาสติก






3 เคาะเอาสิ่งสกปรกจากตลับตัวกรองและตัวกรองโฟมทิ้งในถังขยะ




4 ล้างตัวกรองโฟมแล้วบีบจนน้ำที่ออกมาเป็นสีใสสะอาด


i หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำทำความสะอาด ให้ใช้น้ำไหลผ่านตัวกรองโดยให้แถบตัวกรองคว่ำลง เพื่อชะล้างฝุ่นที่เกาะอยู่อย่างล้ำลึก

i หมายเหตุ:
ตรวจสอบว่าคุณล้างแผ่นกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งหากคุณใช้เครื่องเป็นประจำ



5 ตากตัวกรองที่ล้างแล้วให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วประกอบตัวกรองโฟมกลับเข้าไปในตลับตัวกรอง






- 6 เพื่อการบำรุงรักษาอย่างละเอียด
ให้ทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นและตัวหมุนโดยล้างผ่านน้ำไหลหรือล้างใน
น้ำสบู่อุ่นๆ




- 7 เช็ดถึงเก็บฝุ่นที่ทำความสะอาดแล้วและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องให้แห้ง




⚠ ข้อควรระวัง: ควรเช็ดชิ้นส่วนทุกชิ้นให้แห้งก่อนประกอบ




i หมายเหตุ: ห้ามทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน



- 8 ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น
หมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดให้เข้าที่




- 9 ใส่ถังที่ประกอบแล้วกลับที่เดิม ขึ้นแรก
จัดตำแหน่งด้านตัวกรองของถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะใส่บานพับเข้าที่




- i** หมายเหตุ: หลังจากบำรุงรักษาแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ประกอบตัวกรองเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นก่อนใ-
ชงาน


การบำรุงรักษา PrecisionPower Smart Nozzle




- 1 ปิดเครื่องก่อนเสียบบทำความสะอาดแปรงหมุนตรงหัวดูด




- 2 ในการถอดแปรงหมุน ให้ค้ำหาปุ่มที่ด้านข้างของหัวดูด
กดแล้วหมุนเพื่อเปิด




- 3 ค่อยๆ ถอดแปรงหมุนและฝาด้านข้างของหัวดูดออก



- 4 ค่อยๆ ดึงเส้นผมที่พันกันออกจากแปรงหมุน
ใช้กรรไกรช่วยตัดเอาเส้นผมออกมา




- 5 เมื่อประกอบกลับเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปรงหมุนอยู่ในแนวที่ถูกต้อง




- 6 ล็อกแปรงหมุนตรงหัวดูดให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"


การบำรุงรักษาแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก



- 1 หมุนแปรงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อก
ดึงแปรงออกมาเมื่อปลดล็อกแล้ว



- 2 ใช้มือหรือกรรไกรเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากแปรง



- 3 เสียบแรงเข้าไปในจุดที่กำหนดและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้าที่

ไอคอนบนจอแสดงผลและความหมาย

รหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
	เกิดข้อผิดพลาดของระบบ	ไอคอนแดงกับหมายความว่าเครื่องดูดฝุ่น Philips AquaTrio 7000 series ของคุณเกิดข้อผิดพลาดของระบบ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดลองทำตามตัวเลือกเหล่านี้ หนึ่งหรือสองข้อ: - ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องแล้วใส่แหล่งจ่ายไฟกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นลองรีสตาร์ทเครื่อง - ถอดมือจับอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่นออกจากรถแล้วกดปุ่มเปิด/ปิดบนมือจับ หากคุณยังคงเห็นไอคอนที่แดงกับปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หาก你不เห็นไอคอนสีแดงกับ และอุปกรณ์ยังคงไม่ทำงาน แสดงว่าอาจมีปัญหาด้านการสื่อสารกับท่อหรือหัวดูด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
	อุณหภูมิต่ำเกินไป	ไอคอนแบตเตอรี่และไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะพริบสีแดงพร้อมกันหมายความว่าอุณหภูมิโดยรอบต่ำเกินไปหรือร้อนเกินไป ตรวจสอบว่าอุณหภูมิในห้องที่ใช้ จัดเก็บ หรือชาร์จไฟเครื่องนั้นสูงกว่า 5 °C

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
	อุณหภูมิสูงเกินไป	ไอคอนแบตเตอรี่และไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะพริบสีแดงพร้อมกันหมายความว่าอุณหภูมิโดยรอบต่ำเกินไปหรือร้อนเกินไป ตรวจสอบว่าอุณหภูมิในห้องที่ใช้ จัดเก็บ หรือชาร์จไฟเครื่องนั้นต่ำกว่า 35 °C ห้ามให้ผลิตภัณฑ์โดนแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง (ใกล้เตาความร้อน ในเตาไมโครเวฟ หรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า) แบตเตอรี่อาจจะเปิดถ้ามีความร้อนสูงเกินไป
	ไอคอนสีแดงจะพริบหมายความว่าช่องลมเข้าเข้าถูกปิดกั้น ช่องลมเข้าถูกปิดกั้น	ตรวจสอบว่าช่องลมเข้ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ และให้อากาศออก หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ตรวจสอบช่องระบายอากาศทั้งหมดเพื่อหาสิ่งอุดตันและนำออก ซึ่งหมายถึง หัวดูด ท่อดูดฝุ่น และตัวกรองแบบเปียกในชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น ในชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่นนี้หมายถึง หัวดูด ท่อดูดฝุ่น ถังเก็บฝุ่น และตัวกรองแบบโฟม
	แท่งค้ำน้ำเสียเต็ม	ปลดล็อกถังเก็บน้ำสกปรกแล้วถอดออก ถอดตัวกรองน้ำจากถังเก็บน้ำสกปรกไว้ข้างๆ เทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำเสียลงในอ่างน้ำ
	หัวดูด AquaSpin ติดอยู่ นี่คือระบบตัดไฟหากมีสิ่งใดติดอยู่ในหัวดูด (เช่น สายไฟหรือของเล่น)	ตรวจสอบแปรง ถลับลูกปืน ชิ้นส่วนยานยนต์ และฝาครอบเพื่อดูว่ามีเส้นผมหรือสิ่งของกีดขวางอื่นๆ หรือไม่ และเอาสิ่งเหล่านั้นออก หากไม่มีสิ่งของกีดขวาง การปิดและเปิดเครื่องอาจช่วยแก้ปัญหาได้
	ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน	ถอดปลั๊กเครื่องก่อนใช้งาน ไม่อย่างนั้นเครื่องจะเปิดไม่ติด เสียบปลั๊กอุปกรณ์ระหว่างการชาร์จและ AutoClean เท่านั้น

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
	เชื่อมต่อแท่นชาร์จที่ไม่ถูกต้อง	ไอคอนแบตเตอรี่และไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะพริบสีเหลืองพร้อมกันหมายความว่าข้อผิดพลาดในการชาร์จ 1. เชื่อมต่อที่ชาร์จที่ไม่ถูกต้อง: โปรดใช้อะแดปเตอร์ดั้งเดิมเท่านั้นในการชาร์จไฟเครื่อง 2. เสียบหัวชาร์จไม่ถูกต้อง/เสียบไม่สุด: ถอดหัวชาร์จแล้วเสียบกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้ง 3. ใส่แหล่งจ่ายไฟสำรองไม่ถูกต้อง: ถอดและใส่แหล่งจ่ายไฟอีกครั้งจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก" อย่างชัดเจน และทำการเชื่อมต่อกับที่ชาร์จที่ต้องการ
	ไม่ได้เชื่อมต่อที่ชาร์จ	ไอคอน AutoClean + ไอคอนแบตเตอรี่จะพริบถี่ๆ (สีขาว) จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่ชาร์จเพื่อเริ่มโปรแกรม AutoClean ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางเครื่องลงในแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาดถูกต้องแล้ว เชื่อมต่อที่ชาร์จ
	มีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ	ไอคอน AutoClean + ไอคอนแบตเตอรี่จะพริบถี่ๆ (สีแดง) หากเชื่อมต่อที่ชาร์จแล้วและมีไอคอนนี้ปรากฏขึ้นมา แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของโปรแกรม AutoClean หากเชื่อมต่อที่ชาร์จแล้ว ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ แล้วกดปุ่ม AutoClean เพื่อเริ่มโปรแกรม

การเปลี่ยนอะไหล่


หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่

www.philips.com/parts-and-accessories หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย


Philips นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ชิ้นส่วนอะไหล่และหมายเลขรุ่น:


แผ่นกรองแบบแห้ง XV1771/10



แผ่นกรองแบบเปียก XV1770/10



แปรงทำความสะอาด XV1773/10



i หมายเหตุ: เปลี่ยนแผ่นกรองและแปรงไมโครไฟเบอร์ทุก 6 เดือนเพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

การใช้งานชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่ม  เปิด/ปิด	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ	เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับมือจับอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	แบตเตอรี่หมด	หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นกับที่ชาร์จ (ดู 'การชาร์จแบตเตอรี่')
	คุณไม่ได้นำเครื่องออกจากแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด	นำชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นออกจากแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาดก่อนเปิดเครื่อง
	คุณกดปุ่มเปิด/ปิด ⑩ มากกว่าหนึ่งครั้ง	รอสักครู่แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด ⑩ อีกครั้งหนึ่ง รอสักสองสามวินาทีก่อนลองอีกครั้ง
	คุณไม่ได้ต่อด้ามจับของอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นกับเครื่องอย่างถูกต้อง	วางตัวเครื่องส่วนล่างบนแท่นการจัดเก็บหลังทำความสะอาด จากนั้นต่อด้ามจับแล้วกดลงให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
	เครื่องอุดตัน	ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่หรือมือจับอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้น จากนั้นค้นหาและลบสาเหตุของการอุดตัน หลังจากนั้นให้รีเซ็ตเครื่อง หากคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของการอุดตันได้ ให้รีเซ็ตเครื่อง ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว ตรวจสอบว่าช่องลมเข้ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ และทำความสะอาด
	แปรงไมโครไฟเบอร์ติดอยู่	นำแปรงไมโครไฟเบอร์ออกแล้ววางกลับคืน
เครื่องหยุดการทำงาน	คุณบังเอิญแตะปุ่มเปิด/ปิด ⑩ ด้วยมือของคุณ	เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม ⑩ เปิด/ปิด
	แท่งค้ำน้ำเสียอาจจะเต็มในกรณีนี้จะมีไอคอนข้อมูลแสดงอยู่บนหน้าจอ (ดู 'ไอคอนบนจอแสดงผลและความหมาย')	เทน้ำสกปรกออกจากแท่งค้ำ
พื้นเปียกน้อยกว่าปกติ	ช่องไล่น้ำอุดตัน	ถอดแปรงไมโครไฟเบอร์ เติมน้ำบางส่วนลงในแท่งค้ำน้ำสะอาด และเปิดเครื่อง ทำการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลังเล็กน้อยในตำแหน่งเดียวกันเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที คุณควรจะมีเห็นแถบน้ำสีแถบบนพื้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
		หากไม่เป็นเช่นนั้น หรือแกนน้ำหนึ่งเส้นขึ้นไปประกอบด้วย-หยดน้ำเพียงไม่กี่หยด แสดงว่าช่องไล่น้ำถูกปิดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมด และคุณสามารถล้างออกได้โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน คุณสามารถลองเปิดรูด้วยเข็มอย่างระมัดระวัง
ด้านหนึ่งของพื้นใต้หัวดูดเปียกน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง	รูไล่น้ำอุดตัน	ถอดแบริ่งไมโครไฟเบอร์ เติมน้ำบางส่วนลงในแท่งค้ำน้ำสะอาด และเปิดเครื่อง ทำการเคลื่อนหัวไปข้างหน้าและข้างหลังเล็กน้อยในตำแหน่งเดียวกันเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที คุณจะมองเห็นแกนน้ำสีเทาบนพื้น หากไม่เป็นเช่นนั้น หรือแกนน้ำหนึ่งเส้นขึ้นไปประกอบด้วย-หยดน้ำเพียงไม่กี่หยด แสดงว่าช่องไล่น้ำถูกปิดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมด และคุณสามารถล้างออกได้โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน คุณสามารถลองเปิดรูด้วยเข็มอย่างระมัดระวัง
ไม่มีน้ำบนพื้น	น้ำในแท่งค้ำน้ำสะอาดหมด	เติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำสะอาด
		หากคุณตรวจสอบข้างต้นแล้วและยังไม่มีน้ำบนพื้น ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
มีน้ำอยู่บนพื้นหรือในถาดวางหลังการทำความสะอาดมากกว่าปกติ	ช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin ปนเปื้อนหรืออุดตัน	ใช้แปรงทำความสะอาดและทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin
	วางแท่งค้ำน้ำเสียไม่ถูกต้อง	ใส่แท่งค้ำน้ำเสียลงในเครื่องอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการปิดอย่างถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียง 'คลิก'
เครื่องทิ้งรอยคราบน้ำบนพื้น	คุณเคลื่อนเครื่องไปทางด้านข้าง	หากต้องการป้องกันรอยคราบน้ำบนพื้น ให้พยายามเลือก AquaTrio 7000 Series ให้เบาลง และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่เครื่องไปทาง-

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
		ด้านข้าง คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดดูดซับน้ำได้ ⑧ โดยกดปุ่มโหมดทำความสะอาด น้ำที่เหลือทั้งหมดบนพื้นจะถูกดูดซับออก
	คุณเสียวเครื่องอย่างแรง	หากต้องการป้องกันรอยคราบน้ำบนพื้น ให้พยายามเสียว AquaTrio 7000 Series ให้เบาลง และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่เครื่องไปทางด้านข้าง คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดดูดซับน้ำได้ ⑧ โดยกดปุ่มโหมดทำความสะอาด น้ำที่เหลือทั้งหมดบนพื้นจะถูกดูดซับออก
	คุณยกเครื่องขึ้นเหนือธรณีประตู พรม หรือบันได	ตรวจสอบว่าแปรงไมโครไฟเบอร์สัมผัสกับพื้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโหมดการดูดซับน้ำ ⑧ ก่อนที่จะคุณยกเครื่องขึ้นเหนือธรณีประตู พรม หรือบันไดเพื่อป้องกันร่องรอยน้ำบนพื้น หรือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเซ็นจากหัวดูด AquaSpin
	คุณยกเครื่องขึ้นจากพื้นทันทีหลังจากปิดสวิทช์	เปิดโหมดดูดซับน้ำ ⑧ เพื่อดูดซับน้ำที่หลงเหลืออยู่ เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าและข้างหลังสองสามครั้งพร้อมเปิดใช้โหมดดูดซับน้ำ ⑧ ก่อนปิดเครื่อง หากคุณปิดเครื่องและยกขึ้นทันทีหลังจากนั้น น้ำที่อยู่ระหว่างแปรงจะทิ้งคราบน้ำไว้บนพื้น
	ล้อยึดขัด	ตรวจสอบสภาพของล้อ ขจัดสิ่งสกปรกที่ขวางล้อ
เครื่องไม่สะอาดเหมือนเดิม	น้ำในแท็งก์น้ำสะอาดหมด	เติมน้ำลงในแท็งก์น้ำสะอาด
	รูไล่น้ำอุดตัน	ถอดแปรงไมโครไฟเบอร์ เติมน้ำลงในแท็งก์น้ำสะอาดจำนวนหนึ่ง และเปิดเครื่อง ทำการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลังเล็กน้อยในตำแหน่งเดียวกันเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
		คุณควรที่จะเห็นแถบน้ำสีแถบบนพื้น หากไม่เป็นเช่นนั้น หรือแถบน้ำหนึ่งเส้นขึ้นไปมีด้วยหยดน้ำ เพียงไม่กี่หยด แสดงว่ารูไล่น้ำถูกปิดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมด คุณสามารถลองเปิดรูด้วยเข็มอย่างระมัดระวัง
	ด้านในของหัวดูด AquaSpin สกปรกเกินไป	เรียกใช้โปรแกรม AUTOCLEAN ก่อนกลับไปทำความสะอาด หากมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ที่ขอบหัวดูด ให้ถอดออก ตรวจสอบว่าได้ใช้ฟังก์ชัน AUTOCLEAN หลังจากใช้งานทุกครั้ง
	ไม่มีแปรงไมโครไฟเบอร์	วางแปรงไมโครไฟเบอร์ในหัวดูด AquaSpin
		หากคุณได้ตรวจสอบตามที่ระบุด้านบนแล้ว และเครื่องยังคงทำความสะอาดได้ไม่ดีนัก โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า
เครื่องไม่ดูดอนุภาคสิ่งสกปรกขนาดใหญ่อีกต่อไปและร่วงหล่นลงบนพื้น	ช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin ปนเปื้อนหรืออุดตัน	ใช้แปรงทำความสะอาดและทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin
พื้นแห้งพร้อมมีแถบลายทาง	คุณอาจใช้น้ำยาทำความสะอาดมากเกินไป	ตรวจสอบว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
	ล้อสกปรก	ขจัดสิ่งสกปรกออกจากล้อ
มีฟองมากเกินไปขณะทำความสะอาด รวมทั้งในขณะที่ใช้ฟังก์ชัน AUTOCLEAN ด้วย	คุณอาจใช้น้ำยาทำความสะอาดมากเกินไป	ตรวจสอบว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม
	ยังมีน้ำยาทำความสะอาดตกค้างอยู่บนพื้น	ทำความสะอาดพื้นโดยไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหลายๆ ครั้ง รอสักครู่ก่อนที่จะทำความสะอาดบนรอยเปื้อนเดิมอีกครั้ง
ทำความสะอาดคราบสกปรกได้ยาก	คุณอาจใช้น้ำน้อยเกินไปหรือใช้เวลาในการทำมาสะอา-ดคราบน้อยเกินไป	ใส่น้ำและรอสักครู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อฉีดน้ำลงบนคราบและกลับมาทำความสะอาดคราบเดิมเมื่อจบรอบการทำมาสะอา-ด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เสียงของเครื่องเปลี่ยนไปขณะทำความสะอาด	อาจมีเส้นผมหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ พันรอบแปรงไมโครไฟเบอร์	ถอดแปรงไมโครไฟเบอร์ออกและตรวจสอบสิ่งกีดขวางและเอาสิ่งเหล่านั้นออก
จอแสดงผลระบุว่าแท่งค้ำเสียเต็มแล้วและปิดลง แม้ว่าแท่งค้ำน้ำเสียจะยังไม่เต็มก็ตาม	อาจมีฟองหรือสิ่งปนเปื้อนในแท่งค้ำน้ำเสีย	รีเซ็ตรถเครื่อง หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำเสีย หากฟองเป็นปัญหาอย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเกินปริมาณที่แนะนำ
น้ำหยดออกจากเครื่องหลังจากปิดเครื่อง	เครื่องอาจกักแอ่งน้ำเล็กๆไว้บนพื้น หากคุณไม่ขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ	เครื่องอาจกักแอ่งน้ำเล็กๆไว้บนพื้น หากคุณไม่ขยับเครื่องขณะปิดเครื่องคุณสามารถลดขนาดของแอ่งน้ำได้โดยการขยับเครื่องขณะปิดเครื่อง เมื่อคุณปิดเครื่องผลิตภัณฑ์จะสลับไปที่โหมดดูดซับน้ำ Ⓢเป็นเวลา 6 วินาที เพื่อกำจัดน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวดูด หากจำเป็นคุณสามารถใช้ผ้าเช็ดหยดน้ำออกได้
	เครื่องหยุดเมื่อยกขึ้นบนพื้น (ถือไว้ในอากาศ)	ขณะทำความสะอาด ห้ามยกหัวดูด AquaSpin ขึ้นจากพื้นเนื่องจากจะทำให้เกิดรอยรบกวนน้ำ ให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น
	น้ำรั่วจากแท่งค้ำน้ำสะอาดเนื่องจากคุณเติมน้ำในแท่งค้ำน้ำสะอาดมากเกินไป	ห้ามเติมน้ำในแท่งค้ำน้ำสะอาดสูงกว่าระดับสูงสุด (MAX) หากคุณทำเช่นนั้นน้ำอาจหกออกจากแท่งค้ำน้ำสะอาดเมื่อคุณปิดฝาปิด
	มีรอยแตกในแท่งค้ำหนึ่ง	หากถึงใดถึงหนึ่งเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ฉันไม่สามารถถอดแปรงไมโครไฟเบอร์ออกได้	เส้นผมและ/หรือสิ่งสกปรกพันอยู่ในแปรงไมโครไฟเบอร์	ปลดล็อกแปรงโดยการเลื่อนก้านออก หมุนก้านสองสามครั้งทั้งสองทิศทางเพื่อคลายแปรง หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแปรงออก คุณสามารถดันแปรงจากด้านล่างหัวดูด AquaSpin ได้เช่นกัน กำจัดเส้นผมหรือสิ่งสกปรกที่พันกัน หากดึงแปรงออกได้ยาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
		คุณสามารถปรับจากด้านล่างหัวดูด AquaSpin
จับไม่สามารถเคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าหรือถอยหลัง	ล้อยางน้อยหนึ่งล้ออาจมีวัตถุขนาดเล็กติดอยู่	ปลดล็อกและปรับโดยการเลื่อนก้านออกหมุนก้านสองสามครั้งทั้งสองทิศทางเพื่อคลายและปรับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดและปรับออกหากปรับดังออกยาก คุณสามารถปรับจากด้านล่างหัวดูด AquaSpin ได้เช่นกัน
เครื่องมีพลังการดูดต่ำกว่าปกติ	ช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin ปนเปื้อนหรืออุดตัน	ใช้แปรงทำความสะอาดและทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของโมดูลแบบเปียกและ/หรือหัวดูด AquaSpin
	ตาข่ายในแท่งค้ำน้ำเสียยังไม่แห้งเพียงพอที่จะนำมาใช้ใหม่	ทำความสะอาดและทำให้แท่งค้ำน้ำเสียแห้ง
	เส้นผมพันและปรงโมโครไฟเบอร์	ปิดเครื่องและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงไมโครไฟเบอร์
	วางแท่งค้ำน้ำเสียไม่ถูกต้อง	ใส่แท่งค้ำน้ำเสียลงในเครื่องอย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นการปิดอย่างถูกต้องเมื่อคุณได้ยินเสียง 'คลิก'
แปรงไมโครไฟเบอร์ไม่หมุนอีกต่อไป	แปรงไมโครไฟเบอร์อุดตันด้วยผมหรือสิ่งสกปรก	ทำความสะอาดแปรงไมโครไฟเบอร์ด้วยกรรไกรหรือด้วยมือ
แปรงไมโครไฟเบอร์โผล่ออกมา	แปรงไมโครไฟเบอร์ไม่ได้ล็อกอย่างถูกต้อง	วางแปรงไมโครไฟเบอร์กลับคืนในตำแหน่งที่ถูกต้องและล็อกไว้
เครื่องไม่ชาร์จไฟ	เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้องและเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้องแล้ว
	ไม่ได้ใส่แหล่งจ่ายไฟ	โปรดใส่แหล่งจ่ายไฟ
	ใส่แหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง	โปรดใส่แหล่งจ่ายไฟจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังคลิก
	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง	โปรดใช้อะแดปเตอร์ของแท้
		หากคุณได้ตรวจสอบตามทีระบุด้านบนแล้วและเครื่องยังไม่ชาร์จไฟ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
		โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า
ขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น ในบางครั้งฉันรู้สึกว่าคุณกระแสปะทะไฟฟ้าสถิตดูด	เครื่องดูดฝุ่นสร้างกระแสไฟฟ้าสถิต ยังอากาศภายในห้องมีความชื้นน้อย ไฟฟ้าสถิตก็จะสะสมบนเครื่องมากยิ่งขึ้น	ตรวจสอบว่าได้สัมผัสหมุดโลหะด้วยมือของคุณขณะที่ถือเครื่อง
	คุณดูดฝุ่นและสิ่งสกปรก การดำเนินการนี้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตเช่นกัน	ตรวจสอบว่าได้สัมผัสหมุดโลหะด้วยมือของคุณขณะที่ถือเครื่อง
เครื่องไม่ปิดทันที	การปิดเครื่องแบบดีเลย์ถูกเปิดใช้งาน	หลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะยังคงทำงานเป็นเวลา 6 วินาที ก่อนที่จะเครื่องจะปิดโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เวลา 6 วินาทีดังกล่าวเป็นเวลาให้เครื่องได้กำจัดน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวดูดและเบ้าพื้น

การใช้งานชุดอุปกรณ์เฉพาะดูดฝุ่น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่ม ① เปิด/ปิด	คุณไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ	เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับมือจับอุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่น
	แบตเตอรี่หมด	หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เฉพาะสำหรับดูดฝุ่นกับแท่นชาร์จ (ดู 'การชาร์จแบตเตอรี่')
	คุณกดปุ่มเปิด/ปิด ① มากกว่าหนึ่งครั้ง	รอสักครู่แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด ① อีกครั้งหนึ่ง รอสักสองสามวินาทีแล้วค่อยรออีกครั้ง
	เครื่องอุดตัน	ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองออก จากนั้นค้นหาและลบสาเหตุของการอุดตัน หลังจากนั้น ให้รีเซ็ตเครื่อง หากคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของการอุดตันได้ ให้รีเซ็ตเครื่อง ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	แปรงลูกกลิ้งติดอยู่	นำแปรงลูกกลิ้งออกและกำจัดเส้นผมรอบๆ แปรงและมอเตอร์แล้ววางกลับคืนที่เดิม
ไม่สามารถเชื่อมต่อมือจับกับถังเก็บฝุ่นได้	ประกอบตลับใส่แผ่นกรองกลับด้าน	พลิกตลับใส่แผ่นกรอง ช่องเปิดทรงกลมควรมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	ตลับใส่แผ่นกรองปิดไม่สนิท	ตรวจสอบว่าคุณได้ยื่นเสียดคลึงเมื่อปิดตลับใส่แผ่นกรอง หากปิดได้ยากอาจวางแผ่นกรองแบบโฟมกลับด้าน
เครื่องหยุดการทำงาน	คุณบังเอิญแตะปุ่มเปิด/ปิด Ⓢ ด้วยมือของคุณ	เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Ⓢ เปิด/ปิด
	เครื่องอุดตัน	ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองออก จากนั้นค้นหาและลบสาเหตุของการอุดตัน หลังจากนั้น ให้รีเซ็ตเครื่อง หากคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของการอุดตันได้ ให้รีเซ็ตเครื่อง ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว
เสียงของเครื่องเปลี่ยนไปขณะทำความสะอาด	อาจมีเส้นผมหรือสิ่งของกีดขวางอื่นๆ พันรอบแปรงลูกกลิ้ง	โปรดตรวจสอบสิ่งของกีดขวางและเอาออก
	สิ่งของกีดขวางอุดตันตัวหมุน	ตรวจสอบสิ่งของกีดขวางในตัวหมุนและเอาสิ่งเหล่านั้นออก
เครื่องมีพลังการดูดต่ำกว่ปกติ	แผ่นกรองและ/หรือตัวหมุนสกปรก	เทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น ทำความสะอาดตัวกรองและตัวหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำจัดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในตัวหมุนแล้ว คุณสามารถนำตัวหมุนออกเพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบว่าคุณล้างแผ่นกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งหากคุณใช้เครื่องเป็นประจำ
	มีบางอย่างอุดตันตัวหมุน	ตรวจสอบ ตัวหมุน ว่ามีวัตถุติดอยู่ภายในหรือไม่ และนำวัตถุใดๆ ที่อุดตันตัวหมุนออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำจัดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในตัวหมุนแล้ว
	ช่องดูดด้านหลังแปรงลูกกลิ้งอุดตัน	ถอดแปรงลูกกลิ้งและตรวจสอบช่องดูดเพื่อหาสิ่งของกีดขวางและนำออก


ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	คุณไม่ได้ติดตั้งใส่แผ่นกรองเข้ากับถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง หรือคุณไม่ได้ติดตั้งเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างเหมาะสม ทั้งสองกรณีจะส่งผลให้สูญเสียพลังดูด	ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งใส่แผ่นกรองเข้ากับถังเก็บฝุ่น และติดตั้งเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง
	แปรงดูดตันด้วยผมหรือสิ่งสกปรก	ปิดเครื่องและทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งด้วยกรรไกรหรือด้วยมือ
พบฝุ่นผงหลุดออกมาจากเครื่อง	แผ่นกรองแบบโฟมไม่อยู่ในตลับใส่แผ่นกรอง หรือฝาครอบด้านบนหายไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอยู่ในตัวเครื่องและประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง
ฝุ่นผงหลุดออกมาเมื่อเปิดถังเก็บฝุ่น	ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเหตุการณปกติเนื่องจากอยู่ภายใต้แรงดัน	หากเป็นไปได้ ให้เปิดเครื่องที่ด้านนอก
เครื่องเคลื่อนตัวไม่ราบรื่นบนพื้นขณะที่กำลังทำความสะอาดพรม	คุณเลือกพลังดูดสูงเกินไป	ลดแรงดูดโดยเลือกการตั้งค่า 1 หรือเคลื่อนซ้ำๆ บนพรม
แปรงลูกกลิ้งไม่หมุน	แปรงลูกกลิ้งอุดตันด้วยเส้นผมหรือสิ่งสกปรก	ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งด้วยกรรไกรหรือด้วยมือ
	แปรงลูกกลิ้งอาจหยุดหมุนเมื่อมีแรงต้านทานมากเกินไปจากพรมที่มีความหนา	ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
	คุณไม่ได้ประกอบแปรงลูกกลิ้งเข้ากับหัวดูดอย่างถูกต้องหลังจากทำความสะอาด	ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้เพื่อให้สามารถเลื่อนแปรงลูกกลิ้งเข้าไปในหัวดูดได้อย่างถูกต้อง ติดตั้งแปรงลูกกลิ้งภายในหัวดูดด้วยการยึดคันทันล็อกให้เข้าที่
ไฟ LED ในหัวดูดไม่เปิดขึ้น	คุณไม่ได้ติดตั้งหัวดูดเข้ากับท่อหรือเครื่องอย่างถูกต้อง	ติดตั้งหัวดูดเข้ากับท่อดูดฝุ่นหรือเครื่องให้ถูกต้อง หากวิธีนี้ไม่ได้ผล โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เครื่องไม่ชาร์จไฟ	เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้อง และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้องแล้ว
	ไม่ได้ใส่แหล่งจ่ายไฟ	โปรดใส่แหล่งจ่ายไฟ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	ใส่แหล่งจ่ายไฟสำรองไม่สมบูรณ์	โปรดใส่แหล่งจ่ายไฟจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังคลิก
	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง	โปรดใช้อะแดปเตอร์ของแท้
		หากคุณได้ตรวจสอบตามทีระบุด้านบนแล้วและเครื่องยังไม่ชาร์จไฟ โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า
แปร่งพลังเทอร์โบขนาดเล็กทำงานผิดปกติ	มีสิ่งอุดตันที่แปร่งลูกกลิ้ง	นำเส้นผมออกจากแปร่งโดยใช้กรรไกร
	ผ้าหรือพื้นผิวอุดตันแปร่งลูกกลิ้งขณะกำลังทำความสะอาด	จับแปร่งพลัง Turbo ขนาดเล็กให้ขนานกับพื้นผิว และห้ามกดแปร่งพลัง Turbo ลงบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม
	ไม่ได้ใส่แปร่งลูกกลิ้งเข้าไปในหัวดูดอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าใส่แปร่งลูกกลิ้งเข้าไปในหัวดูดอย่างถูกต้อง และไม่มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน
ขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น ในบางครั้งฉันรู้สึกว่าถูกกระแสไฟฟ้าสถิตดูด	เครื่องดูดฝุ่นสร้างกระแสไฟฟ้าสถิต ยิ่งอากาศภายในห้องมีความชื้นน้อย ไฟฟ้าสถิตก็จะสะสมบนเครื่องมากยิ่งขึ้น	ตรวจสอบว่าได้สัมผัสหมุดโลหะด้วยมือของคุณขณะถือเครื่อง
	คุณดูดฝุ่นและสิ่งสกปรก การดำเนินการนี้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตเช่นกัน	ตรวจสอบว่าได้สัมผัสหมุดโลหะด้วยมือของคุณขณะถือเครื่อง

目录

一般说明	239
说明	239
基本说明	240
首次使用之前	241
充电	244
对硬地板进行吸尘和拖地	247
对软地板和硬地板吸尘	252
清理吸拖一体机	258
仅吸尘装置	265
显示图标及其含义	273
更换	275
故障处理方法	276

一般说明



说明

感谢购买此款飞利浦产品！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/myvacuum9000s 上注册您的产品。

基本说明


- 1 壁挂架
- 2 缝隙吸嘴
- 3 二合一吸嘴
- 4 干式吸尘 Turbo 按钮
- 5 干式吸尘开/关按钮
- 6 干式吸尘的手柄和集尘桶
- 7 加长硬管
- 8 硬管上的附件夹装置
- 9 吸尘吸嘴
- 10 电动涡轮刷
- 11 适配器
- 12 电池仓
- 13 强湿模式指示灯
- 14 DWT 已满指示灯
- 15 AutoClean 指示灯
- 16 电池指示灯
- 17 吸水指示灯
- 18 吸嘴卡住指示灯
- 19 错误指示灯
- 20 干式涡轮指示灯
- 21 湿式吸尘手柄
- 22 吸力模式更改按钮
- 23 湿式吸尘开/关按钮
- 24 自动清洁按钮
- 25 净水箱
- 26 污水箱
- 27 AquaSpin 吸嘴
- 28 二合一清洁刷
- 29 清洁后装置和收纳座
- 30 清洁后托盘
- 31 清洁剂

首次使用之前


组装清洁后装置和收纳座

为了使用 AUTOCLEAN 功能或在清洁后装置和收纳座上存放产品并为其充电，需要先将产品支架卡入底板来组装收纳座。


i 注意：请确保将清洁后托盘放在底板中，并且产品存放、充电和清洁所在的房间温度介于 5 ° C 到 35 ° C 之间。



安装壁挂架



如果想要使用壁挂架收纳仅吸尘装置并为其充电，请使用随附的螺钉将壁挂架固定在墙上。请务必将壁挂架安装在地板上方 105 - 115 厘米的位置。




i 注意：壁挂架上无法收纳吸拖一体机。壁挂架上只能收纳仅吸尘装置。


i 注意：请确保产品存放或进行充电的房间温度在 5 ° C 和 35 ° C 之间。

⚠ 警告：在墙上钻孔固定壁挂架时请当心，以免发生触电风险。


组装吸拖一体机



- 1 组装产品时，将手柄嵌入机体即可（可听到“咔哒”一声）。




- 2 将电池仓装入湿拖模块把杆中污水箱的上方（可听到“咔哒”一声）。



- 3 要存放吸拖一体机，可将其放在清洁后装置和收纳座中。

拆卸手柄



如要拆解产品，请按照以下步骤进行操作：


- 1 将销/平头螺丝刀插入产品背部的孔中，然后向上拉手柄。




2 继续将螺丝刀推入孔中，并将手柄从产品中抽出。

i 注意：请注意，吸嘴和水箱内可能会有少量净水残留。这是出厂质量检查造成的。请放心，设备已彻底清洁，可以安全使用。


安装仅吸尘装置




1 要组装仅吸尘装置，请将电池仓滑入到手柄下方的适当位置（可听到“咔哒”一声）。



2 将带集尘桶的手持设备安装到硬管上（可听到“咔哒”一声）。



3 将硬管装入到 LED 吸嘴中。





4 要存放仅吸尘装置，请将其挂在壁挂架上。将集尘桶滑入壁挂架，确保紧密贴合。

拆卸和安装电池仓

在仅吸尘装置中拆卸和安装电池仓



- 1 按下手柄侧面的按钮。
- 2 按住按钮，同时将电池仓从手持设备中滑出。



- 3 要安装电池仓，只需将其滑入到手柄下方的适当位置（可听到“咔哒”一声）。确保正确对齐连接器，从而确保紧密贴合。

在吸拖一体机中拆卸和安装电池仓

- 1 按下设备侧面的按钮。
- 2 按住按钮，同时将电池仓从污水箱上方滑出。




- 3 要安装电池仓，只需将其滑入到适当位置（可听到“咔哒”一声）。确保正确对齐连接器，从而确保紧密贴合。

充电

为吸拖一体机充电

本产品配备 25 V 锂电池。充电需 4 小时。



- 1 为产品充电时，请打开产品背部的密封盖。
- 2 将电源插头插入产品背面的插孔。




- 3 将适配器插入插座




- 4 电池图标和圆弧将在屏幕上闪烁，表示产品正在充电。



- 5 当产品充满电时，电池图标和所有圆弧将在屏幕上亮起。几分钟后，显示屏将关闭。



- 6 使用产品进行清洁之前，将产品背面插孔上的电源插头拔出。



7 合上密封盖。


 提示：可在清洁后装置和收纳座中对本产品进行充电。

 提示：可以在方便的地方单独为本产品充电。


为仅吸尘装置充电

本产品配备 25 V 锂电池。充电需 4 小时。


1 要为本产品充电，请将电源插头插入产品背面的插孔中。



2 将带集尘桶的手持设备滑入壁挂架。



3 将适配器插入插座



4 电池图标和圆弧将在屏幕上闪烁，表示产品正在充电。





- 5 当产品充满电时，电池图标和所有圆弧将在屏幕上亮起。几分钟后，显示屏将关闭。



- 6 使用产品进行清洁之前，将产品背面插孔上的电源插头拔出。

 提示：当本产品放置在壁挂架上时，可对其进行充电。

 提示：可以在方便的地方单独为本产品充电。


对硬地板进行吸尘和拖地

使用本产品


净水箱和污水箱在交付时已安装在产品上。您可以使用本产品来清洁硬地板。

i 注意：本产品适用于同时进行吸尘和拖地。拖地前无需吸尘。


本产品适用于对所有类型的硬地板（无涂层木地板除外）进行吸尘和拖地。您可以在隐蔽的小块区域试用本产品，确保产品适用于您的地板。



- 1 按下按钮，解锁净水箱并将其取下。




2 打开净水箱上的盖子。




3 在净水箱中加入 15 毫升 XV1792 飞利浦地板清洁剂。

⚠ 警告：飞利浦使用 XV1792 飞利浦地板清洁剂对本产品进行了测试。其他清洁剂可能会产生大量泡沫，从而降低性能，并可能导致产品发生故障。XV1792 飞利浦地板清洁剂在部分市场有售。在使用任何其他合适的液体地板清洁剂时，最多只能在净水箱中加入 10 毫升。




4 向净水箱中注满冷水或温自来水。


⚠ 警告：倒入净水箱的自来水温度不得高于 50° C。




5 合上水箱的密封盖。



6 将净水箱放回产品内。




7 将产品从清洁后装置和收纳座上取下，放到地板上。用脚踩住 AquaSpin 吸嘴，然后向后拉手柄，将 AquaSpin 吸嘴解锁。此时产品已准备就绪。



8 若要打开产品，请按下/关按钮。

i 注意：本产品正常湿模式下将自动打开。

⚠ 警告：AquaSpin 吸嘴处于解锁状态或产品打开时，本产品必须有人看管。



9 使用模式更改按钮  在以下三种不同的设置之间进行切换：

- 正常湿模式（启动时自动进入）
- 强湿模式
- 吸水模式

当吸拖产品打开后，默认设置为正常湿模式。您可以使用此模式进行定期湿拖清洁。

强湿模式  用于清洁更多顽固污渍。

如果清洁后地板上有水渍，可以选择吸水模式  清洁水渍。我们还建议在您提起本产品经过门槛、地毯或楼梯时使用该模式。

如果您选择吸水模式 ，本产品将停止供水并增大吸力 45 秒以吸收地板上的残留水渍。

产品使用完毕后，按下/关按钮关闭产品。产品将转至吸水模式，持续 6 秒，清除吸嘴中残留的水分。



i 注意：如果在产品关闭的状态下将其保持不动，它可能会在地板上留下一小滩水。可在产品关闭时移动产品，以此来缩小这滩水的范围。若有需要，可以用干布擦去最后几滴水。

i 注意：延迟关熄时间：按下开/关按钮后，本产品将运行 6 秒，然后完全关闭。这是正常现象。这额外的 6 秒钟，用来清除吸嘴中和地板上的残留水分

吸拖一体机的暂停功能

该产品具有暂停功能。

在使用过程中，如果将手柄向前推并锁定在直立位置，则设备将进入待机模式并暂停 15 秒。



要重新开始清洁，请用脚踩住 AquaSpin 吸嘴，并在 15 秒内向后拉手柄。设备将自动继续清洁。

i 注意：如果使用暂停功能 15 秒后没有任何活动，设备将自动关闭。要在自动关闭后重新启动设备，只需按下开/关按钮。

主动保护系统

- 本产品配有主动保护系统。该主动保护系统可识别出从地板上吸取了异物，而非污垢或液体。
- 该系统激活后，产品将会关闭，显示屏上将开始闪烁吸嘴堵塞错误图标（请参见显示图标及其含义）。主动保护系统也可能在以下三种情况下激活：微纤维毛刷太湿、产品移到地毯或毯子上，或者产品移到未正确贴合的地板上。

提示和其他重要信息

- 拖地前无需吸尘，因为吸拖一体机会主动对硬地板进行湿拖清洁，以吸走液体和污渍等各种污垢。对于地毯和毯子，请使用仅吸尘装置。
- 如果硬地板不需要拖地，只需使用配备 LED 灯和 PowerCyclone 12 技术的仅吸尘装置，即可精准而强力地扫除污垢。

- 本产品可以像吸尘器一样快速移动。要去除顽固污渍，请按下清洁模式按钮激活强湿模式 ，然后缓慢移动本产品清理污渍。
- 如果在产品关闭的状态下将其保持不动，它可能会在地板上留下一小滩水。可在产品关闭时移动产品，以此来缩小这滩水的范围。若有需要，可以用干布擦去最后几滴水。
- 在清洁过程中，若要提起本产品经过门槛、地毯或楼梯，建议激活吸水模式 。这样可以防止污水从 AquaSpin 吸嘴中滴出。
- 移动产品时，建议伸展手臂，以减少不必要的肌肉紧张。使用该姿势进行清洁，可以更好地控制本产品，清洁过程也更加舒适。

i 注意：当您使用吸水模式  时，产品中不再有水流出，并且吸力将会增大。45 秒后，如果您不采取任何措施，产品会自动切换回正常湿模式。

i 注意：请注意，吸嘴和水箱内可能会有少量净水残留。这是出厂质量检查造成的。请放心，设备已彻底清洁，可以安全使用。

使用限制

- 吸拖一体机适用于对所有类型的硬地板（无涂层木地板除外）进行吸尘和拖地。
- 吸拖一体机适合用于定期清洁硬地板。使用本产品时，请务必遵循硬地板的清洁说明。
- 如果要在净水箱的水中加入除了 XV1792 Philips 地板清洁剂以外的液体地板清洁剂，请确保使用像 XV1792 Philips 地板清洁剂一样可在水中稀释的低泡沫或无泡沫液体地板清洁剂。
- 由于净水箱容量为 450 ml，只需在水中加入几滴（最多 15 ml）液体地板清洁剂即可。
- 如果在油毡地板上使用吸拖一体机，请仅在正确贴合的油毡地板上使用，防止油毡吸入到 AquaSpin 吸嘴中。
- 请勿使用吸拖一体机清洁地毯。
- 如果您在产品关闭时在地毯或毯子上移动/抬起产品，污水滴可能会落到地毯或毯子上。
- 请勿在对流加热器的地板栅格上推动本产品。在栅格上移动本产品时，由于本产品无法清扫吸嘴中流出的水，水将进入对流孔的底部。

- 清洁时，请勿将 AquaSpin 吸嘴从地板上提起或将 AquaSpin 吸嘴侧向移动，转动请勿过于剧烈，否则会留下水迹。只能前后移动。


i 注意：运行时间取决于清洁期间所使用的功率大小。

对软地板和硬地板吸尘


使用仅吸尘装置



- 1 要对软地板或硬地板吸尘，请将电池仓滑入到手持设备中的适当位置（可听到“咔哒”一声）。




- 2 将硬管连接到手持设备（可听到“咔哒”一声）。




- 3 将硬管另一端插入到 LED 吸嘴中（可听到“咔哒”一声）。

⚠ 警告：在开始清洁之前，请确保滤网盒已插入集尘桶中。




- 4 若要打开产品，请按下/关按钮 .

i 当仅吸尘产品或仅吸尘手持设备打开时，默认设置为正常吸力模式。



5 使用 Turbo 按钮  切换到更高吸力设置。



6 再次按下 Turbo 按钮  可切换回正常吸力设置。



 提示：LED 吸嘴中的 LED 更便于您看到地板上的污垢。借助硬管和 LED 吸嘴，无需扭转设备即可将其伸入到低矮的家具下方。



 警告：请勿吸入水或其他液体。



 警告：请勿直视 LED 吸嘴的 LED，也不要将 LED 对准他人的眼睛。LED 灯的亮度很高。

使用硬管

可以将硬管安装到手持设备上，在不安装吸嘴的情况下使用硬管末端对家具之间或后面的狭窄空间进行吸尘。



💡 提示：此外，也可以将迷你涡轮刷安装到硬管上。



💡 提示：还可以将长扁吸嘴安装到硬管上。



💡 提示：还可以将组合工具安装到硬管上。


使用手持设备



在不安装吸嘴和硬管的情况下，可以使用手持设备清理小块灰尘和污垢（例如洒落的面包屑），或对楼梯和架子进行吸尘。


⚠ 警告：请勿吸入水或其他液体。

使用 LED 吸嘴



可以使用 LED 吸嘴清洁区域，例如楼梯的台阶、吸走角落或狭窄壁架上的污垢，或清理小块污垢（例如洒落的面包屑）。

1 要安装 LED 吸嘴，请将硬管或手持设备插入吸嘴中。




2 要拆下 LED 吸嘴，请按下拆卸按钮 (1) 并将硬管或手持设备从吸嘴中拔出 (2)。


⚠ 警告：请勿吸入水或其他液体。

i 注意：还可以将组合工具安装到硬管上。


使用迷你 Turbo 刷




1 要安装迷你涡轮刷，请将手持设备的硬管插入迷你涡轮刷中。



- 2 可以使用迷你涡轮刷进行标准清洁，例如清洁床和长沙发等柔软区域。可以根据自己的清洁需求调节功率设置。



- 3 可以使用迷你涡轮刷进行更彻底的清洁，例如吸走宠物毛发或清理小块污垢（例如洒落的面包屑）。可以根据自己的清洁需求调节功率设置。




- 4 要拆下迷你涡轮刷，请按下拆卸按钮 (1) 并将手持设备从迷你涡轮刷中拔出 (2)。




⚠ 警告：请勿吸入水或其他液体。


使用长扁吸嘴



- 1 要安装长扁吸嘴，请将硬管或手持设备插入长扁吸嘴中。



- 2 可以使用长扁吸嘴清洁狭窄角落或难以触及的区域。可以根据自己的清洁需求调节功率设置。



- 3 要拆下长扁吸嘴，请按下拆卸按钮 (1) 并将硬管或手持设备从长扁吸嘴中拔出 (2)。




警告：请勿吸入水或其他液体。


使用组合工具



- 1 要安装组合工具，请将硬管或手持设备插入组合工具中。



- 2 此组合工具搭配自定义可拆卸毛刷和照明设置，专为清洁窗框、窗帘或蛛网而设计。



- 3 要拆下组合工具，请按下拆卸按钮 (1) 并将硬管或手持设备从组合工具中拔出 (2)。




⚠ 警告：请勿吸入水或其他液体。


清理吸拖一体机

每次使用后执行 AUTOCLEAN


为防止异味和水垢沉积，请在每次使用后运行 每次使用后执行 自动清洁 功能。每次使用后执行 自动清洁 模式可帮助您在大约 4 分钟内清洁整个产品。




- 1 将吸拖一体机放在清洁后装置和收纳座中。




i 注意：如果污水水位低于 每次使用后执行 自动清洁 水位，无需在启动 自动清洁 程序之前清空水箱。可跳过以下步骤，前进到第 6 步。




2 按下按钮，解锁污水箱并将其取下。




3 从污水箱中取出湿式滤网。




4 将污水箱中的水倒入水槽中。




5 将湿式滤网放回污水箱上。




6 将空的污水箱放回产品中，然后取出净水箱。



7 取下净水箱的盖子。




8 将净水箱中剩余的液体清洁剂倒入水槽中。




9 向净水箱中注入冷水或温自来水，至少达到自动清洁水位标示。


- ⚠ 警告：倒入净水箱的自来水温度不得高于 50° C。
- ⚠ 警告：自动清洁时请勿使用清洁剂，否则可能会产生过多泡沫。



10 用密封盖关闭水箱。




11 将净水箱放回产品内。




12 为产品充电。将电源插头插入产品背面的插孔。然后，将适配器插入插座。

i 注意：必须连接充电器才能启动 AUTOCLEAN 功能。




13 要启动 AUTOCLEAN，请按下自动清洁按钮。启动自动清洁之前，请确保充电器已连接。




14 本产品将执行自动清洁周期。


i 注意：自动清洁周期大约持续 4 分钟。为了获得最佳效果，请让产品完整运行自动清洁周期。可以随时暂停或取消自动清洁周期。

i 注意：如果取消自动清洁程序，本产品会在约 10 秒的时间内吸出清洁后托盘中残留的水。




15 AUTOCLEAN 完成后，按下此按钮解锁污水箱并将其取下。






16 从污水箱中取出湿式滤网。



17 将污水箱中的水倒入水槽中。




18 在水龙头下清洗污水箱。




19 在水龙头下清洗湿式滤网。


i 注意：在水龙头下清洗湿式滤网装置之前，请先取下褶皱滤网。



⚠ 警告：褶皱滤网不能水洗。如果需要清洁褶皱滤网，请对着垃圾箱轻拍褶皱滤网，清除其中的灰尘。




20 将湿式滤网晾干。




21 将湿式滤网放回污水箱上。


i 注意：确保褶皱滤网已装入到位。



22 将污水箱放回产品内。



23 要取下刷子，请从侧面拉出控制杆 (1)，然后逆时针旋转 (2)。从 AquaSpin 吸嘴中拉出刷子 (3)




24 为了让刷子晾干，请将刷子的开口端放在清洁后装置和收纳座的指定支架上。

i 注意：可能需要大约 24 小时才能完全晾干。


清理清洁后托盘

如果清洁后托盘变脏，可以按照以下步骤进行清洁。


- 1 从收纳座中取出清洁后托盘。



- 2 在水龙头下冲洗清洁后托盘并将其晾干，然后再将其放回收纳座。




- 3 请务必始终将清洁后托盘放回收纳座。清洁后托盘对于正确执行自动清洁至关重要。





清洁 AquaSpin 吸嘴

- 1 要取下刷子，请从侧面拉出控制杆(1)，然后逆时针旋转(2)。从 AquaSpin 吸嘴中拉出刷子(3)。




- 2 可以用一只手向下滑动微纤维毛刷，清除微纤维毛刷上缠绕的毛发或线头。






 提示：也可以用剪刀剪掉缠绕在微纤维毛刷周围的毛发和线头。

清理机体中的堵塞物



如果本产品堵塞，请先关闭产品并取下污水箱。然后，在机体的吸入通道中上下移动清洁刷来清除堵塞物。


清理 AquaSpin 吸嘴中的堵塞物



如果 AquaSpin 吸嘴堵塞，从吸嘴上取下毛刷。然后，在 AquaSpin 吸嘴的吸入通道中上下移动清洁刷来清除堵塞物。


仅吸尘装置

清空集尘桶




除尘管理系统保养



每次使用后或出现灰尘量达到最大 MAX 级别指示时，应清空集尘桶。




1 关闭产品。




2 如图所示，以 45 度角手持产品。按拆卸按钮取下集尘桶。
拆卸按钮位于集尘桶底部。




i 注意：在保持产品直立的同时拆卸集尘桶。




3 手握黑色手柄。从集尘桶中提起旋风滤网并将其取下。




4 将集尘桶收集的灰尘倒入垃圾箱。



5 请对着垃圾箱轻拍旋风滤网，以清除其中的残留灰尘。



6 将旋风滤网装回到集尘桶上。确保两部分安装到位。




7 将集尘桶装回原位。首先对准集尘桶装有滤网的一侧，然后将其安装到位。

间歇性定期保养


除尘管理系统保养

每个月至少清洁一次滤网。



1 逆时针旋转滤网，将其从集尘桶上取下。



2 从塑料滤网盒中取出可水洗海绵滤网。



3 轻敲滤网盒和海绵滤网，使其中的脏污落入垃圾桶中。








4 一边冲洗海绵滤网一边挤压，直至滤网流出净水。

i 注意：为了获得最佳清洁效果，请在冲洗滤网时将滤网罩朝下，以便冲洗掉顽固的灰尘。

i 注意：如果您经常使用本产品，请确保每月至少清洗一次滤网。




5 洗净的滤网需晾干 24 小时，然后将海绵滤网重新组装在滤网盒内。




6 为了进行彻底的保养，请在打开的水龙头下或在温热的肥皂水中清洁集尘桶和旋风滤网。




7 将洗净的集尘桶和相关部件擦干。




⚠ 警告：重新组装之前，确保所有部件都已完全干燥。




i 注意：所有部件均不可放入洗碗机清洗。



8 将滤网装回到集尘桶上。顺时针旋转滤网，使其固定到位。




9 将集尘桶装回原位。首先对准集尘桶装有滤网的一侧，然后将其安装到位。




i 注意：保养之后，始终确保在使用前滤网已安装在产品上。


PrecisionPower 智能吸嘴保养




1 在清洁吸嘴滚刷前，务必关闭本产品。




2 要取下滚刷，请找到吸嘴侧面的按钮。按下按钮并旋转打开。




3 轻轻取下滚刷和吸嘴的侧盖。



4 仔细清除滚刷上所有缠绕的毛发。可借助剪刀清除污物。




5 重新组装时，确保滚刷安装到位。




6 锁定吸嘴滚刷，听到“咔嗒”声即可。


迷你 Turbo 刷保养



1 逆时针旋转刷子即可松开。解锁后，拉出刷子。



2 用手或剪刀清除刷子上的污物。



3 将刷子滑入到位并顺时针旋转以将其锁定到位。

显示图标及其含义

错误代码

错误代码	原因	解决方法
	存在系统错误。	红色持续亮起图标表示您的飞利浦 AquaTrio 7000 系列吸尘器存在系统错误。 要解决此问题，请尝试以下一种或全部方案： 1.从产品中取出电池仓，然后重新装入电池仓。随后尝试重启产品。 2.断开仅吸尘手持设备与硬管之间的连接并按下手持设备上的开/关按钮。如果您仍然看到红色持续亮起的图标，请联系客户服务中心。 如果您没有看到红色持续亮起的图标并且产品仍然无法工作，则可能是硬管或吸嘴存在通信问题。请联系客户服务中心。
	温度过低。	电池和错误图标同时闪烁红色表示环境温度过低或过高 确保产品使用、存放或进行充电所在的房间温度高于 5 ° C。
	温度过高。	电池和错误图标同时闪烁红色表示环境温度过低或过高 确保产品使用、存放或进行充电所在的房间温度低于 35 ° C。请勿将设备暴露在直射的阳光下或高温下（靠近热炉、在微波炉中或在电磁炉上）。如果过热，电池可能会爆炸。

错误代码	原因	解决方法
	闪烁的红色图标表示进风口堵塞。 进风口堵塞。	检查进风口是否有堵塞物，并将其清除。如果这种方法无法解决问题，请检查整个空气通道中是否有堵塞物，并将其清除。请检查吸拖一体机中的吸嘴、硬管和湿式滤网。在仅吸尘装置中，请检查吸嘴、硬管、集尘桶和海绵滤网。
	污水箱已满。	解锁污水箱并将其取下。从污水箱中取出湿式滤网并放在一边。将污水箱中的水倒入水槽中。
	AquaSpin 吸嘴被卡住。这是一个安全保护装置，如果有异物（例如，电缆或玩具）卡在吸嘴中，会切断电源。	检查毛刷、轴承、马达部件和盖子上是否有毛发或其他障碍物，并将其清除。如果没有障碍物，关闭并重启产品可能会解决此问题。
	不要接电源使用。	拔下产品电源后再进行使用。否则，产品将无法启动。仅在充电和 AutoClean 模式下接通产品电源。
	连接了错误的充电器。	电池和错误图标同时闪烁琥珀色表示存在充电错误。 1.连接了错误的充电器：仅可使用原装适配器为产品充电。 2.未正确/完全插入充电端子：拔出充电端子并重新插入到产品中 3.电池仓未装好：取出并重新装入电池仓，直到听到明确的“咔哒”声，然后连接正确的充电器

错误代码	原因	解决方法
	没有连接充电器。	AutoClean 图标 + 快速闪烁的电池图标（白色） 需要连接充电器才能运行自动清洁程序。 请确保将设备正确放入清洁后装置和收纳座中。连接充电器。
	电池电量不足。	AutoClean 图标 + 快速闪烁的电池图标（红色） 如果连接了充电器并且显示此图标，则表示电池电量不足以运行自动清洁程序。 如果连接了充电器，请最多等待 30 分钟以给电池充电。然后按下自动清洁按钮以启动此程序

更换


如需购买附件或备件，请访问 www.philips.com/parts-and-accessories 或联系您的飞利浦经销商。您还可以与所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系。

替换部件和型号：


干滤网 XV1771/10



湿滤网 XV1770/10



清洁刷 XV1773/10



i 注意：每 6 个月更换一次滤网和微纤维毛刷，确保获得最佳性能。

故障处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

使用吸拖一体机

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关Ⓢ按钮启动产品。	未连接电池仓。	将电池仓连接到吸拖手持设备。
	电池已耗尽。	给电池充电时，请将吸拖产品与充电器连接 (请参见 '充电')。
	未将产品从清洁后装置和收纳座中取出。	将吸拖一体机从清洁后装置和收纳座中取出，然后再启动本产品。
	多次按下开/关Ⓢ按钮。	请稍等片刻，然后再按一次开/关Ⓢ按钮。请稍等片刻，然后重试。
	未将吸拖一体机的手柄正确连接到本产品。	将产品机身下部放在清洁后装置和收纳座上。然后将手柄连接到

问题	可能的原因	解决方法
		本产品并向下按紧，直至听到“咔哒”声。
	产品堵塞。	关闭产品并取出电池或拆下吸拖手持设备。然后，找出并排除堵塞原因。随后重启产品。如果无法确定堵塞原因，请重启本产品。这可能会解决此问题。检查进风口是否有堵塞物，并进行清洁。
	微纤维毛刷卡住。	取出微纤维毛刷，然后将其放回。
产品停止工作。	不小心用手触碰到了开/关⑩按钮。	按下开/关⑩按钮启动产品。
	污水箱可能已满。在这种情况下，屏幕上会显示信息图标 (请参见 '显示图标及其含义')。	倒空污水箱。
地板不像平常那么湿。	喷水孔堵塞	将微纤维毛刷取下，向净水箱中注入一些水，然后启动产品。在同一位置前后小幅度移动约 15 秒的时间。您应该能在地板上看到四条水痕。如果并非如此，或者在一条或多条水痕上只有几滴水，则喷水孔部分堵塞或完全堵塞。可以尝试用针小心地将孔疏通开。
吸嘴下方一侧的地板没有另一侧地板那么湿。	喷水孔堵塞。	将微纤维毛刷取下，向净水箱中注入一些水，然后启动产品。在同一位置前后小幅度移动约 15 秒的时间。您应该能在地板上看到四条水痕。如果并非如此，或者在一条或多条水痕上只有几滴水，则喷水孔部分堵塞或完全堵塞。可以尝试用针小心地将孔疏通开。
地板上没有水。	净水箱已空。	为净水箱重新加水。

问题	可能的原因	解决方法
		如果已执行上述检查，但地板上仍然没有水，请将产品送至飞利浦服务中心或联系客户服务中心。
地板上或清洁后托盘中的水比平常多。	湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道受到污染或堵塞。	使用清洁刷清洁湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道。
	污水箱未放好。	将污水箱正确地放入产品中。当听到“咔哒”一声，就表示污水箱盖好了。
产品在地板上留下水迹。	您向侧边移动了产品。	为防止地板上留下水迹，请尝试减小转动 AquaTrio 7000 系列的力度，并避免向侧边移动产品。您可以通过按下清洁模式按钮 [Ⓢ] 来激活吸水模式。地板上所有剩余的水分都将被吸收。
	产品转动过于剧烈。	为防止地板上留下水迹，请尝试减小转动 AquaTrio 7000 系列的力度，并避免向侧边移动产品。您可以通过按下清洁模式按钮 [Ⓢ] 来激活吸水模式。地板上所有剩余的水分都将被吸收。
	提起本产品经过门槛、地毯或楼梯。	确保微纤维毛刷与地板保持接触。在提起本产品经过门槛、地毯或楼梯前， [Ⓢ] 请确保吸水模式已开启，以防在地板上留下水迹或水从 AquaSpin 吸嘴中溅出。
	关闭产品后，立即将其从地板上提起。	开启吸水模式 [Ⓢ] 吸收剩余的水。产品关闭前，在吸水模式激活状态下前后 [Ⓢ] 移动本产品数次。如果在关闭产品后，立即将其提起，毛刷之间残留的水分会在地板上留下水迹。
	滚轮堵塞。	检查滚轮的运行状况。清除堵塞滚轮的污垢。

问题	可能的原因	解决方法
产品的清洁效果没有以前好。	净水箱已空。	为净水箱重新加水。
	喷水孔堵塞。	将微纤维毛刷取下，向净水箱中注入一些水，然后启动产品。在同一位置前后小幅度移动约 15 秒的时间。您应该能在地板上看到四条水痕。如果并非如此，或者在一条或多条水痕上只有几滴水，则喷水孔部分堵塞或完全堵塞。可以尝试用针小心地将孔疏通开。
	AquaSpin 吸嘴内部太脏。	先运行 AUTOCLEAN 程序，然后再继续清洁。如果吸嘴的边缘有污垢堆积，请将其清除。每次使用后，请务必运行 AUTOCLEAN 功能。
	没有放入微纤维毛刷。	将微纤维毛刷放入 AquaSpin 吸嘴中。
		如果已执行上述检查，但产品的清洁效果仍然不好，请将其送至飞利浦服务中心或联系客户服务中心。
大块污垢无法再吸入，而是落回到地板上。	湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道受到污染或堵塞。	使用清洁刷清洁湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道。
地板干后出现痕迹。	可能用了太多清洁剂。	确保清洁剂用量正确。
	滚轮脏了。	清除滚轮上的污垢。
清洁时有太多泡沫，AUTOCLEAN 期间也是如此。	可能用了太多清洁剂。	确保清洁剂用量正确。
	地板上仍有清洁剂残留。	在不使用清洁剂的情况下，清洁地板数次。稍等片刻再重新擦拭此污渍。
很难清理污渍。	可能用水量太少，或者清理污渍的时间太短。	洒上水后稍等片刻。例如，可以使用本产品擦拭污渍，先洒上

问题	可能的原因	解决方法
		水，然后在清洁阶段结束时再清理此污渍。
清洁时，产品声音发生改变。	可能有毛发或其他障碍物缠绕在微纤维毛刷周围。	取下微纤维毛刷，检查毛刷上是否有障碍物，并将其清除。
显示屏显示污水箱已满，然后关闭，但污水箱并未满。	污水箱中可能有泡沫或污染物。	请重启产品。如果这种方法无法解决问题，请清洁污水箱。如果问题是有泡沫，请确保使用的清洁剂不超过推荐用量。
产品关闭后，有水滴出。	由于在产品关闭时您将其保持不动，因此会在地板上留下一滩水。这是正常现象。	如果在产品关闭的状态下将其保持不动，它可能会在地板上留下一小滩水。可在产品关闭时移动产品，以此来缩小这滩水的范围。产品关闭后，将转至吸水模式，  持续 6 秒，清除吸嘴中残留的水分。若有需要，可以用干布擦去最后几滴水。
	您拿着本产品走过地板时（在空中握持产品），有水滴落下来。	清洁时，请勿将 AquaSpin 吸嘴从地板上提起，否则会留下水迹。只能前后移动。
	由于净水箱过满，水从净水箱中漏出。	注入净水箱的水不得超过 MAX（最高）水位标示。如果超过了，拧紧盖子时，水可能会从净水箱中溢出。
	其中一个水箱上有裂纹。	如果其中一个水箱损坏，请将其送至飞利浦服务中心或联系客服服务中心。
无法取下微纤维毛刷。	微纤维毛刷中缠绕了毛发和/或污物。	通过滑出控制杆来解锁毛刷。向两个方向旋转控制杆几次以松开毛刷。逆时针方向旋转即可取出毛刷。如果很难取出毛刷，还可以从 AquaSpin 吸嘴下方推一下毛刷。清除缠绕的毛发或污物。如果很难将毛刷取出，可以从 AquaSpin 吸嘴下方推一下毛刷。

问题	可能的原因	解决方法
无法前后移动产品。	可能有小物体堵塞了一个或多个滚轮。	通过滑出控制杆来解锁毛刷。向两个方向旋转控制杆几次以松开毛刷。逆时针方向旋转即可取出毛刷。如果很难取出毛刷，还可以从 AquaSpin 吸嘴下方推一下毛刷。
本产品的吸力比往常要小。	湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道受到污染或堵塞。	使用清洁刷清洁湿拖模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道。
	在污水箱中的网面未完全晾干的情况下再次使用。	清洁污水箱并将其晾干。
	微纤维毛刷上有毛发缠绕。	关闭产品，清除微纤维毛刷上的毛发。
	污水箱未放好。	将污水箱正确地放入产品中。当听到“咔哒”一声，就表示污水箱盖好了。
微纤维毛刷不再旋转	微纤维毛刷被毛发或污垢堵塞。	用剪刀或用手清洁微纤维毛刷。
微纤维毛刷弹出。	微纤维毛刷没有锁定到位。	将微纤维毛刷放回到正确的位置，并将其锁定到位。
产品未充电。	电源插头未正确连接到插座，或适配器未正确插入电源插座。	确保将电源插头正确连接到插座，并将适配器正确插入电源插座。
	没有放入电池仓。	请装入电池仓。
	电池仓未正确安装。	请装入电池仓，直到听到“咔哒”一声。
	连接了错误的适配器。	请使用原装适配器。
		如果已执行上述检查但产品依然无法充电，请将其送往 Philips 服务中心，或联系客户服务中心。
有时，在使用吸尘器时会有触静电的感	吸尘器会积聚静电。空气湿度越低，产品积聚	握持产品时，请务必用手触碰金属端子。

问题	可能的原因	解决方法
觉。	的静电就越多。	
	使用吸尘器清理灰尘和污垢，这也会引发静电。	握持产品时，请务必用手触碰金属端子。
本产品不会立即关机。	已启用延迟关机功能。	按下开/关按钮后，本产品将运行 6 秒，然后完全关闭。这是正常现象。这额外的 6 秒钟，用来清除吸嘴中和地板上的残留水分。

使用仅吸尘装置

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关⑩按钮启动产品。	没有连接电池仓。	将电池仓连接到仅吸尘手持设备。
	电池已耗尽。	给电池充电时，请将仅吸尘产品与充电器连接 (请参见 '充电')。
	多次按下开/关⑩按钮。	请稍等片刻，然后再按一次开/关⑩按钮。请稍等片刻，然后重试。
	产品堵塞。	关闭产品并取出电池或供电装置。然后，找出并排除堵塞原因。随后重启产品。如果无法确定堵塞原因，请重启本产品。这可能会解决此问题。
	滚刷卡住。	取出滚刷，清除缠绕在毛刷和马达周围的任何毛发，然后将其放回。
无法将手持设备连接到集尘桶。	滤网盒以倒置的方式进行组装。	反转滤网盒。应该能看到圆形开口。
	滤网盒没有盖好。	盖上滤网盒时，请确保听到“咔哒”一声。如果不好盖，可能海绵滤网倒置了。
产品停止工作。	不小心用手触碰到了开/关⑩按钮。	按下开/关⑩按钮启动产品。

问题	可能的原因	解决方法
	产品堵塞。	关闭产品并取出电池或供电装置。然后，找出并排除堵塞原因。随后重启产品。如果无法确定堵塞原因，请重启本产品。这可能会解决此问题。
清洁时，产品声音发生改变。	可能有毛发或其他障碍物缠绕在滚刷周围。	请检查是否有障碍物，并将其清除。
	旋风滤网被障碍物堵塞。	检查旋风滤网上是否有障碍物，并将其清除。
本产品的吸力比往常要小。	滤网和/或旋风滤网脏了。	倒空集尘桶。清洁滤网和旋风滤网。确保清除卡在旋风滤网中的任何毛发和污垢。可以取下旋风滤网，轻松进行保养。如果您经常使用本产品，请确保每月至少清洗一次滤网。
	旋风滤网被异物阻塞。	检查旋风滤网是否被异物卡住，并清除堵塞旋风滤网的任何异物。确保清除卡在旋风滤网中的任何毛发和污垢。
	滚刷后面的吸入通道堵塞。	取下滚刷，然后检查吸入通道中是否有障碍物并将其清除。
	未将滤网盒正确安装到集尘桶上，或者未将集尘桶正确安装到产品上。在这两种情况下，吸力将降低。	确保将滤网盒正确安装到集尘桶上，并将集尘桶正确安装到产品上。
	滚刷被毛发或污垢堵塞。	关闭产品，然后用剪刀或用手清洁滚刷。
灰尘从产品中溢出。	滤网盒中没有海绵滤网，或者缺少顶盖。	确保已将滤网放入产品并正确地进行组装。
打开集尘桶时有灰尘溢出。	这属于正常现象，是降压造成的。	如果可能，请从外部拆开本产品。
在清洁地毯时，产品无法在地板上顺畅移动。	您选择的吸力太大。	选择设置 1，或者在地毯上更缓慢地移动，从而降低吸力。


问题	可能的原因	解决方法
滚刷不再旋转。	滚刷被毛发或污垢堵塞。	用剪刀或用手清洁滚刷。
	滚刷在长毛绒地毯上遇到太大阻力时，可能会停止转动。	关闭产品，然后将其重新打开。
	清洗滚刷后未正确将其安装到吸嘴上。	请按照本用户手册中的说明，将滚刷正确滑入吸嘴。并将锁定杆扣合到位，以便将滚刷固定到吸嘴内。
吸嘴中的 LED 指示灯不亮。	未将吸嘴正确安装到硬管或产品上。	将吸嘴正确安装到硬管或产品上。如果问题未解决，请将其送至飞利浦服务中心或联系客服服务中心。
产品未充电。	插头未正确连接到插座，或适配器未正确插入电源插座。	确保将插头正确连接到插座，并将适配器正确插入电源插座。
	没有放入电池仓。	请装入电池仓。
	电池仓未完全装入。	请装入电池仓，直到听到“咔哒”一声。
	连接了错误的适配器。	请使用原装适配器。
		如果已执行上述检查但产品依然无法充电，请将其送往 Philips 服务中心，或联系客服服务中心。
迷你 Turbo 刷无法正常工作。	滚刷被阻塞。	用剪刀清除刷子上的毛发。
	清洁过程中，滚刷被织物或表面阻塞。	保持迷你涡轮刷与表面对齐，切勿将涡轮刷推入软质表面。
	滚刷未正确装入吸嘴。	确保将滚刷正确装入吸嘴，部件之间没有间隙。

问题	可能的原因	解决方法
有时，在使用吸尘器时会有触静电的感觉。	吸尘器会积聚静电。空气湿度越低，产品积聚的静电就越多。	握持产品时，请务必用手触碰金属端子。
	使用吸尘器清理灰尘和污垢，这也会引发静电。	握持产品时，请务必用手触碰金属端子。

內容

概要	286
簡介	287
一般描述	287
第一次使用前	287
充電	291
硬質地板吸塵與拖地	294
軟質與硬質地板吸塵	298
清潔吸塵器和拖把組	304
清潔單吸塵器組	311
顯示圖示及意義	319
更換	321
疑難排解	321

概要



簡介

感謝您購買此飛利浦產品！為了享有飛利浦為您提供的完整支援服務，請至下列位址註冊產品：www.philips.com/myvacuum9000s。


一般描述

- 1 壁掛架
- 2 隙縫吸頭
- 3 2 合 1 吸頭
- 4 乾式吸塵器的加速按鈕
- 5 乾式吸塵器的開/關按鈕
- 6 乾式吸塵器的握柄和集塵桶
- 7 加長管
- 8 配件收納在管上
- 9 吸塵器吸頭
- 10 電動渦輪旋轉刷毛
- 11 電源轉換器
- 12 電源裝置
- 13 強力濕拖模式指示燈
- 14 DWT 已滿指示燈
- 15 AutoClean 指示燈
- 16 電量指示器
- 17 吸水指示燈
- 18 吸頭卡住指示燈
- 19 錯誤指示燈
- 20 乾式加速指示燈
- 21 濕式吸塵器的握柄
- 22 吸力模式變更按鈕
- 23 濕式吸塵器的開/關按鈕
- 24 Auto clean 按鈕
- 25 淨水箱
- 26 污水箱
- 27 AquaSpin 吸頭
- 28 2 合 1 清潔刷
- 29 清潔後與儲存座
- 30 清潔後托盤
- 31 清潔劑

第一次使用前


組裝清潔後與儲存座

為了使用 AUTOCLEAN 功能，或將產品存放於清潔後與儲存座並充電，需先將吸塵器固定座扣上底盤，以組裝儲存座。




i 注意：請務必將清潔後托盤放置於底盤中，且存放、清潔產品和為產品充電時的室溫介於 5° C 到 35° C 之間。

安裝壁掛架



若要將單吸塵器組存放於壁掛架上充電，請使用隨附的螺絲將壁掛架固定於牆壁。壁掛架必須位於離地板 105 - 115 公分高的位置。




i 注意：壁掛架無法用來存放吸塵器和拖把組，只能存放單吸塵器組。


i 注意：請確定存放本產品或充電的房間溫度在 5° C 到 35° C 之間。

⚠ 警告：在牆上鑽孔固定壁掛架時請小心，以免發生觸電危險。


組裝吸塵器和拖把組



1 若要組裝產品，請將握柄插入主體（直到發出「喀噠」聲）。




- 2 將電源裝置插入污水箱上方的濕拖模組桿 (會發出喀噠聲！)。




- 3 您可以將吸塵器和拖把組存放於清潔後與儲存座。

拆卸握柄



如果您需要再次拆解產品，請依照下列步驟操作：

- 1 將大頭針/一字螺絲起子插入產品背面的小孔，然後拉起握柄。




- 2 繼續將螺絲起子插入小孔，同時將握柄自產品拉出。


i 注意：請注意，吸頭和水箱內可能有少量清水殘留。這是工廠品質檢查的結果。請放心，本裝置徹底清潔且使用安全。

安裝單吸塵器組


- 1 若要組裝單吸塵器組，將電源裝置滑動到握柄下方的位置 (會發出喀噠聲！)。




- 2 將具有集塵桶的手提式吸塵器裝到吸塵管上 (會發出喀噠聲)。



- 3 將吸塵管插入 LED 吸頭。





- 4 若要存放單吸塵器組，請將其放置在壁掛架上。將集塵桶滑入壁掛架以確保牢固安裝。



移除和裝上電源裝置

在單吸塵器組中移除和裝上電源裝置



- 1 按下握柄側面的按鈕。
- 2 按住按鈕的同時，將電源裝置從手提式吸塵器上滑出。



- 3 若要裝上電源裝置，只需將電源裝置滑動到握柄下方的位置 (會發出喀噠聲!)。確保正確對齊連接器以確保牢固安裝。

在吸塵器和拖把組中移除和裝上電源裝置

- 1 按下裝置側面的按鈕。
- 2 按住按鈕的同時，將電源裝置從污水箱上方滑出。




- 3 若要裝上電源裝置，只需將電源裝置滑入就位 (會發出喀噠聲!)。確保正確對齊連接器以確保牢固安裝。

充電


為吸塵器和拖把組充電

本產品配備 25 V 鋰電池，充電時間需 4 個小時。



- 1 若要為產品充電，請打開產品背面的密封蓋。
- 2 將電源插頭插入產品背面的插孔，

- 3 將轉換器插入牆上插座




- 4 電池圖示和圓形部分將在畫面上閃爍，表示裝置正在充電。




- 5 當產品充滿電時，電池圖示和所有圓形部分將在畫面上亮起。數分鐘後，顯示幕會關閉。



- 6 使用產品進行清潔之前，請從產品背面的插座上拔下電源插頭。





7 關上密封蓋。

 提示：您可以為清潔後與儲存座中的產品充電。

 提示：您可以在最符合自身需求的其他地點為產品充電。


為單吸塵器組充電

本產品配備 25 V 鋰電池，充電時間需 4 個小時。


1 若要為產品充電，請將電源插頭插入產品背後的插孔，



2 將具有集塵桶的手提式吸塵器滑入壁掛架。



3 將轉換器插入牆上插座




4 電池圖示和圓形部分將在畫面上閃爍，表示裝置正在充電。





- 5 當產品充滿電時，電池圖示和所有圓形部分將在畫面上亮起。數分鐘後，顯示幕會關閉。



- 6 使用產品進行清潔之前，請從產品背面的插座上拔下電源插頭。

 提示：產品裝上壁掛架時，您可以為產品充電。

 提示：您可以在最符合自身需求的其他地點為產品充電。


硬質地板吸塵與拖地

使用本產品


本產品在交貨時即已裝上淨水箱及污水箱。您可以使用產品清潔硬質地板。

注意：本產品可同時吸塵與拖地，無需在拖地前先吸塵。



本產品適用於各種硬質地板的吸塵與拖地工作，但不適用於未塗布的木質地板。您可以在不起眼之處小面積測試產品，以確保產品適用於您的地板。



- 1 按下按鈕即可解除鎖定並拆下淨水箱。




- 2 打開淨水箱的保護蓋。




- 3 將 15 毫升的 XV1792 Philips 地板清潔液加入淨水箱。

⚠ 警告： Philips 已使用 XV1792 Philips 地板清潔劑測試本產品。其他清潔劑可能會導致過度起泡，因而降低效能並造成產品故障。XV1792 飛利浦地板清潔液在特定市場提供。使用任何其他適用的地板清潔液時，最多只能在淨水箱中加入 10 毫升。




- 4 將冷自來水或溫自來水注入淨水箱至滿水位。


⚠ 警告： 裝入淨水箱中的自來水溫不可超過 50° C。




- 5 關閉水箱的密封蓋。



- 6 將淨水箱裝回產品中。




- 7 請從清潔後與儲存座中取出產品，然後放置在地板上。請將腳放在 AquaSpin 吸頭上，然後向後拉握柄來解除鎖定 AquaSpin 吸頭，如此即可開始使用。



- 8 若要開啟產品的電源，請按下開/關按鈕，

i 注意：產品在一般濕拖模式下將會自動開啟。

⚠ 警告：當 AquaSpin 吸頭已解除鎖定或已開啟產品電源時，請勿讓產品處於無人看管的狀態。



- 9 使用模式變更按鈕^②在三種不同的設定之間切換：

- 一般濕拖模式 (啟動時自動開啟)
- 強力濕拖模式
- 吸水模式

一般濕拖模式是吸塵器和拖把組產品開啟時的預設值。您可以使用此模式進行一般濕拖清潔。

強力濕拖模式^③適用於清潔特別難清除的頑垢。

如果地板在清潔之後留有水印，請選擇吸水模式^④，清除這些水印。我們也建議您在經過門檻、地毯或樓梯時，將產品抬高後再通過。

如果選取吸水模式^④，產品將會停止送水，而且吸力會加強 45 秒，以吸走地板上殘餘的水漬。

本產品使用完畢之後，只要按下開/關按鈕關閉電源，本產品將切換成吸水模式達 6 秒鐘，以清潔吸頭中殘留的水。

i 注意：若您關閉電源時未移動產品，可能會在地板上留下一小攤水。您可以在關閉電源時移動產品，以減少留在地板上的水量。如有需要，您可以用布吸乾殘留的水。


i 注意：延遲關閉時間：按下開/關按鈕後，產品將持續運作 6 秒，然後完全關閉。這是正常現象。需要這額外的 6 秒時間來清潔吸頭中和地板上殘留的水。

吸塵器和拖把組中的暫停功能

本產品具有暫停功能。



使用期間，如果向前推握柄並鎖定在直立位置，裝置將進入待機模式並暫停 15 秒。



若要重新開始清潔，請將腳放在 AquaSpin 吸頭上，並在 15 秒內拉回握柄。裝置將自動恢復清潔。

i 注意：如果啟用暫停功能 15 秒後沒有任何活動，裝置將自動關閉。若要在自動關閉後重新啟動裝置，只需按下開/關按鈕即可。

自動防護系統

- 本產品配備自動防護系統。此自動防護系統的設計可辨識從地板吸入的灰塵或液體以外的異物。
- 系統啟動後，裝置會關閉，吸頭阻塞錯誤圖示將開始在顯示幕上閃爍 (請參閱顯示幕圖示及其意義)。自動防護系統也會在下列情況啟動：微纖維拖地刷太濕、您在地毯或毛毯上移動產品，或於未鋪設妥當的地板上移動產品。

秘訣和其他重要資訊

- 您無需在拖地前先吸塵，這是因為吸塵器和拖把組能以沾濕硬式地板的方式來清潔，以清除包括液體和污垢等各種髒污。如果要清潔地毯及毛毯，請使用單吸塵器組。
- 如果您的硬質地板不需要拖地，可以只使用配備 LED 燈光和 PowerCyclone 12 技術的單吸塵器組來精準、強力地吸塵。
- 您可以像使用一般吸塵器一樣快速移動產品。若要清除頑垢，請按一下清潔模式按鈕啟用強力濕拖模式 (Ⓢ)，然後在頑垢上緩慢移動產品。
- 若您關閉電源時未移動產品，可能會在地板上留下一小攤水。您可以在關閉電源時移動產品，以減少留在地板上的水量。如有需要，您可以用布吸乾殘留的水。
- 建議在清潔期間經過門檻、地毯或樓梯而需抬高產品時，啟用吸水模式 (Ⓢ)。以避免污水從 AquaSpin 吸頭滴下。
- 移動產品時，建議您伸開手臂，減少不必要的肌肉用力。只要採用這種姿勢，您就可以在清潔時充分掌控產品的移動，以最輕鬆的方式完成清潔。

i 注意：使用吸水模式 (Ⓢ) 時，產品不會再供水，而且吸力會變大。經過 45 秒之後，如果您未執行任何動作，本產品會自動切回一般濕拖模式。

i 注意：請注意，吸頭和水箱內可能有少量清水殘留。這是工廠品質檢查的結果。請放心，本裝置徹底清潔且使用安全。

使用限制

- 吸塵器和拖把組適用於各種硬質地板的吸塵與拖地工作，但不適用於未塗布の木質地板。
- 吸塵器和拖把組僅可用於硬質地板的一般清潔工作。使用本產品時，請務必遵循硬質地板的清潔說明。

- 如果您想在淨水箱的水中加入 XV1792 Philips 地板清潔液以外的地板清潔液，請務必使用如 XV1792 Philips 地板清潔液等可在水中稀釋的低起泡或不起泡地板清潔液。
- 由於淨水箱容量為 450 ml，您只需在水中加入幾滴 (最多 15 ml) 液體地板清潔劑即可。
- 如果您在油布地板上使用吸塵器和拖把組，僅可在鋪設妥當的油布地板上使用，以避免 AquaSpin 吸頭吸入油布。
- 請勿使用吸塵器和拖把組清潔地毯。
- 當電源關閉時，如果在地毯或毛毯上移動/抬起產品，廢水可能會滴在地毯或毛毯上。
- 請勿將產品推過對流式電暖器的地面格柵上。將產品推過格柵上的時候，由於產品無法吸入來自吸頭的水，因此水會流到格柵下的洞底。
- 清潔時，請勿從地板抬起 AquaSpin 吸頭或橫向移動 AquaSpin 吸頭，並且不要用力轉彎，否則會留下水漬。請僅前後移動吸頭。


i 注意：操作時間需視清潔時所使用的電量而定。

軟質與硬質地板吸塵


使用單吸塵器組



- 1 若要在軟質或硬質地板上吸塵，請將電源裝置滑動到手提式吸塵器下方的位置 (會發出喀噠聲！)。




- 2 將吸塵管連接至手提式吸塵器 (會發出喀噠聲)。




- 3 將吸塵管的另一端插入 LED 吸頭 (會發出喀噠聲)。

⚠ 警告：在進行清潔之前，請確保將濾網盒插入集塵桶中。




- 4 若要開啟產品的電源，按下開/關按鈕 (ON/OFF)。

i 當單吸塵器組產品或單吸塵器組手提式吸塵器開啟時，正常吸力模式為預設值。



- 5 使用加速按鈕 (T) 切換到更高的吸力設定。



- 6 再次按下加速按鈕 (T) 可切換回正常吸力設定。




提示：LED 吸頭上的 LED 可讓您更清楚看到地板上的灰塵。吸塵管和 LED 吸頭可讓您伸入低矮傢俱底下，無需扭轉產品。

警告：請勿用來吸水或其他液體。




警告：請勿直視 LED 吸頭的 LED，或將 LED 對著他人的眼睛，因為 LED 燈非常亮。

使用吸塵管



您可以不裝上吸頭，直接將吸塵管接上手提式吸塵器，使用吸塵管末端在傢俱之間或後方的狹小空間吸塵。



 提示：您也可將迷你渦輪旋轉刷裝上吸塵管。



 提示：您也可將長型縫隙吸頭裝上吸塵管。



 提示：也可以將組合工具加入吸塵管中。


使用手提式吸塵器



您可以不裝上吸頭與吸塵管，直接使用手提式吸塵器清潔散落的麵包屑等小片灰塵和污垢，或在樓梯與書架上吸塵。


⚠ 警告： 請勿用來吸水或其他液體。

使用 LED 吸頭



您可以使用 LED 吸頭清潔樓梯踏板等區域、吸起角落或狹窄窗沿中的灰塵，或清潔散落的麵包屑等小片灰塵。

1 若要安裝 LED 吸頭，請將吸塵管或手提式吸塵器插入吸頭。




2 若要拆下 LED 吸頭，請按下釋放鈕 (1)，並從吸頭 (2) 中拉出吸塵管或手提式吸塵器。


⚠ 警告： 請勿用來吸水或其他液體。

i 注意： 也可以將組合工具加入吸塵管中。


使用迷你渦輪旋轉刷毛




1 若要安裝迷你渦輪旋轉刷毛，請將手提式吸塵器的吸塵管插入迷你渦輪旋轉刷毛。



- 2 您可以使用迷你渦輪旋轉刷毛進行標準清潔，例如清潔床鋪與長沙發等柔軟區域。您可以調整吸力設定，以符合您的清潔需求。



- 3 您可以使用迷你渦輪旋轉刷毛進行徹底清潔，例如吸起寵物毛髮，或清潔散落的麵包屑等小片灰塵。您可以調整吸力設定，以符合您的清潔需求。



- 4 若要拆下迷你渦輪旋轉刷毛，請按下釋放鈕 (1)，並從迷你渦輪旋轉刷毛 (2) 中拉出手提式吸塵器。




⚠ 警告：請勿用來吸水或其他液體。


使用長型縫隙吸頭



- 1 若要安裝長型縫隙吸頭，請將吸塵管或手提式吸塵器插入長型縫隙吸頭。



- 2 您可以使用長型縫隙吸頭來清潔狹窄的角落，以及不容易到達的死角。您可以調整吸力設定，以符合您的清潔需求。



- 3 若要拆下長型縫隙吸頭，請按下釋放鈕 (1)，並從長型縫隙吸頭 (2) 中拉出吸塵管或手提式吸塵器。




⚠ 警告：請勿用來吸水或其他液體。


使用組合工具



- 1 若要裝上組合工具，請將吸塵管或手提式吸塵器插入組合工具。



- 2 組合工具可用於清潔窗戶邊框、窗簾或蜘蛛網，並隨附可自訂的刷毛拆卸與照明等設定。



- 3 若要拆下組合工具，請按下釋放鈕 (1)，並從組合工具 (2) 中拉出吸塵管或手提式吸塵器。




⚠ 警告：請勿用來吸水或其他液體。


清潔吸塵器和拖把組

每次使用後執行 AUTOCLEAN 功能


為了防止產生異味與水垢沈積物，請在每次使用後執行 AUTOCLEAN 功能。AUTOCLEAN 模式有助於您在約 4 分鐘內徹底清潔產品。




- 1 請將吸塵器和拖把組放置於清潔後與儲存座。




i 注意：若污水水位低於 AUTOCLEAN 液位，則不必在啟動 AUTOCLEAN 程式前清空水箱。您可以略過以下步驟，跳到步驟 6。




2 按下按鈕即可鬆開並拆下污水箱。




3 取出污水箱的濕式濾網。




4 將污水箱中的水倒入水槽。




5 將濕式濾網裝回污水箱。




6 請將空的污水箱裝回產品，然後取出淨水箱。



7 取下淨水箱的保護蓋。




8 將淨水箱中剩餘的清潔液倒入水槽。




9 將冷自來水或溫自來水注入淨水箱至 AUTOCLEAN 刻度。

⚠ 警告：裝入淨水箱中的自來水溫不可超過 50° C。


⚠ 警告：執行 AUTOCLEAN 功能時請勿使用清潔液，以免產生過多泡沫。



10 關上水箱的密封蓋。




11 將淨水箱裝回產品中。




- 12** 產品開始充電。將電源插頭插入產品背後的插孔。然後將變壓器插頭接上電源插座。

i 注意：需要連接充電器才能啟動 AUTOCLEAN 功能。




- 13** 若要啟動 AUTOCLEAN，請按下 Auto-Clean 按鈕。啟動 Autoclean 之前，請確保充電器已連接。




- 14** 本產品會執行 AUTOCLEAN 行程。


i 注意：AUTOCLEAN 行程約持續 4 分鐘。請讓產品完整執行 AUTOCLEAN 行程，以達到最佳清潔效果。您隨時可暫停或取消 AUTOCLEAN 行程。

i 注意：如果取消 AUTOCLEAN 程式，產品將會吸取清潔後托盤中的剩水約 10 秒。




- 15** AUTOCLEAN 完成後，按下按鈕以解鎖污水箱並將其取出。






16 取出污水箱的濕式濾網。



17 將污水箱中的水倒入水槽。




18 請在水龍頭下清洗污水箱。




19 請在水龍頭下清洗濕式濾網。


i 注意：在水龍頭下方清洗濕式濾網裝置之前，請先拆下折疊式濾網。



⚠ 警示：折疊式濾網不能清洗。如果您需要清潔它，請將其輕輕敲擊垃圾桶以倒出其中的污垢。




20 請讓濕式濾網乾燥。




21 將濕式濾網裝回污水箱。


i 注意：確保折疊式濾網插入就位。



22 將污水箱裝回產品中。



23 若要拆下刷毛，請從側面拉出控制桿 (1)，然後逆時針轉動 (2)。從 aquaspin 吸頭 (3) 中拔出刷毛




24 為了讓刷毛乾燥，請將刷毛的開口端放在清潔後與儲存座的專用固定座上。

i 注意：乾燥時間約需 24 小時。


清理清潔後托盤

若清潔後托盤變髒，您可以依照以下步驟清潔托盤。


- 1 從儲存座拆下清潔後托盤。



- 2 在水龍頭下沖洗清潔後托盤，然後讓清潔後托盤乾燥後，再裝回儲存座。




- 3 請務必將清潔後托盤裝回儲存座。清潔後托盤是正確執行 AUTOCLEAN 功能的必要工具。




清潔 AquaSpin 吸頭


- 1 若要拆下刷毛，請從側面拉出控制桿 (1)，然後逆時針轉動 (2)。從 aquaspin 吸頭 (3) 中拔出刷毛。



- 2 您可以用單手將微纖維拖地刷往下滑動，清除纏繞在微纖維拖地刷上的毛髮或毛線。




提示：您可以用剪刀剪斷纏繞在微纖維拖地刷上的毛髮和毛線。




清除主體的堵塞物

如果產品堵塞，請先關閉電源，然後拆下污水箱。接著將清潔刷伸入主體的吸塵通道中上下移動，以清除堵塞物。




清除 AquaSpin 吸頭的堵塞物

如果 AquaSpin 吸頭堵塞，則從吸頭拆下刷毛，接著將清潔刷伸入 AquaSpin 吸頭的吸塵通道中上下移動。




清潔單吸塵器組

清空集塵桶




灰塵管理系統維護


每次使用完畢之後，或是灰塵量達到 MAX 刻度時，請清空集塵桶。




1 關閉產品電源。




2 以 45 度角握住本產品，如例圖所示。按下釋放鈕以取下集塵桶。釋放鈕位在集塵桶的底部。




i 注意：拆下集塵桶，同時讓產品維持朝上直立。




3 握住黑色握柄向上提，從集塵桶中拆下氣旋式集塵裝置




4 將集塵桶所收集的灰塵倒入垃圾桶。



5 輕輕敲擊垃圾桶，倒出氣旋式集塵裝置中殘留的灰塵。



6 將氣旋式集塵裝置裝回集塵桶，並確定這兩個零件已對齊。




7 裝回組裝完成的集塵桶。一開始先對齊集塵桶的濾網側邊，接著再以鉸鏈固定位置。

間歇性定期維護


灰塵管理系統維護

每月至少清潔濾網一次。



1 以逆時針方向轉動濾網，即可從集塵桶上拆下濾網。



2 取出濾塑膠濾網盒中的可水洗泡綿濾網。



3 在垃圾桶上方輕拍濾網盒和泡綿濾網。








4 重複清洗泡沫濾網並擰乾，直到擰出乾淨的水為止。

i 注意：若要達到最佳清潔效果，請將濾網標籤面朝下，用流水整個沖過濾網，即可將深藏的所有灰塵洗出。

i 注意：如果您定期使用產品，請務必每月至少清洗一次濾網。




5 將清洗過的濾網靜置 24 小時晾乾，再將泡棉濾網裝回濾網盒中。




6 如果要進行完整徹底的維護，請在水龍頭流水下方，或者用溫肥皂水清潔集塵桶和氣旋式集塵裝置。




7 擦乾清潔過的集塵桶以及相關零件。




⚠ 警告：請確定所有零件都已完全乾燥之後再裝回。




i 注意：所有零件都不可用洗碗機清洗。



8 將濾網裝回集塵桶中。順時針轉動濾網，即可將其固定就位。




9 裝回組裝完成的集塵桶。一開始先對齊集塵桶的濾網側邊，接著再以鉸鏈固定位置。




i 注意：維護完成之後，請務必將濾網組裝到本產品中，才能開始使用。


PrecisionPower (精準吸力) 智慧吸頭維護




- 1 請務必先關閉產品電源，再清潔吸頭滾筒刷毛。




- 2 若要拆下滾筒刷毛，請在吸頭側邊找出這個按鈕並按下，然後將卡榫轉開。




- 3 輕輕拆下滾筒刷毛和吸頭側蓋。



- 4 小心地清除糾纏在滾筒刷毛上的毛髮，也可以使用剪刀清除髒污。




- 5 裝回滾筒刷毛時，請務必正確對齊。




- 6 插入滾筒刷毛，直到聽到「喀噠」一聲，即表示吸頭滾筒刷毛已經鎖定。


迷你渦輪旋轉刷毛維護



- 1 逆時針旋轉刷毛，將其鬆脫。鎖鬆開後，拉出刷毛。



- 2 使用您的手或剪刀，清除刷毛上的任何髒污。



- 3 將刷毛滑入就位並順時針旋轉，將其鎖定就位。

顯示圖示及意義

錯誤碼

錯誤碼	原因	解決方法
	系統錯誤。	紅色常亮圖示表示您的 Philips AquaTrio 7000 系列吸塵器有系統錯誤。 若要解決這個問題，請嘗試使用下列其中一個 選項或全部使用： 1. 從產品中取出電源裝置，然後重新插入電源裝置。然後嘗試重新啟動產品。 2. 中斷單吸塵器組手提式吸塵器與吸塵管的連接，然後按下手提式吸塵器上的開/關按鈕。如果您仍然看到紅色常亮圖示，請聯絡客戶服務中心。 如果您並未看到紅色常亮圖示，而本產品仍然無法運作，則表示吸塵管或吸頭的通訊可能發生問題。請聯絡客戶服務中心。
	溫度過低。	電池和錯誤圖示同時閃爍紅色表示環境溫度太低或太熱 使用、存放產品或為產品充電時的室溫應為 5° C 以上。
	溫度過高。	電池和錯誤圖示同時閃爍紅色表示環境溫度太低或太熱 使用、存放產品或為產品充電時的室溫應為 35° C 以下。請勿讓本裝置直接暴露在陽光或高溫下 (靠近高溫爐、放進微波爐或放到電磁爐上)。如果電池過熱，可能會爆炸。
	紅色圖示閃爍表示進風口堵塞。 進風口堵塞。	檢查進風口是否有堵塞物，然後將其清除。若上述方法無法解決問題，請檢查整個通風道是否有堵塞物，然後將其清除，這是指吸塵器和拖把組中的吸頭、吸塵管、濕式濾網。在單吸塵器組中，這是指吸頭、吸塵管、集塵桶和泡綿濾網。

錯誤碼	原因	解決方法
	污水箱已滿。	解除鎖定污水箱並將其取出。從污水箱中取出濕式濾網並放在一邊。將污水箱中的水倒入水槽。
	AquaSpin 吸頭卡住。如果有異物卡在吸頭中 (例如電源線或玩具)，這可做為安全停止運作的機制。	請檢查刷毛、軸承、馬達零件和保護蓋是否纏繞毛髮或其他障礙物，並將其清除。如果沒有任何障礙物，只要關閉產品電源後再開啟，或許就能解決問題。
	拔除插頭再使用產品。	使用產品前請先將插頭拔下，否則產品無法啟動。只有在充電和執行 AutoClean 功能期間，才能插上產品的插頭。
	連接錯誤的充電器。	電池和錯誤圖示同時閃爍琥珀色表示有充電錯誤。 1. 連接錯誤的充電器：只能使用原廠電源轉換器為產品充電。 2. 充電插座未正確/完全插入：取下充電插座並將其重新插入產品 3. 電源裝置未正確插入：取下並重新插入電源，直到聽到明確的「喀噠」聲，然後連接正確的充電器
	充電器未連接。	AutoClean 圖示 + 快速閃爍的電池圖示 (白色) 需要連接充電器才能執行 Auto-Clean 程序。 確保產品正確放置在清潔後與儲存座。連接充電器。
	電池電量不足。	AutoClean 圖示 + 快速閃爍的電池圖示 (紅色) 如果充電器已連接並且顯示此圖示，則表示電池電量不足以執行 Auto-Clean 程序。 如果已連接充電器，請等待最多 30 分鐘讓電池充電。然後按下 Auto-clean 按鈕啟動程序

更換


若要購買配件或備用零件，請造訪 www.philips.com/parts-and-accessories，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

替換零件和型號：


乾式濾網 XV1771/10



濕式濾網 XV1770/10



清潔刷 XV1773/10



i 注意：每隔 6 個月更換一次濾網與微纖維拖地刷，確保產品發揮最佳效能。

疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

使用吸塵器和拖把組

問題	可能原因	解決方法
按下開/關按鈕 [Ⓢ] ，開啟產品電源。	未連接電源裝置。	將電源裝置連接至吸塵器和拖把組手提式吸塵器。
	電池電量完全耗盡。	若要為電池充電，請將吸塵器和拖把組產品接上充電器 (見 '充電')。
	您並未從清潔後與儲存座取出產品。	開啟產品的電源前，請先從清潔後與儲存座取出吸塵器和拖把組。
	您連續按下開/關按鈕 [Ⓢ] 數次。	等待數秒，然後再按下開/關按鈕 [Ⓢ] 一次。等待幾秒鐘，然後重試。
	您並未將吸塵器和拖把組的握柄正確連接到產品。	請將產品的下半部放置於清潔後與儲存座中，然後將握柄連接到其上並用力向下推，直到聽到喀噠聲。
	產品堵塞。	關閉產品電源，然後拆下電池或吸塵器和拖把組手提式吸塵器。找出堵塞的原因並解決問題後，重新啟動產品。如果找不出堵塞的原因，請重新啟動產品，如此或許能解決問題。檢查進風口是否堵塞並進行清潔。
	微纖維拖地刷被卡住。	取出微纖維拖地刷後再放回。
產品停止運作。	您不慎用手碰到開/關按鈕 [Ⓢ] 。	請按下開/關按鈕 [Ⓢ] ，開啟產品電源。
	污水箱可能已滿。此時螢幕上會顯示資訊圖示 (見 '顯示圖示及意義')。	清空污水箱。
地板上的水比平常少。	噴水孔堵塞	拆下微纖維拖地刷、裝一些水到淨水箱，然後開啟產品電源。請在同一位置小幅前後移動約 15 秒，您應可看到地板上有 4 條水紋。如果情況並非如此，或者如果一個或多個水條紋僅由幾個水滴組成，則表示噴水孔部分堵塞或完全堵塞。您可以嘗試用針小心戳開小孔。
吸頭底下地板一邊的水比另一邊少。	噴水孔堵塞。	拆下微纖維拖地刷、裝一些水到淨水箱，然後開啟產品電源。請在同一位置小幅前後移動約 15 秒，您應可看到地板上有 4 條水紋。如果情況並非如此，或者如果一個或多個水條紋僅由幾個水滴組成，則表示噴水孔部分堵塞或完全堵塞。您可以嘗試用針小心戳開小孔。
地板上沒有水。	淨水箱是空的。	請在淨水箱中加水。
		如果您已做了上述檢查，但地板上仍沒有水，請將產品送到 Philips 服務中心，或是聯絡客戶服務中心。
地板上或清潔後托盤中的水比平常多。	濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽受到污染或堵塞。	使用清潔刷清潔濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽。

問題	可能原因	解決方法
	污水箱安裝不正確。	將污水箱正確地裝回產品中。如果聽到喀噠聲，表示已正確關上。
產品在地板上留下水漬。	您左右移動產品。	若要防止地板留下水漬，請在使用 AquaTrio 7000 Series 產品時盡量避免用力轉彎，並且避免左右兩側移動產品。這時可以啟用吸水模式 ^(H) ，方法是按下清潔模式按鈕。如此可吸乾地板上殘留的所有水漬。
	使用產品時用力轉彎。	若要防止地板留下水漬，請在使用 AquaTrio 7000 Series 產品時盡量避免用力轉彎，並且避免左右兩側移動產品。這時可以啟用吸水模式 ^(H) ，方法是按下清潔模式按鈕。如此可吸乾地板上殘留的所有水漬。
	您將產品拉過門檻、地毯或樓梯。	請務必讓微纖維拖地刷隨時與地板保持接觸。確認吸水模式 ^(H) 已開啟，再將產品抬高並拉過門檻、地毯或樓梯，以免在地板上留下水漬或 AquaSpin 吸頭濺出水。
	您在關閉電源後，立即從地板上抬起產品。	開啟吸水模式 ^(H) ，將任何殘餘水漬吸乾。在吸水模式 ^(H) 下，前後來回幾次移動產品，之後再關閉產品電源。若您關閉產品電源然後立即抬起產品，兩個微纖維拖地刷之間的水會在地板上留下水漬。
	輪子卡住。	請檢查輪子的狀況，並清除卡住輪子的灰塵。
產品清潔地板的效果不如以往。	淨水箱是空的。	請在淨水箱中加水。
	噴水孔堵塞。	拆下微纖維拖地刷、裝一些水到淨水箱，然後開啟產品電源。請在同一位置小幅前後移動約 15 秒，您應可看到地板上有 4 條水紋。如果情況並非如此，或者如果一個或多個水條紋僅由幾個水滴組成，則表示噴水孔部分堵塞或完全堵塞。您可以嘗試用針小心戳開小孔。
	AquaSpin 吸頭的內部太髒。	請在清潔前執行 AUTOCLEAN 程式。如果吸頭邊緣累積污垢，請清除污垢。請務必在每次使用後執行 AUTOCLEAN 功能。
	沒有微纖維拖地刷。	請將微纖維拖地刷放入 AquaSpin 吸頭。
		如果您已做了上述檢查，但產品還是無法正常清潔，請將產品送到 Philips 服務中心，或是聯絡客戶服務中心。
產品無法再吸起更大的灰塵顆粒並掉回地板。	濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽受到污染或堵塞。	使用清潔刷清潔濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽。
地板在乾燥後留下條紋痕跡。	您可能使用太多清潔液。	請務必使用適量清潔液即可。
	輪子髒污。	清除輪子的髒污。

問題	可能原因	解決方法
清潔與執行 AUTOCLEAN 功能時產生過多泡沫。	您可能使用太多清潔液。	請務必使用適量清潔液即可。
	仍有清潔液殘留在地板上。	請以清水清潔地板數次，不要使用清潔液。請稍候一下，再將產品拖過相同的污漬。
難以清除污漬。	您可能用太少的水或花太短的時間清潔污漬。	請抹水後等一下，例如將產品拖過污漬以抹水，然後在清潔過程結束時再清除一次相同的污漬。
產品在清潔時發出異聲。	微纖維拖地刷周圍可能纏繞毛髮或其他障礙物。	請拆下微纖維拖地刷，並檢查是否有障礙物，然後將其清除。
儘管污水箱尚未滿，但顯示幕顯示污水箱已滿並關閉。	污水箱可能出現泡沫或受到污染。	重新啟動產品。若上述方法無法解決問題，請清潔污水箱。若問題出在泡沫過多，請確認清潔液用量未超過建議用量。
關閉電源後，產品會滴出水。	由於您在關閉電源時並未移動產品，因此產品會在地板上留下小水窪。這是正常現象。	若您關閉電源時未移動產品，可能會在地板上留下一小攤水。您可以在關閉電源時移動產品，以減少留在地板上的水量。本產品關機之後，將會切換成吸水模式 ^⑧ 達 6 秒鐘，以清潔噴嘴中殘留的水。如有需要，您可以用布吸乾殘留的水。
	拿起產品走過地板 (懸空) 時，產品會滴水。	清潔時，請勿從地板上抬起 AquaSpin 吸頭，否則會留下水漬。請僅前後移動吸頭。
	淨水箱漏水是因為注入過多水量。	加水時不可超過淨水箱中的「MAX」刻度。如果超過，當您關緊保護蓋時，水可能會從淨水箱濺出。
	其中一個水箱裂開。	如果其中一個水箱損壞，請將產品送至 Philips 服務中心，或聯絡客戶服務中心。
無法拆下微纖維拖地刷。	微纖維拖地刷纏繞毛髮和/或灰塵。	滑出控制桿解鎖微纖維拖地刷。向兩個方向旋轉控制桿幾次，鬆開微纖維拖地刷。逆時針方向旋轉以取下微纖維拖地刷。如果無法取下拖地刷，也可從 AquaSpin 吸頭下方推出，並清除纏繞的毛髮或灰塵。如果無法拉出拖地刷，可從 AquaSpin 吸頭下方推出。
產品無法前後移動。	一或多個輪子可能被小物體卡住。	滑出控制桿解鎖微纖維拖地刷。向兩個方向旋轉控制桿幾次，鬆開微纖維拖地刷。逆時針方向旋轉以取下微纖維拖地刷。如果無法取下拖地刷，也可從 AquaSpin 吸頭下方推出，
產品的吸力比平常弱。	濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽受到污染或堵塞。	使用清潔刷清潔濕拖模組和/或 AquaSpin 吸頭的水槽。
	再次使用產品前，污水箱中的細網尚未完全乾燥。	清潔污水箱，然後讓污水箱乾燥。
	微纖維拖地刷纏繞毛髮。	關閉產品電源，然後清除微纖維拖地刷上的毛髮。

問題	可能原因	解決方法
	污水箱安裝不正確。	將污水箱正確地裝回產品中。如果聽到喀噠聲，表示已正確關上。
微纖維拖地刷不再轉動	微纖維拖地刷被毛髮或污垢堵塞。	用剪刀或手清理微纖維拖地刷。
微纖維拖地刷彈出。	微纖維拖地刷未正確鎖住。	將微纖維拖地刷放回正確的位置並鎖住。
產品未充電。	電源插頭未正確插入插孔，或電源轉換器未正確插入電源插座。	確認電源插頭已正確插入插孔，且電源轉換器已正確插入電源插座。
	內部沒有電源裝置。	請插入電源裝置。
	電源裝置未正確插入。	請裝入電源裝置，直到聽到「喀噠」一聲。
	連接錯誤的電源轉換器。	請使用原廠電源轉換器。
		如果您已做了上述檢查，但產品還是無法充電，請將產品送到 Philips 服務中心，或是聯絡客戶服務中心。
使用吸塵器時，偶爾會被靜電電到。	您的真空吸塵器聚積靜電。空氣濕度越低，本產品聚積的靜電就越多。	握持產品時請務必用手觸碰金屬腳位。
	您用吸塵器吸走灰塵和污垢時，也會產生靜電。	握持產品時請務必用手觸碰金屬腳位。
產品不會立即關閉。	延遲關閉已啟動。	按下開/關按鈕後，產品將持續運作 6 秒，然後完全關閉。這是正常現象。需要這額外的 6 秒時間來清潔吸頭中和地板上殘留的水。

使用單吸塵器組

問題	可能原因	解決方法
按下開/關按鈕 [Ⓢ] ，開啟產品電源。	您未連接電源裝置。	將電源裝置連接至單吸塵器組手提式吸塵器。
	電池電量完全耗盡。	若要為電池充電，請將單吸塵器組產品接上充電器 (見 '充電')。
	您連續按下開/關按鈕 [Ⓢ] 數次。	等待數秒，然後再按下開/關按鈕 [Ⓢ] 一次。等待幾秒鐘，然後重試。
	產品堵塞。	關閉產品電源，然後將電池或行動電源取出。找出堵塞的原因並解決問題後，重新啟動產品。如果找不出堵塞的原因，請重新啟動產品，如此或許能解決問題。
	滾筒刷卡住。	請拆下滾筒刷，並清除滾筒刷和馬達周圍的任何毛髮，然後裝回。
無法將手提式吸塵器連接至集塵桶。	濾網盒上下裝反。	上下倒置濾網盒，這時應該可以看到圓形開口。


問題	可能原因	解決方法
	未蓋妥濾網盒。	關上濾網盒時，請確定聽見「喀達」一聲。如果無法關上，可能是因為泡綿濾網上下裝反。
產品停止運作。	您不慎用手碰到開/關按鈕⑩。	請按下開/關按鈕⑩，開啟產品電源。
	產品堵塞。	關閉產品電源，然後將電池或行動電源取出。找出堵塞的原因並解決問題後，重新啟動產品。如果找不出堵塞的原因，請重新啟動產品，如此或許能解決問題。
產品在清潔時發出異聲。	滾筒刷周圍可能纏繞毛髮或其他障礙物。	請檢查是否有障礙物，然後將其清除。
	障礙物堵塞氣旋式集塵裝置。	請檢查氣旋式集塵裝置是否有障礙物，然後將其清除。
產品的吸力比平常弱。	濾網和/或氣旋式集塵裝置太髒。	清空集塵桶，請清潔濾網與氣旋式集塵裝置。請務必清除卡在氣旋式集塵裝置中的所有毛髮和污垢。您只要拆下氣旋式集塵裝置，就能輕鬆進行保養。如果您定期使用產品，請務必每月至少清洗一次濾網。
	有東西阻塞氣旋式集塵裝置。	請檢查氣旋式集塵裝置中是否有物體卡住，然後取下卡住氣旋式集塵裝置的任何物體。請務必清除卡在氣旋式集塵裝置中的所有毛髮和污垢。
	滾動刷後方的吸塵通道堵塞。	請拆下滾筒刷，並檢查吸塵通道是否有障礙物，然後將其清除。
	濾網盒並未正確安裝到集塵桶上，或集塵桶並未正確安裝到產品上。這兩種情形都會導致吸力減弱。	請務必將濾網盒正確安裝到集塵桶上，並將集塵桶正確安裝到產品上。
	清潔刷被毛髮或污垢堵塞。	關閉產品電源，然後用剪刀或手清理滾筒刷。
灰塵會從本產品中溢出。	濾網盒內沒有泡綿濾網，或頂蓋遺失。	請確定有濾網裝在本產品中，且組裝正確。
打開集塵桶時灰塵溢出。	這是受到壓力而產生的正常現象。	請盡可能在戶外清潔產品。
我使用本產品清理地毯時，本產品無法在地板上順暢移動。	您選擇的吸力太強。	選擇設定 1 減少吸力，或更緩慢地在地毯上移動。
滾筒刷不再轉動。	滾筒刷被毛髮或污垢堵塞。	用剪刀或手清理滾筒刷。
	滾筒刷因長絨地毯導致阻力過多時，可能會停止轉動。	請關閉本產品電源，然後重新開啟電源。
	您在清理滾筒刷後，並未將滾筒刷正確裝回吸頭上。	請依照使用手冊中的指示，將滾筒刷正確滑入吸頭中，並將鎖定桿卡入定位，以便將滾筒刷固定在吸頭中。

問題	可能原因	解決方法
吸頭的 LED 不亮。	您並未將吸頭正確連接到吸塵管或本產品。	請將吸頭正確安裝到吸塵管或產品。若問題沒有解決，請將產品送至飛利浦服務中心，或聯絡客戶服務中心。
產品未充電。	插頭未正確插入插孔插座，或變壓器未正確插入電源插座。	確認插頭已正確插入插孔插座，且變壓器已正確插入電源插座。
	內部沒有電源裝置。	請插入電源裝置。
	電源裝置未完全插入。	請裝入電源裝置，直到聽到「喀噠」一聲。
	連接錯誤的電源轉換器。	請使用原廠電源轉換器。
		如果您已做了上述檢查，但產品還是無法充電，請將產品送到 Philips 服務中心，或是聯絡客戶服務中心。
迷你渦輪旋轉刷毛無法正確運作。	滾筒刷卡住。	用剪刀清除刷毛上的毛髮。
	使用本產品清潔時，滾筒刷被纖維或表面卡住。	請將迷你 Turbo 旋轉刷毛對準表面；請勿將 Turbo 旋轉刷毛壓入柔軟的表面。
	滾筒刷未正確插入吸頭中。	請務必將滾筒刷正確插入吸頭，且兩個部件之間沒有空隙。
使用吸塵器時，偶爾會被靜電電到。	您的真空吸塵器聚積靜電。空氣濕度越低，本產品聚積的靜電就越多。	握持產品時請務必用手觸碰金屬腳位。
	您用吸塵器吸走灰塵和污垢時，也會產生靜電。	握持產品時請務必用手觸碰金屬腳位。

목차

개요	328
소개	329
기기 정보	329
처음 사용 전	329
충전	333
딱딱한 바닥의 진공 및 물걸레 청소	336
부드러운 바닥과 딱딱한 바닥의 진공 청소	340
진공 및 물걸레 구성 세척	346
진공 전용 구성 세척	354
디스플레이 아이콘 및 의미	361
교체	363
문제 해결	364

개요



소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/myvacuum9000s에서 제품을 등록하십시오.


기기 정보

- 1 벽 거치대
- 2 틈새 노즐
- 3 2 in 1 노즐
- 4 건식 진공 청소기 터보 버튼
- 5 건식 진공 청소기 켜기/끄기 버튼
- 6 건식 진공 청소기 핸들 및 먼지통
- 7 연장관
- 8 연장관의 액세서리 보관통
- 9 진공 청소기 노즐
- 10 전동식 터보 브러시
- 11 어댑터
- 12 파워하우스
- 13 집중 물청소 모드 표시등
- 14 DWT 전체 표시등
- 15 AutoClean 표시등
- 16 배터리 표시등
- 17 수분 흡입 표시등
- 18 노즐 걸림 표시등
- 19 오류 표시등
- 20 건식 터보 표시등
- 21 습식 진공 청소기 핸들
- 22 흡입 모드 변경 버튼
- 23 습식 진공 청소기 켜기/끄기 버튼
- 24 AutoClean 버튼
- 25 물탱크
- 26 오수 탱크
- 27 AquaSpin 노즐
- 28 세척용 2 in 1 브러시
- 29 세척 후 보관 스테이션
- 30 세척 후 받침대
- 31 세정제

처음 사용 전


세척 후 보관 스테이션 조립

AUTOCLEAN 기능을 사용하거나 제품을 세척 후 보관 스테이션에 보관 및 충전하려면 먼저 제품 거치대를 바닥판에 끼워 스테이션을 조립해야 합니다.




i 참고: 세척 후 받침대가 바닥판에 끼워져 있고, 제품을 보관, 충전 및 세척하는 공간의 온도가 5°C~35°C 사이인지 확인하십시오.

벽 거치대 설치



진공 전용 구성을 벽 거치대에 보관 및 충전하려면 제공된 나사로 벽면에 벽 거치대를 고정시키십시오. 벽 거치대는 바닥으로부터 105~115cm 높이에 설치해야 합니다.




i 참고: 벽 거치대에는 진공 및 물걸레 구성을 보관할 수 없습니다. 진공 전용 구성만 벽 거치대에 보관할 수 있습니다.


i 참고: 제품을 보관하거나 충전하는 공간의 온도는 5°C~35°C 사이여야 합니다.

⚠ 주의: 벽 거치대를 고정시키기 위해 벽에 구멍을 뚫을 때에는 감전되지 않도록 조심하십시오.


진공 및 물걸레 구성 조립



1 제품을 조립하려면 핸들을 본체에 삽입합니다('짹').




- 2 파워하우스를 물청소 모듈 스틱에서 오수 탱크 위에 삽입합니다('짹'!).



- 3 진공 및 물걸레 구성을 보관하려면 세척 후 보관 스테이션에 끼우면 됩니다.

핸들 분해



제품을 다시 분리할 때는 다음 순서에 따라 진행합니다.


- 1 핀/일자 드라이버를 제품 뒷면의 구멍에 넣고 핸들을 위로 당깁니다.




- 2 드라이버를 계속 구멍 안으로 미는 상태에서 핸들을 제품 밖으로 당겨 꺼내야 합니다.

i 참고: 노즐과 탱크 안에 소량의 깨끗한 물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 공장에서 실시한 품질 점검 후 남은 물입니다. 청소기는 완전히 청결한 상태로 안전하게 사용할 수 있으니 안심하시기 바랍니다.


진공 청소 전용 구성 설치




- 1 진공 청소 전용 구성을 조립하려면 파워하우스를 핸들 아래 위치에 밀어 넣습니다('짹'!).



- 2 버킷이 달린 핸디형 청소를기 연장관에 끼웁니다('짹'!).




- 3 연장관을 LED 노즐에 끼웁니다.




- 4 진공 청소 전용 구성을 보관할 때는 벽 거치대에 걸어 둡니다. 단단히 고정되도록 버킷을 벽 거치대에 밀어 넣습니다.

파워하우스 분리 및 부착하기

진공 청소 전용 구성에서 파워하우스 분리 및 부착하기




- 1 핸들 옆면에 있는 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 누른 상태에서 핸디형 청소기에서 파워하우스를 밀어서 빼냅니다.




- 3 파워하우스를 부착하려면 다시 핸들 아래 위치에 밀어 넣기만 하면 됩니다('짹!'). 커넥터들을 올바르게 정렬시켜 단단히 고정되도록 합니다.

진공 및 물걸레 구성에서 파워하우스 분리 및 부착하기



- 1 청소기 옆면에 있는 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 누른 상태에서 오수 탱크 위에 있는 파워하우스를 밀어서 빼냅니다.




- 3 파워하우스를 다시 부착하려면 다시 제자리에 밀어 넣기만 하면 됩니다('짹!'). 커넥터들을 올바르게 정렬시켜 단단히 고정되도록 합니다.

충전

진공 및 물걸레 구성 충전하기

제품에는 25V 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 충전은 4시간이 소요됩니다.



- 1 제품을 충전하려면 제품 뒷면의 밀봉 캡을 엽니다.
- 2 제품 뒷면의 소켓에 전원 플러그를 꽂습니다.




- 3 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다.




- 4 배터리 아이콘과 주변부가 화면에서 깜박이면서 청소기가 충전 중임을 알려줍니다.



- 5 청소기가 완전히 충전되면 화면에서 배터리 아이콘과 주변 원 전체에 불이 들어옵니다. 몇 분 후 디스플레이가 꺼집니다.



- 6 제품을 사용해 청소를 시작하기 전에 후면의 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.



7 밀봉 캡을 닫습니다.


도움말: 세척 후 보관 스테이션에서 제품을 충전할 수 있습니다.

도움말: 사용자에게 가장 적합한 장소에서 별도로 제품을 충전할 수 있습니다.


진공 전용 구성 충전하기

제품에는 25V 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 충전은 4시간이 소요됩니다.


1 제품을 충전하려면 제품 뒷면의 소켓에 전원 플러그를 꽂습니다.



2 버킷이 있는 핸디형 청소기를 벽 거치대에 밀어서 끼웁니다.



3 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다.




4 배터리 아이콘과 주변부가 화면에서 깜박이면서 청소기가 충전 중임을 알려줍니다.





- 5 청소기가 완전히 충전되면 화면에서 배터리 아이콘과 주변 원 전체에 불이 들어옵니다. 몇 분 후 디스플레이가 꺼집니다.



- 6 제품을 사용해 청소를 시작하기 전에 후면의 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.

 도움말: 제품을 충전하려면 거치대에 끼우면 됩니다.

 도움말: 사용자에게 가장 적합한 장소에서 별도로 제품을 충전할 수 있습니다.


딱딱한 바닥의 진공 및 물걸레 청소

제품 사용

물탱크와 배수 탱크는 배송 시 이미 제품에 부착되어 있습니다. 제품을 사용해 단단한 바닥을 청소할 수 있습니다.


i 참고: 이 제품은 진공 청소와 바닥 물걸레 청소를 동시에 수행하는 데 적합합니다. 바닥을 닦기 전에 진공 청소할 필요는 없습니다.

이 제품은 코팅하지 않은 목재 바닥을 제외한 모든 종류의 바닥을 진공 청소 및 물걸레 청소하는 데 적합합니다. 제품이 바닥 청소에 적합한지 확인하기 위해 잘 보이지 않는 좁은 장소로 가져가 제품을 테스트해 봅니다.




- 1 버튼을 눌러 물탱크의 잠금을 풀고 물탱크를 꺼냅니다.

- 2 깨끗한 물탱크의 마개를 엽니다.




- 3 깨끗한 물탱크에 XV1792 필립스 바닥 세정제 15ml를 넣습니다.




⚠ 주의: 필립스는 XV1792 필립스 바닥 세정제만 사용해 이 제품을 테스트했습니다. 다른 세제를 사용하면 거품이 과도하게 생겨 성능이 저하되고 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. XV1792 필립스 바닥 세정제는 특정 시장에서 제공됩니다. 적합한 기타 액상 바닥 세정제를 사용하는 경우 물탱크에 10ml 이하로 넣으십시오.


- 4 물탱크에 차갑거나 미지근한 수돗물을 가득 채웁니다.




⚠ 주의: 물탱크에 넣는 수돗물은 50°C를 넘지 않아야 합니다.

- 5 물탱크의 밀봉 캡을 닫습니다.






6 물탱크를 다시 제품에 끼워 넣습니다.




7 제품을 세척 후 보관 스테이션에서 꺼내 바닥에 내려 놓습니다. AquaSpin 노즐 위에 발을 올려 놓은 상태에서 핸들을 뒤로 당겨 AquaSpin 노즐을 잠금 해제합니다. 이제 제품을 사용할 준비가 되었습니다.



8 제품 전원을 켜려면 켜기/끄기 버튼을 누릅니다.

i 참고: 일반 물청소 모드에서는 제품이 자동으로 켜집니다.

⚠ 주의: AquaSpin 노즐이 잠금 해제된 상태 또는 제품의 전원이 켜져 있는 상태에서 제품을 두고 자리를 비우지 마십시오.



9 모드 변경 모드 버튼 를 눌러서 다음 세 가지 설정 중 원하는 설정을 선택하면 됩니다.

- 일반 물청소 모드(시작 시 자동 선택)
- 집중 물청소 모드
- 물 흡수 모드

일반 물청소 모드는 진공 및 물걸레 청소기를 켜는 때 기본 설정입니다. 일반 물청소를 하려면 이 모드를 사용하면 됩니다.

집중 물청소 모드 는 잘 지지 않는 심한 얼룩 청소용입니다.

청소 후 바닥에 젖은 얼룩이 있으면 흡수 모드 를 선택하여 세척할 수 있습니다. 또한 문지방, 카펫 또는 계단 위로 제품을 들어 올릴 때 사용하는 것이 좋습니다.

물 흡수 모드 를 선택하면 제품이 물 공급을 중단하고 45초 동안 흡입력을 높여 바닥에 남아 있는 물을 흡수합니다.

제품 사용이 끝나면 켜기/끄기 버튼을 눌러 전원을 끕니다. 제품이 6초간 물 흡수 모드로 전환되면서 노즐 안에 남은 물을 모두 제거합니다.



i 참고: 제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이지 않으면 제품에서 소량의 물이 나와 바닥에 고일 수 있습니다. 제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이면 고이는 물의 양을 줄일 수 있습니다. 필요한 경우 천으로 남아 있는 물방울을 닦아 낼 수 있습니다.

i 참고: 끄기 지연 시간: 켜기/끄기 버튼을 누르면 청소기가 6초간 계속 작동하다가 완전히 꺼집니다. 이는 일반적인 현상입니다. 노즐과 바닥에 남아 있는 물을 완전히 제거하는 데 추가로 6초가 필요합니다.

진공 및 물걸레 구성의 일시 중지 기능

청소기에는 일시 중지 기능이 있습니다.

사용 중에 핸들을 앞으로 밀면 똑바로 선 위치에서 고정되면서 청소기가 대기 모드로 전환되고 15초간 작동이 일시 중지됩니다.



다시 청소를 시작하려면 15초 이내에 AquaSpin 노즐에 한 발을 올리고 핸들을 뒤로 당기면 됩니다. 청소기가 자동으로 다시 청소를 시작합니다.

i 참고: 일시 중지 기능을 작동한 후 15초간 아무 동작도 하지 않으면 청소기 전원이 자동으로 꺼집니다. 자동으로 전원이 꺼진 후 청소기를 다시 시작하려면 켜기/끄기 버튼을 누르면 됩니다.

액티브 보호 시스템

- 본 제품에는 액티브 보호 시스템이 탑재되어 있습니다. 액티브 보호 시스템은 바닥에서 먼지나 액체 이외의 물체를 흡입한 경우 이를 인식하도록 설계되어 있습니다.
- 보호 시스템이 작동되면 청소기 전원이 꺼지고 디스플레이에서는 노즐 막힘 오류 아이콘이 깜박이기 시작합니다(디스플레이 아이콘과 해당되는 각 의미 참조). 극세사 브러시가 지나치게 젖은 경우, 제품을 카펫이나 양탄자 위로 이동하는 경우 또는 제품을 올바르게 고정되지 않은 바닥 위로 이동하는 경우에도 액티브 보호 시스템이 작동합니다.

도움말 및 기타 중요 정보

- 진공 및 물걸레 구성이 바닥을 효과적으로 물청소하여 액체와 얼룩을 비롯한 모든 종류의 먼지를 잡아내므로 바닥을 닦기 전에 진공 청소할 필요는 없습니다. 카펫과 러그에서는 진공 전용 구성을 사용하십시오.
- 딱딱한 바닥에 물걸레질이 필요하지 않은 경우에는 정확하고 강력한 먼지 흡입을 위해 LED 표시등 및 PowerCyclone 12 기술을 제공하는 진공 전용 구성을 사용하십시오.
- 이 제품은 진공 청소를 사용할 때와 비슷한 속도로 움직일 수 있습니다. 제거하기 어려운 얼룩이 있으면 청소 모드 버튼을 눌러 집중 물청소 모드(Ⓜ)를 활성화하여 얼룩 위에서 제품을 천천히 움직이십시오.
- 제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이지 않으면 제품에서 소량의 물이 나와 바닥에 고일 수 있습니다. 제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이면 고이는 물의 양을 줄일 수 있습니다. 필요한 경우 천으로 남아 있는 물방울을 닦아 낼 수 있습니다.
- 청소 중에 문지방, 카펫 또는 계단 위로 제품을 들어 올릴 때는 물 흡수 모드(Ⓢ)를 활성화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 AquaSpin 노즐에서 더러운 물이 떨어지지 않습니다.

- 제품을 움직일 때 근육이 불필요하게 긴장되는 경우를 줄일 수 있도록 팔을 쭉 뻗는 것이 좋습니다. 이것이 청소할 때 제품을 가장 효과적으로 제어할 수 있는 동시에 가장 편안한 자세입니다.

i 참고: 물 흡수 모드(④)를 사용하면 제품에서 더 이상 물이 나오지 않고 흡입력이 증가합니다. 45초 후에 아무런 조치가 이루어지지 않으면 제품이 자동으로 일반 물청소 모드로 다시 전환됩니다.

i 참고: 노즐과 탱크 안에 소량의 깨끗한 물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 공장에서 실시한 품질 점검 후 남은 물입니다. 청소기는 완전히 청결한 상태로 안전하게 사용할 수 있으니 안심하시기 바랍니다.

사용 제한

- 진공 청소 및 물걸레 구성은 목재 바닥을 제외한 모든 종류의 바닥을 진공 청소하고 닦는 데 적합합니다.
- 진공 및 물걸레 구성은 딱딱한 바닥의 정기적인 청소에 사용하도록 만들어졌습니다. 본 제품을 사용할 때에는 항상 바닥에 맞는 청소 방법을 따르십시오.
- 물탱크에 있는 물에 XV1792 필립스 바닥 세정제 이외의 액상 바닥 세정제를 추가하려면 XV1792 필립스 바닥 세정제와 같이 물에 희석할 수 있고 거품이 적거나 거품이 없는 액상 바닥 세정제를 사용하십시오.
- 물탱크의 용량은 450ml이기 때문에 액상 바닥 세정제는 몇 방울 정도(최대 15ml)만 추가하면 됩니다.
- 리놀륨 바닥에서 진공 및 물걸레 구성을 사용하는 경우 리놀륨이 AquaSpin 노즐에 들어가지 않도록 적절히 고정된 리놀륨 바닥에서만 사용하십시오.
- 카펫을 청소하는 데 진공 및 물걸레 구성을 사용하지 마십시오.
- 전원이 꺼진 상태에서 카펫이나 러그 위로 제품을 이동하거나 들어올리면 오수 물방울이 카펫이나 러그에 묻을 수 있습니다.
- 컨벡터 히터의 바닥 그릴 위로 제품을 밀지 마십시오. 그릴 위에서 움직이면 노즐에서 분사되는 물을 제품이 다시 흡입하지 못하기 때문에 그릴 홈 바닥에 물이 고이게 됩니다.
- 청소 중에는 바닥에서 AquaSpin 노즐을 들어 올리거나 AquaSpin 노즐을 옆으로 이동하지 말고, 방향을 급격하게 전환하지 마십시오. 물 자국이 남습니다. 앞뒤로만 움직이십시오.


i 참고: 작동 시간은 청소하는 동안 흡입력 레벨에 따라 달라집니다.

부드러운 바닥과 딱딱한 바닥의 진공 청소


진공 전용 구성 사용



- 1 부드럽거나 딱딱한 바닥을 진공 청소할 때는 파워하우스를 핸디형 청소기의 제자리에 밀어 넣습니다('짹'!).




- 2 연장관을 핸디형 청소기에 연결합니다('짹'!).




- 3 연장관의 다른 쪽 끝은 LED 노즐에 삽입합니다('짹'!).

⚠ 주의: 청소를 시작하기 전에 먼지통에 필터 케이스가 끼워져 있는지 확인하십시오.




- 4 제품 전원을 켜려면 켜기/끄기  버튼을 누릅니다.

i 일반 흡입 모드는 진공 전용 청소기나 진공 전용 핸디형 청소기의 전원을 켜 때 기본 설정 모드입니다.



- 5 더 높은 흡입력 설정으로 전환하려면 터보 버튼  을 사용합니다.



- 6 터보 버튼  을 한 번 더 누르면 다시 정상 흡입력 설정으로 돌아옵니다.




도움말: LED 노즐의 LED를 사용하면 바닥의 먼지를 보다 쉽게 확인할 수 있습니다. 연장관과 LED 노즐을 사용하면 제품을 비틀지 않고도 낮은 가구 아래에 닿을 수 있습니다.

경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.




주의: LED 노즐의 LED를 직접 들여다보거나 LED를 주위 사람의 눈에 향하게 하지 마십시오. LED 빛이 매우 밝습니다.

연장관 사용



연장관을 청소기에 부착하고 노즐 없이 사용하면 연장관 종단부로 가구 사이 또는 뒤의 좁은 공간을 청소할 수 있습니다.



도움말: 연장관에 미니 터보 브러시를 부착할 수도 있습니다.




도움말: 연장관에 긴 틈새 노즐을 부착할 수도 있습니다.



도움말: 연장관에 콤비네이션 도구를 추가해 사용할 수도 있습니다.


핸디형 청소기 사용



노즐과 연장관 없이 핸디형 청소기를 사용하여 빵가루를 흘린 곳 등 작은 오염 부위를 청소하거나 계단 및 선반을 청소할 수 있습니다.


경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.

LED 노즐 사용



LED 노즐을 사용하여 계단과 같은 구역을 청소하거나, 구석이나 좁은 선반에 있는 먼지를 흡입하거나, 빵가루를 흘린 곳 등 작은 오염 부위를 청소할 수 있습니다.

1 LED 노즐을 부착하려면 연장관이나 청소기를 노즐에 끼웁니다.



- 2 LED 노즐을 분리하려면 분리 버튼을 누르고(1) 노즐에서 연장관 또는 핸디형 청소기를 분리합니다(2).


⚠ 경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.

i 참고: 연장관에 콤비네이션 도구를 추가해 사용할 수도 있습니다.


미니 터보 브러시 사용




- 1 미니 터보 브러시를 부착하려면 핸디형 청소기의 연장관을 미니 터보 브러시에 끼웁니다.



- 2 미니 터보 브러시는 침대 및 소파와 같은 부드러운 영역의 표준 청소에 사용할 수 있습니다. 청소 요구 사항에 맞게 전원 설정을 조절할 수 있습니다.



- 3 미니 터보 브러시를 사용하면 애완동물의 털을 흡입하거나, 빵가루를 흘린 곳과 같은 작은 오염 부위를 청소하는 등 더 말끔히 청소할 수 있습니다. 청소 요구 사항에 맞게 전원 설정을 조절할 수 있습니다.




- 4 LED 노즐을 분리하려면 분리 버튼을 누르고(1) 노즐에서 연장관 또는 핸디형 청소기를 분리합니다(2).




⚠ 경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.


긴 틈새 노즐 사용



- 1 긴 틈새 노즐을 부착하려면 연장관이나 핸디형 청소기를 긴 틈새 노즐에 끼웁니다.



- 2 긴 틈새 노즐은 좁은 구석이나 닿기 힘든 장소를 청소할 때 사용할 수 있습니다. 청소 요구 사항에 맞게 전원 설정을 조절할 수 있습니다.



- 3 긴 틈새 노즐을 분리하려면 분리 버튼을 누르고(1) 긴 틈새 노즐에서 연장관 또는 핸디형 청소기를 분리합니다(2).




⚠ 경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.


콤비네이션 도구 사용



- 1 콤비네이션 도구를 부착할 때는 연장관이나 핸디형 청소기를 콤비네이션 도구에 끼우면 됩니다.



- 2 콤비네이션 도구는 사용자 지정 가능한 브러시 분리와 조명 설정을 사용해 창문틀, 커튼 또는 거미줄을 청소하는 용도로 설계된 도구입니다.



- 3 콤비네이션 도구를 분리하려면 분리 버튼을 누르고(1) 콤비네이션 도구에서 연장관 또는 핸디형 청소기를 분리하면 됩니다(2).




⚠ 경고: 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오.


진공 및 물걸레 구성 세척

매번 사용 후 AUTOCLEAN


냄새 및 물때가 생기지 않도록 제품 사용 후 매번 AUTOCLEAN 기능을 사용하십시오. AUTOCLEAN 모드를 사용하면 약 4분 내에 제품 전체를 세척할 수 있습니다.



- 1 진공 및 물걸레 구성을 세척 후 보관 스테이션에 끼웁니다.




i 참고: 오수의 수위가 AUTOCLEAN 수위보다 낮은 경우 AUTOCLEAN 프로그램을 시작하기 전에 탱크를 비울 필요가 없습니다. 다음 단계를 건너뛰고 6단계로 이동할 수 있습니다.




- 2 버튼을 눌러 배수 탱크의 잠금을 풀고 배수 탱크를 꺼냅니다.




- 3 배수 탱크에서 습식 필터를 분리합니다.




- 4 배수 탱크에 있는 물을 모두 싱크대에 버립니다.




5 습식 필터를 배수 탱크에 다시 넣습니다.




6 빈 배수 탱크를 다시 제품에 끼우고 물탱크를 꺼냅니다.



7 물탱크에서 뚜껑을 분리합니다.



8 물탱크에 남아 있는 세제 액체를 싱크대에 버립니다.




9 냉수나 미온수를 물탱크의 AUTOCLEAN 표시선까지 채웁니다.



⚠ 주의: 물탱크에 넣는 수돗물은 50°C를 넘지 않아야 합니다.

⚠ 주의: AUTOCLEAN에서는 세제를 사용하지 마십시오. 거품이 과도하게 생길 수 있습니다.

- 10 물탱크의 밀봉 캡을 닫습니다.




- 11 물탱크를 다시 제품에 끼워 넣습니다.





- 12 제품을 충전합니다. 제품 뒷면의 소켓에 전원 플러그를 꽂습니다. 그런 다음 충전기를 벽면 콘센트에 연결합니다.

i 참고: AUTOCLEAN 기능을 사용하려면 충전기를 연결해야 합니다.



- 13 AUTOCLEAN을 시작하려면 Auto-Clean 버튼을 누릅니다. AutoClean을 시작하기 전에 충전기가 연결되어 있는지 확인하십시오.







14 제품이 AUTOCLEAN 과정을 수행합니다.

i 참고: AUTOCLEAN 과정은 약 4분이 소요됩니다. 최상의 결과를 얻기 위해서는 AUTOCLEAN 과정을 완전히 끝낼 때까지 제품을 작동시키십시오. AUTOCLEAN 과정을 언제든지 중지하거나 취소할 수 있습니다.


i 참고: AUTOCLEAN 프로그램을 취소하면 제품이 세척 후 받침대에 남아 있는 물을 약 10초간 흡입합니다.



15 AUTOCLEAN이 완료되면 버튼을 눌러 오수 탱크를 잠금 해제한 후 분리합니다.




16 배수 탱크에서 습식 필터를 분리합니다.



17 배수 탱크에 있는 물을 모두 싱크대에 버립니다.




18 수도물로 배수 탱크를 세척합니다.




19 수도물로 습식 필터를 세척합니다.


i 참고: 먼저 주름 필터를 제거한 다음 습식 필터를 흐르는 물에 세척합니다.



⚠ 경고: 주름 필터는 물에 씻을 수 없습니다. 청소가 필요한 경우 쓰레기통 위에 대고 탁탁 두드려 붙어 있는 먼지가 떨어져 나오게 합니다.




20 습식 필터를 말립니다.




21 습식 필터를 배수 탱크에 다시 넣습니다.


i 참고: 주름 필터를 다시 제자리에 끼웁니다.



22 배수 탱크를 다시 제품에 끼워 넣습니다.



- 23** 브러시를 분리하려면 측면에서 레버를 당겨 꺼낸 다음(1) 시계 반대 방향으로 돌립니다(2). AquaSpin 노즐에서 브러시를 당겨 빼냅니다(3).





- 24** 브러시를 말리려면 브러시의 열린 쪽 끝을 세척 후 보관 스테이션의 지정된 거치대에 끼웁니다.

i 참고: 완전히 마르려면 약 24시간이 걸립니다.


세척 후 받침대 세척

세척 후 받침대가 더러워지면 아래 단계에 따라 세척할 수 있습니다.

- 1** 보관 스테이션에서 세척 후 받침대를 분리합니다.




- 2** 세척 후 받침대를 수돗물에 헹구고 말린 다음 보관 스테이션에 다시 끼웁니다.




- 3** 세척 후 받침대는 항상 보관 스테이션에 다시 끼웁니다. 세척 후 받침대는 AUTOCLEAN을 올바르게 수행하기 위하여 필요합니다.


AquaSpin 노즐 세척



- 1 브러시를 분리하려면 측면에서 레버를 당겨 꺼낸 다음(1) 시계 반대 방향으로 돌립니다(2). AquaSpin 노즐에서 브러시를 당겨 빼냅니다(3).




- 2 한 손으로 극세사 브러시를 아래쪽으로 밀어 극세사 브러시에 끼어 있는 머리카락이나 실을 제거할 수 있습니다.



☛ 도움말: 가위를 사용하여 극세사 브러시 주변에 붙어 있는 머리카락이나 실을 자를 수도 있습니다.


본체에서 막힌 부분 이물질 제거하기



제품에 막힌 부분이 있는 경우 제품 전원을 끄고 배수 탱크를 분리합니다. 그런 다음 세척 브러시를 본체 흡입 통로 안에 넣고 위아래로 움직여 이물질을 제거합니다.

AquaSpin 노즐에서 이물질 제거

AquaSpin 노즐 안에 막힌 부분이 있는 경우 노즐에서 브러시를 분리합니다. 그런 다음 세척 브러시를 AquaSpin 노즐의 흡입 통로 안에 넣고 위아래로 움직여줍니다.





진공 전용 구성 세척


먼지통 비우기


먼지 관리 시스템 유지관리

사용 후에는 항상 또는 먼지가 MAX(최대) 수준 표시에 도달하면 먼지통을 비웁니다.




1 제품 전원을 끄십시오.







- 2 제품을 그림에서 보는 것처럼 45도 각도로 기울입니다. 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다. 분리 버튼은 먼지통 바닥에 있습니다.




i 참고: 제품을 세운 상태에서 먼지통을 분리합니다.




- 3 검정색 손잡이는 계속 잡고 있습니다. 먼지통에서 사이클론을 들어올려서 꺼냅니다.




- 4 먼지통을 휴지통 위로 가져가 안에 들어 있는 먼지를 비웁니다.



5 사이클론을 휴지통에 대고 가볍게 두드려 남아 있는 먼지를 제거합니다.



6 사이클론을 다시 먼지통 안에 넣습니다. 2개 부분이 제대로 정렬되도록 합니다.




7 조립한 먼지통을 다시 끼웁니다. 먼저 먼지통의 필터측을 정렬시킨 다음 아래를 밀어 끼웁니다.


정기 유지관리

먼지 관리 시스템 유지관리


최소 한 달에 한 번은 필터를 청소해 주십시오.

1 필터를 시계 반대 방향으로 돌려 먼지통에서 분리합니다.






2 세척 가능한 폼 필터를 플라스틱 필터 케이스에서 분리합니다.




3 필터 케이스와 폼 필터를 모두 휴지통 위에서 떨어줍니다.




4 폼 필터를 행군 다음 맑은 물이 나올 때까지 꼭 짜줍니다.

i 참고: 최상의 세척 효과를 위해서는 필터 탭을 아래로 향한 상태에서 필터에 흐르는 물을 통과시켜 깊이 박혀 있는 먼지까지 씻겨 나가도록 합니다.


i 참고: 제품을 정기적으로 사용하는 경우 필터를 최소 한 달에 한 번 세척해야 합니다.





- 5 세척한 필터는 24시간 동안 말린 후 폼 필터를 다시 필터 케이스에 끼워줍니다.




- 6 철저한 유지관리를 위해서는 먼지통과 사이클론을 흐르는 수도물이나 따뜻한 비눗물로 씻어줍니다.




- 7 세척한 후 먼지통과 관련 부속품을 닦아서 말려줍니다.




⚠ 주의: 다시 조립하기 전에 모든 부품의 물기를 완전히 말려야 합니다.




i 참고: 부속품은 일체 식기세척기에서 세척할 수 없습니다.



- 8 필터를 다시 먼지통에 끼웁니다. 필터를 시계 방향으로 돌려 고정시킵니다.




- 9 조립한 먼지통을 다시 끼웁니다. 먼저 먼지통의 필터측을 정렬시킨 다음 아래를 밀어 끼웁니다.




i 참고: 유지관리 작업 후에는 제품을 사용하기 전에 항상 제품에 필터가 끼워져 있는지 확인합니다.


PrecisionPower 스마트 노즐 유지관리




- 1 노즐 브러시 롤을 세척하기 전에는 항상 제품의 전원을 끕니다.




- 2 브러시 롤을 꺼내려면 노즐 옆면에 있는 버튼을 찾습니다. 그 버튼을 누르고 돌리면 열립니다.




- 3 조심스럽게 브러시 롤과 노즐의 측면 뚜껑을 분리합니다.



- 4 브러시 롤에서 엉켜 있는 머리카락이나 털을 꼼꼼하게 떼어냅니다. 잘 떨어지지 않는 것은 가위로 잘라내면 쉽게 떼어낼 수 있습니다.




- 5 다시 조립할 때는 브러시 롤이 제대로 정렬되도록 합니다.




- 6 노즐 브러시 롤을 "찰칵" 소리가 날 때까지 밀어 넣어 고정시킵니다.


Mini TurboBrush 유지관리



- 1 꺼낼 때는 브러시를 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다. 잠금 장치가 해제되면 브러시를 당겨서 빼냅니다.



2 손가락이나 가위를 사용해 브러시에 붙어 있는 오염 물질을 모두 제거합니다.



3 브러시를 제자리에 밀어 넣은 다음 시계 방향으로 돌려 제자리에 고정합니다.

디스플레이 아이콘 및 의미

오류 코드

오류 코드	원인	해결 방법
	시스템 오류입니다.	빨간색 고정 아이콘은 필립스 AquaTrio 7000 시리즈 진공 청소기에 시스템 오류가 있음을 의미합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 옵션 중 하나 또는 두 옵션을 모두 시도해 보십시오. 1. 제품에서 파워하우스를 분리했다가 다시 끼웁니다. 그런 다음 제품을 다시 시작해 보십시오. 2. 진공 청소 전용 핸디형 청소기를 연장관에서 분리한 다음 핸디형 청소기의 켜기/끄기 버튼을 누릅니다. 그래도 여전히 빨간색 고정 아이콘이 표시되면 고객 상담실에 문의하십시오. 빨간색 고정 아이콘이 사라졌는데 제품이 여전히 작동하지 않는 경우 연장관이나 노즐의 통신 문제가 원인일 수 있습니다. 고객 상담실로 문의하십시오.

오류 코드	원인	해결 방법
	온도가 너무 낮습니다.	배터리 아이콘과 빨간색 오류 아이콘이 동시에 깜박이는 경우 주변 온도가 너무 낮거나 너무 높다는 뜻입니다. 제품을 사용하거나 보관하거나 충전하는 공간의 온도는 5°C를 넘어야 합니다.
	온도가 너무 높습니다.	배터리 아이콘과 빨간색 오류 아이콘이 동시에 깜박이는 경우 주변 온도가 너무 낮거나 너무 높다는 뜻입니다. 제품을 사용하거나 보관하거나 충전하는 공간의 온도는 35°C보다 낮아야 합니다. 기기를 직사광선이나 고온(예: 뜨거운 난로 근처나 전자레인지 내부 또는 인덕션 위)에 노출되지 않도록 하십시오. 배터리는 과열되면 폭발할 수 있습니다.
	빨간색 아이콘이 깜박이는 경우 공기 흡입구가 막혔음을 의미합니다. 공기 흡입구가 막혔습니다.	공기 흡입구를 확인하여 이물질들을 제거하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전체 공기 통로를 확인하여 이물질들을 제거하십시오. 여기서 전체 공기 통로라는 것은 진공 및 물걸레 구성에서 노즐과 연장관, 습식 필터를 말합니다. 진공 청소 전용 구성의 경우 노즐과 연장관, 먼지통, 폼 필터를 의미합니다.
	오수 탱크가 가득 찼습니다.	오수 탱크 잠금을 풀고 분리합니다. 오수 탱크에서 습식 필터를 꺼내 옆에 둡니다. 오수 탱크에 있는 물을 모두 싱크대에 버립니다.
	AquaSpin 노즐이 막혔습니다. 이는 무언가가 노즐에 걸린 경우 나타나는 안전 차단 조치입니다(예: 전원 케이블 또는 장난감).	브러시, 베어링, 모터 부품 및 뚜껑에 머리카락이나 기타 장애물이 있는지 확인하고 제거하십시오. 장애물이 없는 경우 제품의 전원을 껐다 켜면 문제가 해결될 수 있습니다.
	사용 시 전원 코드를 뽑아야 합니다.	사용 시 전원 코드를 뽑으십시오. 그렇게 하지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 제품 플러그는 충전 중일 때와 AutoClean 중에만 연결해야 합니다.

오류 코드

원인

해결 방법



잘못된 충전기가 연결되어 있습니다.

배터리 아이콘과 오류 아이콘이 주황색으로 동시에 깜박이는 경우 충전 오류가 있다는 뜻입니다.

1. 잘못된 충전기가 연결되어 있습니다. 제품을 충전할 때는 반드시 원래 제품에 들어 있던 어댑터를 사용하십시오.
2. 충전 핀이 올바르게/완전히 삽입되지 않았습니다: 충전 핀을 뽑았다가 청소기에 다시 삽입합니다
3. 배터리가 올바르게 삽입되지 않았습니다: 파워하우스를 분리했다가 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실히 밀어넣고 올바른 충전기를 연결합니다



충전기가 연결되어 있지 않습니다.

AutoClean 아이콘 + 배터리 아이콘이 빠르게 깜박입니다(흰색)

Auto-Clean 프로그램을 실행하려면 충전기를 연결해야 합니다.

청소기가 세척 후 보관 스테이션에 올바르게 놓여 있는지 확인합니다. 충전기를 연결합니다.



배터리가 얼마 남지 않았습니다.

AutoClean 아이콘 + 배터리 아이콘이 빠르게 깜박입니다(빨간색)

충전기가 연결되어 있는데도 이 아이콘이 표시되는 경우 배터리 잔량이 AutoClean 프로그램을 실행하는 데 충분하지 않다는 뜻입니다.

충전기를 연결한 경우 배터리가 충전될 때까지 최대 30분 정도 기다립니다. 그런 다음 Auto-Clean 버튼을 눌러 프로그램을 실행하면 됩니다.

교체


액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면 www.philips.com/parts-and-accessories를 방문하거나 필립스 제품 판매점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객센터에 문의하실 수 있습니다.

교체 부품 및 모델 번호:


건식 필터 XV1771/10



습식 필터 XV1770/10



청소용 브러시 XV1773/10



i 참고: 최상의 성능을 유지하려면 6개월 주기로 필터와 극세사 브러시를 교체해 주십시오.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오.

진공 및 물걸레 구성 사용

문제점	가능한 원인	해결 방법
전원 Ⓢ 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜십시오.	파워하우스가 연결되어 있지 않습니다.	파워하우스를 진공 및 물걸레 핸디형 청소기에 연결합니다.
	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하려면 진공 및 물걸레 청소기를 충전기에 연결합니다 (보기 '충전').
	제품을 세척 후 보관 스테이션에서 꺼내지 않았습니다.	제품의 전원을 켜기 전에 세척 후 보관 스테이션에서 진공 및 물걸레 구성을 꺼내십시오.

문제점	가능한 원인	해결 방법
	전원 ㉠ 버튼을 여러 번 눌렀습니다.	몇 초 동안 기다렸다가 전원 ㉠ 버튼을 다시 한번 누르십시오. 몇 초간 기다렸다가 다시 시도합니다.
	진공 및 물걸레 구성의 핸디형 청소기를 제품에 올바르게 연결하지 않았습니다.	제품의 본체 하부를 세척 후 보관 스테이션에 놓으십시오. 그런 다음 핸디형 청소기를 본체 하부에 연결하고 '짹' 소리가 날 때까지 힘있게 밀어 넣습니다.
	제품이 막혔습니다.	제품의 전원을 끄고 배터리 또는 진공 및 물걸레 핸디형 청소기를 분리합니다. 그런 다음 막힌 원인을 찾아 제거하십시오. 그런 다음 제품을 다시 시작하십시오. 막힌 원인을 파악할 수 없는 경우 제품을 다시 시작하십시오. 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있습니다. 공기 흡입구를 확인하고 이물질이 보이면 제거합니다.
	극세사 브러시가 끼었습니다.	극세사 브러시를 빼냈다가 다시 끼웁니다.
제품이 작동을 멈췄습니다.	실수로 전원 ㉠ 버튼을 건드렸습니다.	전원 ㉠ 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜십시오.
	배수 탱크가 가득 찼을 수 있습니다. 이러한 경우에는 화면에 정보 아이콘이 표시됩니다 (보기 '디스플레이 아이콘 및 의미').	배수 탱크를 비우십시오.
바닥의 물기가 평소보다 덜합니다.	물 배출구가 막혔습니다.	극세사 브러시를 분리하고 물탱크에 물을 약간 채운 후 제품의 전원을 켜십시오. 브러시를 같은 위치에서 약 15초간 앞뒤로 조금씩 움직이십시오. 바닥에 네 개의 물 줄무늬가 보여야 합니다. 그렇지 않은 경우 또는 한 개 이상의 물 스트립에 물방울 몇 개만 보이는 경우에는 물 배출구의 일부나 전체가 막힌 것입니다. 바늘을 사용해 조심스럽게 구멍을 뚫어보는 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
노즐 아래에 있는 바닥의 한쪽 면이 다른 쪽 면보다 물기가 덜합니다.	물 배출구가 막혔습니다.	극세사 브러시를 분리하고 물탱크에 물을 약간 채운 후 제품의 전원을 켜십시오. 브러시를 같은 위치에서 약 15초간 앞뒤로 조금씩 움직이십시오. 바닥에 네 개의 물 줄무늬가 보여야 합니다. 그렇지 않은 경우 또는 한 개 이상의 물 스트립에 물방울 몇 개만 보이는 경우에는 물 배출구의 일부나 전체가 막힌 것입니다. 바늘을 사용해 조심스럽게 구멍을 뚫어보는 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
바닥에 물기가 없습니다.	물탱크가 비어 있습니다.	물탱크를 다시 채우십시오.
		위 사항을 확인했지만 바닥에 여전히 물기가 없는 경우에는 제품을 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.

문제점	가능한 원인	해결 방법
바닥이나 세척 후 받침대에 평소보다 물기가 많습니다.	습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로가 오염되었거나 막혔습니다.	세척 브러시를 사용하여 습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로를 청소하십시오.
	배수 탱크가 제대로 놓이지 않았습니다.	배수 탱크를 제품에 제대로 끼워 넣으십시오. '딸깍' 소리가 나면 제대로 끼워진 것입니다.
바닥에 물 자국이 남습니다.	제품을 좌우로 움직였습니다.	바닥에 물 자국이 남지 않도록 하려면 AquaTrio 7000 시리즈로 방향을 서서히 회전하고 제품을 좌우로 움직이지 않도록 하십시오. 청소 모드 버튼을 눌러 물 흡수 모드를 ⑤ 활성화할 수 있습니다. 바닥에 남아 있는 모든 물이 흡수됩니다.
	제품의 방향을 급격하게 전환했습니다.	바닥에 물 자국이 남지 않도록 하려면 AquaTrio 7000 시리즈로 방향을 서서히 회전하고 제품을 좌우로 움직이지 않도록 하십시오. 청소 모드 버튼을 눌러 물 흡수 모드를 ⑤ 활성화할 수 있습니다. 바닥에 남아 있는 모든 물이 흡수됩니다.
	문지방, 카펫 또는 계단 위로 제품을 들어 올렸습니다.	극세사 브러시가 바닥에 닿아야 합니다. 문지방, 카펫 또는 계단 위로 ⑤ 제품을 들어 올리기 전에 물 흡수 모드를 켜십시오. 그렇게 하지 않으면 바닥에 물 자국이 남거나 AquaSpin 노즐에서 물이 분사될 수 있습니다.
	전원을 끈 직후에 제품을 바닥에서 들어 올렸습니다.	물 흡수 모드를 켜서 ⑤ 남은 물을 흡수하십시오. 물 흡수 모드를 켜 상태로 제품을 앞뒤로 몇 번 움직인 후 ⑤ 전원을 끄십시오. 제품 스위치를 끈 후 바로 들어 올리면 두 브러시 사이에 남아 있던 물 때문에 바닥에 흔적이 남습니다.
	바퀴가 돌지 않습니다.	바퀴 상태를 확인하십시오. 바퀴가 돌지 못하도록 방해하는 먼지를 제거하십시오.
제품이 예전처럼 잘 작동하지 않습니다.	물탱크가 비어 있습니다.	물탱크를 다시 채우십시오.
	물 배출구가 막혔습니다.	극세사 브러시를 분리하고 물탱크에 물을 약간 채운 후 제품의 전원을 켭니다. 브러시를 같은 위치에서 약 15초간 앞뒤로 조금씩 움직이십시오. 바닥에 네 개의 물 줄무늬가 보여야 합니다. 그렇지 않은 경우 또는 한 개 이상의 물 스트림에 물방울 몇 개만 보이는 경우에는 물 배출구의 일부나 전체가 막힌 것입니다. 바늘을 사용해 조심스럽게 구멍을 뚫어보는 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
	AquaSpin 노즐 안쪽이 너무 더럽습니다.	AUTOCLEAN 프로그램을 실행한 후 세척으로 돌아가십시오. 노즐 가장자리에 먼지가 쌓인 경우 제거하십시오. 제품 사용 후에는 매번 AUTOCLEAN 기능을 사용하십시오.

문제점	가능한 원인	해결 방법
	극세사 브러시가 없습니다.	극세사 브러시를 AquaSpin 노즐에 끼우십시오.
		위 사항을 확인했지만 여전히 제품이 잘 작동되지 않을 경우 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.
큰 먼지 입자가 흡입되지 않고 바닥으로 다시 떨어집니다.	습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로가 오염되었거나 막혔습니다.	세척 브러시를 사용하여 습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로를 청소하십시오.
바닥의 물기가 마르면서 줄무늬 자국이 남습니다.	세제를 너무 많이 사용했을 수 있습니다.	적당한 양의 세제를 사용하십시오.
	바퀴가 더럽습니다.	바퀴에서 먼지를 제거하십시오.
청소뿐만 아니라 AUTOCLEAN 중에도 거품이 너무 많이 납니다.	세제를 너무 많이 사용했을 수 있습니다.	적당한 양의 세제를 사용하십시오.
	바닥에 세제 잔여물이 아직 있습니다.	세제 없이 여러 번 바닥을 청소하십시오. 동일한 얼룩 위를 다시 지나가기 전에 잠시 시간 여유를 두십시오.
얼룩이 제대로 청소되지 않습니다.	물을 너무 적게 사용했거나 청소 시간이 너무 짧아 얼룩이 제대로 청소되지 않을 수 있습니다.	물기를 묻히고 잠시 기다리십시오. 예를 들어 얼룩 위에 제품을 사용하여 물기를 묻혀 두고 청소 세션이 끝난 후에 동일한 얼룩으로 돌아갈 수 있습니다.
청소하는 동안 제품에서 나는 소리가 달라졌습니다.	극세사 브러시에 머리카락이 감겼거나 그 외 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.	극세사 브러시를 분리해 이물질이 끼어 있는지 확인하고 이물질을 제거합니다.
오수 탱크가 아직 가득 차지 않았는데도 디스플레이에 오수 탱크가 가득 차서 작동이 중지되었다고 표시됩니다.	거품이 있거나 배수 탱크가 오염되었을 수 있습니다.	제품을 다시 시작하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 배수 탱크를 세척하십시오. 거품이 문제인 경우에는 세제를 권장량보다 많이 사용하지 마십시오.
제품을 끈 후 제품에서 물이 떨어집니다.	전원을 끄는 동안 제품을 움직이지 않았기 때문에 제품에서 물이 나와 바닥에 고입니다. 이는 일반적인 현상입니다.	제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이지 않으면 제품에서 소량의 물이 나와 바닥에 고일 수 있습니다. 제품의 전원을 끄는 동안 제품을 움직이면 고이는 물의 양을 줄일 수 있습니다. 제품의 전원을 끄면 제품이 노즐에 남아 있는 물을 완전히 제거하기 위해 ⑥6초간 물 흡수 모드로 전환됩니다. 필요한 경우 천으로 남아 있는 물방울을 닦아 낼 수 있습니다.
	제품을 (공중에서 잡고) 바닥 위에서 이동할 때 제품에서 물이 떨어집니다.	청소 중에는 바닥에서 AquaSpin 노즐을 들어올리지 마십시오. 물자국이 남습니다. 앞뒤로만 움직이십시오.
	물탱크에 물을 너무 많이 채워 물탱크에서 물이 샅 수 있습니다.	물탱크는 최대 수위량 표시 MAX 이상 채우지 마십시오. 물을 너무 많이 넣으면 뚜껑을 조일 때 물탱크에서 물이 넘칠 수 있습니다.

문제점	가능한 원인	해결 방법
	물탱크 중 하나에 금이 갔습니다.	물탱크 중 하나가 손상된 경우 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.
극세사 브러시를 분리할 수 없습니다.	극세사 브러시에 머리카락 및/또는 먼지가 감겨 있습니다.	레버를 밖으로 밀어서 브러시를 잠금 해제합니다. 레버를 양쪽 방향으로 몇 차례 돌려서 브러시가 느슨해지도록 합니다. 시계 반대 방향으로 돌려서 브러시를 분리합니다. 브러시를 빼기 어려우면 AquaSpin 노즐 아래에서 밀어 보십시오. 끼어 있는 머리카락이나 먼지를 제거합니다. 브러시를 빼기 어려우면 AquaSpin 노즐 아래에서 밀어 보십시오.
제품을 앞이나 뒤로 움직일 수 없습니다.	바퀴에 작은 이물질이 걸려 있을 수 있습니다.	레버를 밖으로 밀어서 브러시를 잠금 해제합니다. 레버를 양쪽 방향으로 몇 차례 돌려서 브러시가 느슨해지도록 합니다. 시계 반대 방향으로 돌려서 브러시를 분리합니다. 브러시를 빼기 어려우면 AquaSpin 노즐 아래에서 밀어 보십시오.
제품 흡입력이 평소보다 떨어집니다.	습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로가 오염되었거나 막혔습니다.	세척 브러시를 사용하여 습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 통로를 청소하십시오.
	배수 탱크의 망이 충분히 마르지 않은 상태로 제품을 다시 사용했습니다.	배수 탱크를 세척하고 말리십시오.
	극세사 브러시에 머리카락이 감겨 있습니다.	제품의 전원을 끄고 머리카락을 극세사 브러시에서 머리카락을 제거합니다.
	배수 탱크가 제대로 놓이지 않았습니.	배수 탱크를 제품에 제대로 끼워 넣으십시오. '딸깍' 소리가 나면 제대로 끼워진 것입니다.
극세사 브러시가 회전하지 않습니다.	극세사 브러시가 머리카락이나 먼지로 막혀 있습니다.	가위나 손 을 사용해 극세사 브러시에 끼어 있는 이물질을 제거합니다.
극세사 브러시가 튀어나옵니다.	극세사 브러시가 제대로 고정되지 않았습니.	극세사 브러시를 다시 올바른 위치에 놓고 고정합니다.
제품이 충전되지 않습니다.	전원 플러그가 소켓에 올바르게 연결되지 않았거나 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않습니다.	전원 플러그가 소켓에 제대로 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
	파워하우스를 끼우지 않았습니.	파워하우스를 삽입하십시오.
	파워하우스가 제대로 삽입되지 않았습니.	'짹' 소리가 날 때까지 파워하우스를 밀어 넣어주십시오.
	잘못된 어댑터가 연결되었습니다.	정품 어댑터를 사용하십시오.
		위 사항을 확인했지만 제품이 여전히 충전되지 않을 경우 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.

문제점	가능한 원인	해결 방법
진공 청소기를 사용할 때 가끔 정전기가 일어납니다.	진공 청소기는 정전기를 유발합니다. 실내 습도가 낮을수록 제품에서 정전기가 더 많이 생깁니다.	제품을 잡고 있는 동안 손과 금속 핀이 닿아 있도록 하십시오.
	먼지를 흡입했습니다. 이를 통해서도 정전기가 발생합니다.	제품을 잡고 있는 동안 손과 금속 핀이 닿아 있도록 하십시오.
제품 전원이 바로 꺼지지 않습니다.	자연 전원 끄기 기능이 활성화되어 있습니다.	켜기/끄기 버튼을 누르면 청소기가 6초간 계속 작동하다가 완전히 꺼집니다. 이는 일반적인 현상입니다. 노즐과 바닥에 남아 있는 물을 완전히 제거하는 데 추가로 6초가 필요합니다.

진공 전용 구성 사용

문제점	가능한 원인	해결 방법
전원 ㉠ 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜십시오.	파워하우스를 연결하지 않았습니다.	파워하우스를 진공 청소 전용 핸디형 청소기에 연결합니다.
	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하려면 진공 전용 청소기를 충전기에 연결합니다 (보기 '충전').
	전원 ㉠ 버튼을 여러 번 눌렀습니다.	몇 초 동안 기다렸다가 전원 ㉠ 버튼을 다시 한번 누르십시오. 몇 초간 기다렸다가 다시 시도합니다.
	제품이 막혔습니다.	제품의 전원을 끄고 배터리 또는 전원 공급 장치를 분리하십시오. 그런 다음 막힌 원인을 찾아 제거하십시오. 그런 다음 제품을 다시 시작하십시오. 막힌 원인을 파악할 수 없는 경우 제품을 다시 시작하십시오. 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있습니다.
	롤러 브러시가 끼었습니다.	롤러 브러시를 빼내서 브러시와 모터 주위의 머리카락을 제거하고 다시 장착하십시오.
핸디형 청소기를 먼지통에 연결할 수 없습니다.	필터 케이스가 거꾸로 조립되어 있습니다.	필터 케이스를 뒤집으십시오. 둥근 구멍이 보여야 합니다.
	필터 케이스가 제대로 닫히지 않았습니다.	필터 케이스를 닫을 때 딸깍 소리가 나는지 확인하십시오. 닫기 어려운 경우에는 폼 필터가 거꾸로 놓였을 수 있습니다.
제품이 작동을 멈췄습니다.	실수로 전원 ㉠ 버튼을 건드렸습니다.	전원 ㉠ 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜십시오.
	제품이 막혔습니다.	제품의 전원을 끄고 배터리 또는 전원 공급 장치를 분리하십시오. 그런 다음 막힌 원인을 찾아 제거하십시오. 그런 다음 제품을 다시 시작하십시오. 막힌 원인을 파악할 수 없는 경우 제품을 다시 시작하십시오. 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있습니다.

문제점	가능한 원인	해결 방법
청소하는 동안 제품에서 나는 소리가 달라졌습니다.	롤러 브러시 주위에 머리카락 또는 기타 장애물이 끼어 있을 수 있습니다.	장애물이 있는지 확인하고 제거하십시오.
	장애물이 사이클론을 막고 있습니다.	사이클론에 장애물이 있는지 확인하고 제거하십시오.
제품 흡입력이 평소보다 떨어집니다.	필터 및/또는 사이클론이 지저분합니다.	먼지통을 비우십시오. 필터 및 사이클론을 청소합니다. 사이클론에 낀 머리카락과 먼지를 제거하십시오. 쉬운 유지관리를 위해 사이클론을 제거할 수 있습니다. 제품을 정기적으로 사용하는 경우 필터를 최소 한 달에 한 번 세척해야 합니다.
	다른 물체가 사이클론을 막고 있습니다.	사이클론에 물체가 걸려 있는지 확인하고 사이클론을 막고 있는 물체가 있다면 제거하십시오. 사이클론에 낀 머리카락과 먼지를 제거하십시오.
	롤러 브러시 뒤의 흡입 통로가 막혔습니다.	롤러 브러시를 제거하고 흡입 채널에 장애물이 있는지 확인하고 제거하십시오.
	필터 케이스를 먼지통에 제대로 연결하지 않았거나, 먼지통을 제품에 제대로 연결하지 않았습니다. 두 경우 모두 흡입력이 떨어지게 됩니다.	필터 케이스를 먼지통에, 먼지통을 제품에 제대로 부착했는지 확인하십시오.
	브러시가 머리카락 또는 먼지로 막혔습니다.	제품의 전원을 끄고 가위 또는 손을 사용하여 롤러 브러시를 청소하십시오.
제품에서 먼지가 나옵니다.	필터 케이스에 폼 필터가 없거나, 상단 덮개가 분실되었습니다.	제품에 필터가 부착되어 있고 올바르게 조립되어 있는지 확인하십시오.
먼지통을 열면 먼지가 빠져 나옵니다.	이는 아래로 가해지는 압력 때문이며 일반적인 현상입니다.	가능한 경우 제품을 밖에서 여십시오.
카펫을 청소할 때 제품이 바닥에서 원활하게 움직이지 않습니다.	너무 높은 흡입력이 선택되었습니다.	설정 1을 선택하여 흡입력을 줄이거나 카펫 위에서 더 천천히 이동하십시오.
롤러 브러시가 회전하지 않습니다.	롤러 브러시가 머리카락 또는 먼지로 막혔습니다.	가위 또는 손을 사용하여 롤러 브러시를 청소하십시오.
	올이 긴 카펫에서 저항을 너무 많이 받게 되면 롤러 브러시가 작동을 멈출 수 있습니다.	제품의 전원을 끈 다음 다시 켜십시오.
	청소 후 노즐에 롤러 브러시가 제대로 조립되지 않았습니다.	본 사용 설명서의 지침에 따라 롤러 브러시를 노즐에 제대로 밀어 넣으십시오. 잠금 레버를 제자리에 고정될 때까지 눌러 롤러 브러시를 노즐 안에 고정하십시오.
노즐의 LED가 켜지지 않습니다.	노즐이 연장관 또는 제품에 제대로 연결되지 않았습니다.	노즐을 연장관 또는 제품에 제대로 연결하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지

문제점	가능한 원인	해결 방법
제품이 충전되지 않습니다.	플러그가 소켓에 올바르게 연결되지 않았거나 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않습니다.	않으면 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오. 플러그가 소켓에 제대로 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
	파워하우스를 끼우지 않았습니다.	파워하우스를 삽입하십시오.
	파워하우스가 완전히 삽입되지 않았습니다.	'찰칵' 소리가 날 때까지 파워하우스를 밀어 넣어주십시오.
	잘못된 어댑터가 연결되었습니다.	정품 어댑터를 사용하십시오.
		위 사항을 확인했지만 제품이 여전히 충전되지 않을 경우 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.
미니 터보 브러시가 제대로 작동하지 않습니다.	롤러 브러시가 막혔습니다.	가위를 사용하여 브러시에서 머리카락을 제거하십시오.
	청소하는 동안 옷감 또는 그 표면 때문에 롤러 브러시가 막혀 있습니다.	미니 터보 브러시를 바닥과 정렬되는 위치에 맞추고 부드러운 표면에는 터보 브러시를 사용하지 마십시오.
	롤러 브러시가 노즐에 제대로 삽입되지 않았습니다.	롤러 브러시가 노즐에 제대로 삽입되었고 상단과 하단사이에 틈새가 없는지 확인하십시오.
진공 청소기를 사용할 때 가끔 정전기가 일어납니다.	진공 청소기는 정전기를 유발합니다. 실내 습도가 낮을수록 제품에서 정전기가 더 많이 생깁니다.	제품을 잡고 있는 동안 손과 금속 핀이 닿아 있도록 하십시오.
	먼지를 흡입했습니다. 이를 통해서도 정전기가 발생합니다.	제품을 잡고 있는 동안 손과 금속 핀이 닿아 있도록 하십시오.

المحتويات

373	نظرة عامة
373	مقدمة
374	الوصف العام
374	قبل أول استخدام
378	الشحن
381	كنس الأرضيات الصلبة ومسحها
385	كنس الأرضيات الصلبة واللينة بالمكنسة الكهربائية
391	تنظيف مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة
399	تنظيف مجموعة المكنسة الكهربائية فقط
406	عرض الرموز ومعناها
408	الاستبدال
409	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الوصف العام


- 1 حامل التثبيت على الحائط
- 2 فوهة الشقوق
- 3 فوهة بطريقة 2 في 1
- 4 زر توربو للمكنسة الكهربائية الجافة
- 5 زر تشغيل/إيقاف تشغيل للتفريغ الجاف
- 6 مقبض ودلو الغبار للمكنسة الكهربائية الجافة
- 7 أبواب ممتد
- 8 تخزين الملحقات على الأنبوب
- 9 فوهة المكنسة
- 10 فرشاة توربو بمحرك
- 11 المهائ
- 12 وحدة الطاقة
- 13 مؤشر الوضع الرطب الشديد
- 14 مؤشر DWT الكامل
- 15 مؤشر التنظيف الأوتوماتيكي
- 16 مؤشر البطارية الضوئي
- 17 مؤشر امتصاص الماء
- 18 مؤشر انسداد الفوهة
- 19 مؤشر الخطأ
- 20 مؤشر جفاف فرشاة التوربو
- 21 مقبض المكنسة الكهربائية الرطبة
- 22 زر تغيير وضع الشفط
- 23 زر تشغيل/إيقاف تشغيل للتفريغ الرطب
- 24 زر التنظيف الأوتوماتيكي
- 25 خزان المياه النظيفة
- 26 خزان المياه المتسخة
- 27 فوهة AquaSpin
- 28 فرشاة التنظيف 2 في 1
- 29 موضع ما بعد التنظيف والتخزين
- 30 صينية ما بعد الاستخدام
- 31 المنظفات

قبل أول استخدام

تجميع موضع بعد التنظيف والتخزين


من أجل استخدام وظيفة AUTOCLEAN أو تخزين الجهاز وشحنه في موضع ما بعد التنظيف والتخزين، تحتاجي أولاً إلى تجميع الموضع عن طريق النقر فوق مقبض الجهاز في لوح القاعدة.

i ملاحظة: تأكد من وضع صينية ما بعد التنظيف في لوحة القاعدة وأن درجة الحرارة في الغرفة التي يتم فيها تخزين الجهاز وشحنه وتنظيفه تتراوح بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية.




تركيب حامل التثبيت على الحائط

إذا كنت تريد تخزين مجموعة المكنسة الكهربائية فقط وشحنها وهي على حامل الحائط، فقم بتثبيت الحامل على الحائط باستخدام البراغي المرفقة. وتأكد من أن حامل الحائط يقع على ارتفاع 105 - 115 سم فوق الأرضية.



i ملاحظة: لا يمكن تخزين مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة على حامل الحائط. يمكن تخزين مجموعة المكنسة الكهربائية فقط على حامل الحائط.


i ملاحظة: تأكد من أن درجة حرارة الغرفة التي يتم فيها تخزين الجهاز أو شحنه تتراوح بين 5 إلى 35 درجة مئوية.




⚠ تنبيه: توخي الحذر عند حفر ثقوب في الحائط لتثبيت حامل التثبيت على الحائط لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.

تجميع مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة


1 لتجميع الجهاز، أدخل المقبض في الجسم الرئيسي ("انقر").



2 قم بإدخال وحدة الطاقة في عصا الوحدة الرطبة فوق خزان المياه المتسخة (تركيب بالكبس!).




3 لتخزين مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة، يمكنك وضعها في موضع ما بعد التنظيف والتخزين.



تفكيك المقبض


إذا كنت بحاجة إلى تفكيك الجهاز مرة أخرى، فاتبعي الخطوات التالية:

1 أدخل دبوسًا/مفكًا مسطحًا للبراغي في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز واسحبي المقبض لأعلى.




2 اسحبي المقبض خارج الجهاز مع الاستمرار في دفع مفك البراغي في الفتحة.

i ملاحظة: يرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك كمية صغيرة من بقايا المياه النظيفة داخل الفوهة والخزانات. هذه نتيجة لفحوصات الجودة في المصنع. كن مطمئنًا، الجهاز نظيف تمامًا وآمن للاستخدام.




تركيب مجموعة المكنسة الكهربائية فقط


1 لتجميع مجموعة المكنسة فقط، قم بتحريك وحدة الطاقة إلى موضعها أسفل المقبض (تركيب بالكبس!).




2 قم بربط المقبض الذي يحتوي على الدلو بالأنبوب (تركيب بالكبس!).



3 أدخل الأنبوب في فوهة LED.




4 لتخزين إعدادات المكنسة الكهربائية الخاصة بك فقط، ضعها في حامل الحائط. قم بإدخال الدلو في حامل الحائط لضمان تركيبه بشكل آمن.




إزالة وحدة الطاقة وتركيبها

إزالة وحدة الطاقة وتركيبها في وضع المكنسة الكهربائية فقط

- 1 اضغط على الزر الموجود على جانب المقبض.
- 2 أثناء الضغط على الزر، قم بسحب وحدة الطاقة للخارج من الجهاز المحمول.




- 3 لتركيب وحدة الطاقة، ما عليك سوى تحريكها إلى موضعها أسفل المقبض (التركيب بالكبس!). تأكد من محاذاة الموصلات بشكل صحيح لضمان تركيبها بشكل آمن.




إزالة وحدة الطاقة وتركيبها في وضع المكنسة الكهربائية والممسحة

- 1 اضغط على الزر الموجود على جانب الجهاز.
- 2 أثناء الضغط على الزر، قم بسحب وحدة الطاقة للخارج فوق خزان المياه المتسخة.




- 3 لتركيب وحدة الطاقة، ما عليك سوى تحريكها إلى مكانها (التركيب بالكبس!). تأكد من محاذاة الموصلات بشكل صحيح لضمان تركيبها بشكل آمن.



الشحن

تغيير مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة

الجهاز مزود ببطارية ليثيوم أيون 25 فولت. يستغرق الشحن 4 ساعات.



- 1 لشحن الجهاز، افتحي غطاء منع التسرب على ظهر الجهاز.
- 2 أدخل قابس الطاقة في المقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.

- 3 إدخال المهائئ في المقبس الجداري




- 4 سوف يومض رمز البطارية والأجزاء الدائرية على الشاشة للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن.




- 5 عندما يتم شحن الجهاز بالكامل، سوف تضيء أيقونة البطارية وجميع الأجزاء الدائرية على الشاشة. بعد بضع دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة.



- 6 قومي بإزالة قابس الطاقة من المقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز قبل استخدامه للتنظيف.





7 أغلق غطاء منع التسرب.


نصيحة: يمكنك شحن الجهاز في موضع ما بعد التنظيف والتخزين.

نصيحة: يمكنك شحن الجهاز بشكل منفصل في المكان الذي يناسبك.


تغيير مجموعة المكنسة الكهربائية فقط

الجهاز مزود ببطارية ليثيوم أيون 25 فولت. يستغرق الشحن 4 ساعات.

1 لشحن الجهاز، أدخل قابس الطاقة في المقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.



2 قم بإدخال الجهاز المحمول مع الدلو في حامل الحائط.



3 إدخال المهاي في المقبس الجداري



4 سوف يومض رمز البطارية والأجزاء الدائرية على الشاشة للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن.




- 5 عندما يتم شحن الجهاز بالكامل، سوف تضيء أيقونة البطارية وجميع الأجزاء الدائرية على الشاشة. بعد بضع دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة.



- 6 قومي بإزالة قابس الطاقة من المقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز قبل استخدامه للتنظيف.

⚡ نصيحة: يمكنك شحن الجهاز عند توصيله بحامل الحائط.

⚡ نصيحة: يمكنك شحن الجهاز بشكل منفصل في المكان الذي يناسبك.




كنس الأرضيات الصلبة ومسحها

استخدام الجهاز


تم توصيل خزان الماء التنظيف وخزان الماء المتسخ بالجهاز عند التسليم. يمكنك استخدام الجهاز لتنظيف الأرضيات الصلبة.

i ملاحظة: هذا الجهاز مناسب للكنس والمسح في نفس الوقت. ليس من الضروري تنظيف الأرضية بالمكنسة الكهربائية قبل المسح. الجهاز مناسب لتنظيف جميع أنواع الأرضيات الصلبة ومسحها، باستثناء الأرضيات الخشبية غير المطلية. يمكنك اختبار الجهاز على مساحة صغيرة بعيداً عن العرض المباشر، للتأكد من أن الجهاز مناسب لأرضيتك.


- 1 اضغطي على الزر لفتح خزان الماء التنظيف و قومي بإزالته.



2 أفتح غطاء خزان الماء التنظيف.




3 أضيفي 15 مل من منظف الأرضيات Philips XV1792 إلى خزان الماء التنظيف.




⚠ تنبيه: اختبرت Philips هذا الجهاز باستخدام منظف الأرضيات من Philips XV1792. قد تؤدي المنظفات الأخرى إلى رغوة مفرطة، مما يقلل من الأداء وقد يتسبب في تعطل الجهاز. يتوفر منظف الأرضيات من Philips XV1792 في أسواق محددة. عند استخدام أي منظف سائل آخر مناسب، أضيفي 10 مل كحد أقصى إلى خزان الماء التنظيف.

4 املائي خزان المياه التنظيف إلى أعلى نقطة بماء الصنبور البارد أو الفاتر.




⚠ تنبيه: يجب ألا تزيد درجة حرارة ماء الصنبور الذي يتم سكه في خزان الماء التنظيف عن 50 درجة مئوية.


5 أغلق غطاء مانع التسرب لخزان المياه.



6 ضعي خزان الماء النظيف مرة أخرى في الجهاز.




7 أخرجي الجهاز من موضع ما بعد التنظيف والتخزين وضعيه على الأرض. ضعي قدمك على فوهة AquaSpin واسحبي المقبض للخلف لفتح فوهة AquaSpin. الجهاز جاهز الآن للاستخدام.



8 لتشغيل الجهاز، اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف.

i ملاحظة: سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا في الوضع الرطب العادي.

⚠ تنبيه: لا تتركي الجهاز دون مراقبة عندما تكون فوهة AquaSpin مفتوحة أو عند تشغيل الجهاز.



9 استخدم زر تغيير الوضع (⊞) للتبديل بين ثلاثة إعدادات مختلفة:

- الوضع الرطب العادي (تلقائيًا عند بدء التشغيل)
- الوضع الرطب الشديد
- وضع امتصاص الماء

الوضع الرطب العادي هو الإعداد الافتراضي عند تشغيل جهاز المكنسة الكهربائية والممسحة. يمكنك استخدام هذا الوضع للتنظيف الرطب العادي.

الوضع الرطب الشديد (⊞) لتنظيف البقع الصعبة الزائدة.


إذا كانت هناك بقع مبللة على الأرض بعد التنظيف، فيمكنك تحديد وضع امتصاص الماء (⊞) لتنظيفها.

نوصي أيضًا باستخدامه عند رفع الجهاز فوق عتبة أو سجادة أو درج.

إذا تم اختيار وضع امتصاص الماء (⊞)، سيتوقف الجهاز عن توفير الماء ويزيد قوة الشطف لمدة 45 ثانية لامتصاص الماء المتبقي على الأرض.

عند الانتهاء من استخدام الجهاز، قومي بإيقاف تشغيله بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. سيتحول الجهاز إلى وضع امتصاص الماء لمدة 6 ثوانٍ لتنظيف أي ماء متبقي في الفوهة.

i ملاحظة: يمكن للجهاز ترك بركة صغيرة من الماء على الأرض إذا لم تحركي الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. يمكنك تقليل حجم البركة عن طريق تحريك الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. إذا لزم الأمر، يمكنك إزالة آخر القطرات بقطعة قماش.




i ملاحظة: تأخير وقت الإغلاق: بعد الضغط على زر التشغيل/الإيقاف، سيتم تشغيل الجهاز لمدة 6 ثوانٍ قبل إيقاف تشغيله تمامًا. هذا أمر طبيعي. يلزم 6 ثوانٍ إضافية لتنظيف أي مياه متبقية في الفوهة وعلى الأرض.

وظيفة الإيقاف المؤقت في إعدادات المكنسة الكهربائية والممسحة


يحتوي الجهاز على وظيفة الإيقاف المؤقت.

أثناء الاستخدام، إذا تم دفع المقبض للأمام وتثبيتته في الوضع المستقيم، سينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد ويتوقف مؤقتًا لمدة 15 ثانية.



لبدء عملية التنظيف مرة أخرى، ضع قدمك على فوهة الدوران المائي واسحب المقبض للخلف خلال 15 ثانية. سوف يستأنف الجهاز عملية التنظيف تلقائيًا.

i ملاحظة: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يكن هناك أي نشاط بعد 15 ثانية من تنشيط وظيفة الإيقاف المؤقت. لإعادة تشغيل الجهاز بعد إيقاف التشغيل التلقائي، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل/الإيقاف.



نظام حماية نشط

- هذا الجهاز مزود بنظام حماية نشط. تم تصميم نظام الحماية النشط هذا للتعرف على وقت التقاط جسم غريب بخلاف الأوساخ أو السوائل من الأرضية.
- عندما يتم تنشيط النظام، يتم إيقاف تشغيل الجهاز وسيبدأ رمز خطأ أنسد الفوهة في الوميض على الشاشة (انظر أيقونات العرض ومعانيها). يمكن أيضًا تنشيط نظام الحماية النشط عندما تكون فرشاة الألياف الدقيقة مبللة جدًا، أو عند تحريك الجهاز فوق سجادة أو موكيت، أو عند تحريكه فوق أرضية غير مثبتة بشكل صحيح.

نصائح ومعلومات مهمة أخرى

- ليس من الضروري تنظيف الأرضية بالمكنسة الكهربائية قبل المسح، لأن مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة تنظف الأرضية الصلبة بفعالية لالتقاط جميع أنواع الأوساخ، بما في ذلك السوائل والبقع. على السجاد والموكيت، استخدم مجموعة المكنسة الكهربائية فقط.
- إذا كانت أرضيتك الصلبة لا تحتاج إلى المسح، فما عليك سوى استخدام مجموعة المكنسة الكهربائية فقط التي تتميز بأضواء LED وتقنية PowerCyclone 12 لالتقاط الأوساخ بدقة وقوة.
- يمكنك تحريك الجهاز بنفس سرعة المكنسة الكهربائية. لإزالة البقع الصعبة، انقرري زر وضع التنظيف لتنشيط الوضع الرطب الشديد (H) وحركي الجهاز ببطء فوق البقع.
- يمكن للجهاز ترك بركة صغيرة من الماء على الأرض إذا لم تحركي الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. يمكنك تقليل حجم البركة عن طريق تحريك الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. إذا لزم الأمر، يمكنك إزالة آخر القطرات بقطعة قماش.
- يوصى بتنشيط وضع امتصاص الماء (H) عند رفع الجهاز فوق عتبة أو سجادة أو درج أثناء التنظيف. سيمنع هذا الماء المتسخ من التسرب من فوهة AquaSpin.
- عند تحريك الجهاز، يوصى بمد ذراعك لتقليل التوتر غير الضروري على العضلات. في هذا الوضع، سيكون لديك أفضل تحكم في الجهاز عند التنظيف، وسيكون أكثر راحة.

i ملاحظة: عند استخدام وضع امتصاص الماء ⁽⁸⁾، لا يخرج مزيد من الماء من الجهاز وتزداد قوة الشفط. بعد 45 ثانية، إذا لم تتخذي أي إجراء، سيعود الجهاز تلقائياً إلى الوضع الرطب العادي.

i ملاحظة: يرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك كمية صغيرة من بقايا المياه النظيفة داخل الفوهة والخزانات. هذه نتيجة لخصائص الجودة في المصنع. كن مطمئناً، الجهاز نظيف تماماً وآمن للاستخدام.

قيود الاستخدام

- مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة مناسبة لتنظيف جميع أنواع الأرضيات الصلبة ومسحها، باستثناء الأرضيات الخشبية غير المطلية.
- مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة مخصصة للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة. اتبعي دائماً تعليمات التنظيف الخاصة بأرضيتك الصلبة عند استخدام هذا الجهاز.
- إذا كنتِ ترغبين في إضافة منظف أرضيات سائل غير منظف الأرضيات من Philips XV1792 إلى الماء الموجود في خزان الماء التنظيف، فتأكدي من استخدام منظف أرضيات سائل منخفض الرغوة أو غير رغوي يمكن تخفيفه في الماء مثل منظف أرضيات Philips XV1792.
- ونظراً لأن خزان الماء التنظيف سعته 450 مل، فلا تضيفي إلا بضع قطرات (15 مل كحد أقصى) من منظف الأرضيات السائل إلى المياه.
- إذا كنتِ تستخدمين مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة على أرضيات مكسوة بمشمع، فافعلي ذلك فقط على أرضيات مكسوة بمشمع مثبتة بشكل صحيح لمنع سحب المشمع في فوهة AquaSpin.
- لا تستخدمين مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة لتنظيف السجاجيد.
- إذا قمتِ بتحريك/رفع الجهاز فوق سجادة أو موكيت عند إيقاف تشغيله، فقد ينتهي الأمر بقطرات مياه الصرف على السجادة أو الموكيت.
- لا تدفعي الجهاز فوق الشبكات الأرضية للسخانات الحرارية. نظراً لأن الجهاز لا يمكنه التقاط الماء الذي يخرج من الفوهة عند تحريكه فوق الشبكة، ينتهي الأمر بالماء في أسفل حفرة السخان الحراري.
- أثناء التنظيف، لا ترفعي فوهة AquaSpin من الأرضية أو تحركي فوهة AquaSpin جانباً، ولا تقومي بعمل انعطافات قوية، لأن ذلك يترك آثاراً للماء. لا تحركيه إلا للأمام وللخلف.

i ملاحظة: يعتمد وقت التشغيل على مستوى الطاقة المستخدم أثناء التنظيف.


كنسى الأرضيات الصلبة واللينة بالمكنسة الكهربائية

استخدام مجموعة المكنسة الكهربائية فقط

- 1 لتنظيف الأرضيات اللينة أو الصلبة، قم بتحريك وحدة الطاقة إلى مكانها في الجهاز المحمول باليد (تركيب بالكبس!).




2 قم بتوصيل الأنبوب بالجهاز المحمول (تركيب بالكبس).




3 وأدخل الطرف الآخر من الأنبوب في فوهة LED (تركيب بالكبس).

تنبيه: تأكد من وضع غطاء الفلتر في دلو الغبار قبل البدء في التنظيف.




4 لتشغيل الجهاز، اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف ①.


i وضع الشفط العادي هو الإعداد الافتراضي عند تشغيل جهاز المكنسة فقط أو المكنسة المحمولة باليد فقط.



5 استخدم زر توربو ② للانتقال إلى وضع شفط أعلى قوة.



6 اضغط على زر توربو ② مرة أخرى للعودة إلى وضع الشفط العادي.





نصيحة: تسهل مصابيح LED الموجودة في فوهة رؤية الأوساخ على الأرض. يسمح لك الأنبوب وفوهة LED بالوصول إلى أسفل الأثاث المنخفض دون الحاجة إلى لف الجهاز.



تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.



تنبيه: لا تنظري مباشرة إلى مصابيح LED الخاصة بفوهة LED أو توجهي مصابيح LED إلى عيون أي شخص. ضوء LED ساطع جداً.

استخدام الأنبوب

يمكنك توصيل الأنبوب بالجهاز المحمول باليد واستخدامه بدون فوهة لتفريغ المساحات الضيقة بين أو خلف قطع الأثاث بنهاية الأنبوب.




نصيحة: من الممكن أيضاً إرفاق فرشاة Turbo الصغيرة بالأنبوب.



نصيحة: من الممكن أيضًا إرفاق الأداة ذات الشق الطويل بالأنبوب.



نصيحة: ومن الممكن أيضًا إضافة أداة التركيب إلى الأنبوب.



استخدام الأداة المحمولة باليد


بدون الفوهة والأنبوب، يمكنك استخدام الجهاز المحمول باليد لتنظيف البقع الصغيرة من الغبار والأوساخ، مثل فتات الخبز المنسكية، أو لتنظيف السلالم والأرفف.

⚠ تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

استخدام فوهة LED

يمكنك استخدام فوهة LED لتنظيف المناطق، مثل درجات السلم، أو لتنظيف الأوساخ في الزوايا أو على الحواف الضيقة، أو لتنظيف بقع صغيرة من الأوساخ، مثل فتات الخبز المنسكية.


1 لتركيب فوهة LED، أدخل الأنبوب أو الجهاز المحمول باليد في الفوهة.



- 2 لفصل فوهة LED، اضغطي على زر التحرير (1) واسحبي الأنبوب أو اسحبي اليد للخارج من الفوهة (2).


⚠ تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

i ملاحظة: ومن الممكن أيضاً إضافة أداة التركيب إلى الأنبوب.




استخدام فرشاة Turbo الصغيرة


- 1 لتركيب فرشاة Turbo الصغيرة، أدخلي أنبوب اليد المحمولة في فرشاة Turbo الصغيرة.




- 2 يمكنك استخدام فرشاة Turbo الصغيرة للتنظيف القياسي، على سبيل المثال، للمناطق الناعمة مثل الأسرة والأرائك. يمكنك ضبط إعدادات الطاقة ليناسب احتياجات التنظيف.



- 3 يمكنك استخدام فرشاة Turbo الصغيرة لتنظيف شامل إضافي، على سبيل المثال لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة أو لتنظيف بقع صغيرة من الأوساخ، مثل فتات الخبز المنسكبة. يمكنك ضبط إعدادات الطاقة ليناسب احتياجات التنظيف.



- 4 لفصل فرشاة Turbo الصغيرة، اضغطي على زر التحرير (1) واسحبي اليد للخارج من فرشاة Turbo الصغيرة (2).







⚠ تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

استخدام الأداة ذات الشق الطويل



1 لتوصيل الأداة ذات الشق الطويل، أدخل الأنبوب أو الأداة المحمولة باليد في الأداة ذات الشق الطويل.



2 يمكنك استخدام الأداة ذات الشق الطويل لتنظيف الزوايا الضيقة أو الأماكن التي يصعب الوصول إليها. يمكنك ضبط إعدادات الطاقة ليناسب احتياجات التنظيف.



3 لفصل الأداة ذات الشق الطويل، اضغطي على زر التحرير (1) واسحبي الأنبوب أو اسحبي اليد للخارج من الأداة ذات الشق الطويل (2).




⚠ تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

استخدام أداة التجميع


1 لتركيب أداة التجميع، أدخل الأنبوب أو الجهاز المحمول باليد في أداة التجميع.



2 تم تصميم أداة التجميع لتنظيف إطارات النوافذ أو الستائر أو خيوط العنكبوت، مع إعدادات إطلاق الفرشاة والإضاءة القابلة للتخصيص.



3 لفصل أداة التجميع، اضغطي على زر التحرير (1) واسحبي الأنبوب أو اسحبي اليد للخارج من أداة التجميع (2).




⚠ تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

تنظيف مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة


التنظيف الأوتوماتيكي بعد كل استخدام

لمنع الروائح والرواسب الكلسية، استخدم وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN بعد كل استخدام. يساعدك وضع التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN على تنظيف جهازك بالكامل في حوالي 4 دقائق.


1 ضعي مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة في موضع ما بعد التنظيف والتخزين.




i ملاحظة: إذا كان مستوى الماء المتسخ أقل من مستوى التنظيف التلقائي، فليس من الضروري تفريغ الخزان قبل بدء برنامج التنظيف التلقائي. يمكنك تخطي الخطوات التالية والمضي قدمًا إلى الخطوة 6.




2 اضغطي على الزر لفتح خزان الماء المتسخ وإزالته.




3 قومي بإزالة الفلتر الرطب من خزان الماء المتسخ.




4 اسكبي الماء من خزان الماء المتسخ بالحوض.




5 قومي بوضع الفلتر الرطب مرة أخرى في خزان الماء المتسخ.




6 ضعي خزان الماء المتسخ الفارغ مرة أخرى في الجهاز وأخرجي خزان الماء النظيف.




7 قومي بإزالة الغطاء من خزان الماء النظيف.



8 صبي أي سائل تنظيف متبقي من خزان الماء النظيف في الحوض.




9 قومي بملء خزان الماء النظيف بماء الصنبور البارد أو الفاتر على الأقل حتى مؤشر التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN.





⚠ تنبيه: يجب ألا تزيد درجة حرارة ماء الصنبور الذي يتم سكه في خزان الماء النظيف عن 50 درجة مئوية.

⚠ تنبيه: لا تستخدم المنظفات الخاصة بالتنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN لأن ذلك قد يؤدي إلى رغووة مفرطة.

10 أغلقي خزان المياه بغطاء منع التسرب.



11 ضع خزان الماء النظيف مرة أخرى في الجهاز.




12 اشحن الجهاز. أدخل قابس الطاقة في المقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. ثم أدخل المحول في مأخذ التيار بالحائط.

i ملاحظة: من الضروري توصيل الشاحن لبدء تشغيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي.




13 لبدء دورة التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN، اضغطي على زر التنظيف الأوتوماتيكي. تأكد من توصيل الشاحن قبل بدء التنظيف الأوتوماتيكي.



14 يقوم الجهاز بدورة التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN.


AUTOCLEAN




i ملاحظة: تستمر دورة التنظيف الأوتوماتيكي تقريباً 4 دقائق. للحصول على أفضل النتائج، اتركى الجهاز يمر عبر دورة التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN تماماً. يمكنك إيقاف دورة التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN مؤقتاً أو إلغاؤها في أي وقت.

i ملاحظة: إذا قمت بإلغاء برنامج التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN، يمتص الجهاز الماء المتبقى في صينية ما بعد التنظيف لمدة 10 ثوان تقريباً.

15 بعد اكتمال عملية التنظيف الأوتوماتيكي، اضغط على الزر لفتح قفل خزان المياه المتسخة ثم قم بإزالته.




16 قومي بإزالة الفلتر الرطب من خزان الماء المتسخ.



17 اسكبي الماء من خزان الماء المتسخ بالحوض.




18 نظفي خزان الماء المتسخ تحت الصنبور.




19 نظفي الفلتر المبلل تحت الصنبور.

i ملاحظة: قم بإزالة الفلتر المطوي قبل غسل وحدة الفلتر المبللة تحت الصنبور.




⚠ تحذير: لا يمكن غسل الفلتر المطوي. إذا كنت بحاجة إلى تنظيفه، قم بالضرب عليه برفق ضد سلة المهملات لإخراج أي أوساخ عالقة فيه.

20 دع الفلتر الرطب يجف.




21 قومي بوضع الفلتر الرطب مرة أخرى في خزان الماء المتسخ.


i ملاحظة: تأكد من إدخال الفلتر المطوي في مكانه.




22 ضعي خزان الماء المتسخ مرة أخرى في الجهاز.



23 لإزالة الفرشاة، اسحب الرافعة من الجانب (1) وأدورها عكس اتجاه عقارب الساعة (2). اسحب الفرشاة من فوهة AquaSpin (3)



24 للسماح للفرشاة بالجفاف، ضع الطرف المفتوح للفرشاة على الحامل المخصص في محطة التنظيف اللاحق والتخزين.




i ملاحظة: يمكن أن يستغرق التجفيف حوالي 24 ساعة.


تنظيف صينية ما بعد الاستخدام

إذا اتسخت صينية ما بعد الاستخدام، فيمكنك تنظيفها باتباع الخطوات أدناه.


1 قومي بإزالة صينية ما بعد التنظيف من موضع التخزين.



2 اشطفي صينية ما بعد التنظيف تحت الصنبور واتركيها تجف قبل إعادة وضعها في موضع التخزين.




3 تأكدي من إعادة صينية ما بعد التنظيف دائماً إلى موضع التخزين. تعتبر صينية ما بعد التنظيف ضرورية لإجراء التنظيف الأوتوماتيكي AUTOCLEAN بشكل صحيح.




تنظيف فوهة AquaSpin


- 1 لإزالة الفرشاة، اسحب الرافعة من الجانب (1) وأدبرها عكس اتجاه عقارب الساعة (2). اسحب الفرشاة من فوهة AquaSpin (3).



- 2 يمكنك إزالة الشعر أو الخيوط المتشابكة من فرشاة الألياف الدقيقة عن طريق تحريك فرشاة الألياف الدقيقة لأسفل باستخدام يد واحدة.




نصيحة: يمكنك أيضاً استخدام مقص لقص الشعر والخيوط التي أصبحت متشابكة حول فرشاة الألياف الدقيقة.




إزالة الانسدادات من الجسم الرئيسي

- إذا كان هناك انسداد في الجهاز، فقمي أولاً بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خزان الماء المتسخ. ثم قومي بإزالة الانسداد عن طريق تحريك فرشاة التنظيف لأعلى ولأسفل في قناة الشفط بالجسم الرئيسي.



إزالة الانسدادات من فوهة AquaSpin

إذا كان هناك انسداد في فوهة AquaSpin، فقمي بإزالة الفرشاة من الفوهة. ثم حركي فرشاة التنظيف لأعلى ولأسفل في قناة الشفط لفوهة AquaSpin.





تنظيف مجموعة المكنسة الكهربائية فقط


إفراغ دلو الغبار

صيانة نظام التحكم في الغبار



أفرغي دلو الغبار بعد كل استخدام أو عند وصول الغبار إلى مؤشر مستوى MAX (الحد الأقصى).



1 أوقف تشغيل الجهاز.




2 امسكي الجهاز بزاوية 45 درجة كما هو موضح في الرسم التوضيحي. قومي بإزالة دلو الغبار بالضغط على زر التحرير. يوجد زر التحرير في الجزء السفلي من الدلو.




i ملاحظة: قومي بإزالة دلو الغبار مع إبقاء الجهاز في وضع عمودي.


3 امسكي المقبض الأسود. قومي بإزالة جهاز الفصل الدوامي من دلو الغبار عن طريق إخراجها من الدلو




4 قومي بإفراغ الغبار المتجمع في دلو الغبار في سلة المهملات.




5 قم بإزالة الغبار المتبقي من الإصصار عن طريق النقر عليه برفق على سلة المهملات.



6 ضعي جهاز الفصل الدوامي مرة أخرى في دلو الغبار. تأكدي من محاذاة الجزأين.



7 ضعي الدلو المجمع مرة أخرى في مكانه. قومي أولاً بمحاذاة جانب الفلتر من الدلو قبل تثبيته في مكانه.




الصيانة الدورية من حين لآخر


صيانة نظام التحكم في الغبار

قم بتنظيف الفلتر مرة واحدة على الأقل شهرياً.



1 قومي بتدوير الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته من دلو الغبار.



2 قومي بإزالة الفلتر المصنوع من الفوم القابل للغسل من إطار الفلتر البلاستيكي.




3 انقري على إطار الفلتر والفلتر المصنوع من الفوم بإصبعك فوق سلة المهملات لإزالة أي أتربة بهما.




4 قومي بشطف الفلتر المصنوع من الفوم وعصره حتى يخرج منه ماء نظيف.

i ملاحظة: للحصول على أفضل نتيجة تنظيف، اجعلي الماء يتدفق خلال الفلتر بحيث يكون لسان الفلتر متجهًا للأسفل، مما يسمح بإزالة الغبار العميق.


i ملاحظة: تأكدي من غسل الفلتر مرة واحدة على الأقل في الشهر إذا كنتي تستخدمين الجهاز بانتظام.



5 اترك الفلتر المغسول حتى يجف لمدة 24 ساعة قبل إعادة تركيب الفلتر المصنوع من الفوم في إطار الفلتر.




6 لإجراء صيانة شاملة، قومي بتنظيف دلو الغبار وجهاز الفصل الدوامي تحت ماء الصنبور الجاري أو بالماء الدافئ والصابون.



7 امسحي دلو الغبار وأجزاءه التي تم تنظيفها وجففها.




⚠ تنبيه: تأكد من أن جميع الأجزاء جافة تمامًا قبل إعادة تجميعها.





i ملاحظة: لا يمكن تنظيف جميع الأجزاء في غسالة الأطباق.



8 أعيد تركيب الفلتر في دلو الغبار. قومي بتدوير الفلتر في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه.




9 ضعي الدلو المجمع مرة أخرى في مكانه. قومي أولاً بمحاذاة جانب الفلتر من الدلو قبل تثبيته في مكانه.




i ملاحظة: بعد الصيانة، تأكدي دائماً من أنه تم تركيب الفلتر في الجهاز قبل استخدامه.

صيانة فوهة PrecisionPower الذكية


1 احرصي دائماً على إيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيف أسطوانة فرشاة الفوهة.




2 للوصول إلى أسطوانة الفرشاة، حدي مكان الزر الموجود على جانب الفوهة. اضغطي عليه وقومي بتدوير الغطاء لفتحه.




3 قومي بإزالة أسطوانة الفرشاة والغطاء الجانبي للفوهة برفق.




4 قومي بنزع أي شعر متشابك بعناية من أسطوانة الفرشاة. يمكنك استخدام المقص للمساعدة في إزالة الأوساخ.



5 عند إعادة التجميع، تأكدي من محاذاة أسطوانة الفرشاة بشكل مناسب.




6 أغلقي أسطوانة فرشاة الفوهة عن طريق تثبيتها في مكانها حتى تسمعي صوت "طقطقة".




صيانة الفرشاة التوربينية الصغيرة


1 قم بتدوير الفرشاة عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريرها. اسحب الفرشاة للخارج بعد تحرير القفل.



2 استخدم يديك أو مقصاً لإزالة أي أوساخ من الفرشاة.



3 حرك الفرشاة إلى موضعها وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها في موضعها.



عرض الرموز ومعناها

أكواد الخطأ

كود الخطأ

السبب

الحل

هناك خطأ في النظام.



يشير الرمز الأحمر الثابت إلى أن جهاز Philips AquaTrio series Vacuum Cleaner 7000 الخاص بك به خطأ في النظام.

لحل هذه المشكلة، يرجى تجربة واحد أو اثنين من الخيارين التاليين:

1. قم بإزالة وحدة الطاقة من الجهاز ثم أعد إدخالها. ثم حاولي إعادة تشغيل الجهاز.
 2. افصل المكنسة الكهربائية المحمولة فقط عن الأنبوب واضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على المكنسة الكهربائية المحمولة فقط. إذا كنت لا تزال ترى الرمز الأحمر الثابت، يرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك.
- إذا كنت لا ترين الأيقونة الحمراء الثابتة والجهاز لا يزال لا يعمل، فقد تكون هناك مشكلة في التوصيل بالأنبوب أو الفوهة. يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

درجة الحرارة منخفضة جداً.



يشير وميض رمزي البطارية والخطأ باللون الأحمر معاً إلى أن درجة الحرارة المحيطة إما منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية

تأكد من أن درجة الحرارة في الغرفة حيث يتم استخدام الجهاز أو تخزينه أو شحنه أعلى من 5 درجات مئوية.



كود الخطأ	السبب	الحل
	درجة الحرارة مرتفعة جداً.	يشير وميض رمزي البطارية والخطأ باللون الأحمر معاً إلى أن درجة الحرارة المحيطة إما منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية تأكد من أن درجة الحرارة في الغرفة حيث يتم استخدام الجهاز أو تخزينه أو شحنه أقل من 35 درجات مئوية. لا تعرضي الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو لدرجات حرارة عالية (بالقرب من المواقد الساخنة أو في أفران الميكروويف أو في المواقد الحثية). فقد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
	يشير الرمز الأحمر الواضح إلى أن فتحات مدخل الهواء مسدودة. فتحات مدخل الهواء مسدودة.	افحصي فتحات مدخل الهواء بحثاً عن أي انسداد وقومي بإزالته. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فتتحقي من وجود انسداد في مجرى الهواء بالكامل وقومي بإزالته. يشير هذا إلى الفوهة والأنبوب والفلتر الرطب في إعداد المكنسة الكهربائية والممسحة. في إعداد المكنسة الكهربائية فقط، يشير هذا إلى الفوهة والأنبوب ودلو الغبار وفلتر الرغوة.
	خزان الماء المتسخ ممتلئ.	افتح خزان المياه المتسخ وقم بإزالته. قم بإزالة الفلتر الرطب من خزان المياه المتسخ واحتفظ به جانباً. اسكب الماء من خزان الماء المتسخ بالحوض.
	فوهة AquaSpin عالقة. هذا هو قطع الأمان إذا كان هناك شيء عالق في الفوهة (على سبيل المثال، كابل طاقة أو لعبة).	افحصي الفرش والمحمل وأجزاء المحرك والأغطية بحثاً عن الشعر أو أي عوائق أخرى وقومي بإزالتها. إذا لم تكن هناك عوائق، فقد يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز وتنشغيله إلى حل المشكلة.
	افصلها عن الاستخدام.	افصلي الجهاز عن الاستخدام. وبخلاف ذلك، لن يتم تشغيله. قومي فقط بتوصيل الجهاز أثناء الشحن والتنظيف الأوتوماتيكي.

كود الخطأ	السبب	الحل
	تم توصيل الشاحن الخاطئ.	يشير وميض رمزي البطارية والخطأ باللون الكهرماني معاً إلى وجود خطأ في الشحن. 1. تم توصيل الشاحن الخاطئ: لا تستخدم سوى المهايئ الأصلي لشحن الجهاز. 2. لم يتم إدخال دبوس الشحن بشكل صحيح/كامل: قم بإزالة دبوس الشحن وأعد إدخاله في الجهاز. 3. لم يتم إدخال وحدة الطاقة بشكل صحيح: قم بإزالة وحدة الطاقة وإعادة إدخالها حتى تسمع صوت "نقرة" واضحاً، ثم قم بتوصيل الشاحن الصحيح.
	الشاحن غير متصل.	أيقونة التنظيف الأوتوماتيكي + أيقونة البطارية الوامضة بسرعة (باللون الأبيض) يجب توصيل الشاحن لتشغيل برنامج التنظيف الأوتوماتيكي. تأكد من وضع الجهاز بشكل صحيح في محطة التنظيف اللاحق والتخزين. قم بتوصيل الشاحن.
	ليست هناك طاقة بطارية كافية.	أيقونة التنظيف الأوتوماتيكي + أيقونة البطارية الوامضة بسرعة (باللون الأحمر) إذا تم توصيل الشاحن وظهر هذا الرمز، فهذا يعني أن طاقة البطارية ليست كافية لتشغيل برنامج التنظيف الأوتوماتيكي. إذا كان الشاحن متصلاً، فانتظر لمدة تصل إلى 30 دقيقة حتى يتم شحن البطارية. ثم اضغط على زر التنظيف الأوتوماتيكي لبدء البرنامج.

الاستبدال

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب الي تاجر Philips. يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية مستهلك Philips التابع لدولتك. قطع الغيار وأرقام الأنواع:
الفلتر الجاف XV1771/10





i ملاحظة: استبدلي الفلتر وفرشاة الألياف الدقيقة كل 6 أشهر لضمان أفضل أداء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

استخدام مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل عندما أضغط على زر ① التشغيل/الإيقاف.	وحدة الطاقة غير متصلة.	قم بتوصيل وحدة الطاقة بجهاز المكنسة الكهربائية والممسحة المحمول.
البطارية فارغة.	البطارية فارغة.	لشحن البطارية، قومي بتوصيل المكنسة الكهربائية والممسحة بالشاحن (انظر 'الشحن').
لم تقومي بإخراج الجهاز من موضع ما بعد التنظيف والتخزين.	لم تقومي بإخراج الجهاز من موضع ما بعد التنظيف والتخزين.	أخرجي مجموعة المكنسة الكهربائية والممسحة من موضع ما بعد التنظيف والتخزين قبل تشغيل الجهاز.
لقد ضغطتي على زر ① التشغيل/الإيقاف أكثر من مرة.	لقد ضغطتي على زر ① التشغيل/الإيقاف أكثر من مرة.	انتظري بضع ثوان واضغطي على زر ① التشغيل/الإيقاف مرة أخرى. انتظري بضع ثوان قبل المحاولة مرة أخرى.
لم تقم بتوصيل مقبض إعداد المكنسة الكهربائية والممسحة بالجهاز بشكل صحيح.	لم تقم بتوصيل مقبض إعداد المكنسة الكهربائية والممسحة بالجهاز بشكل صحيح.	ضعي الجزء السفلي من الجهاز في موضع ما بعد التنظيف والتخزين. ثم قم بتوصيل المقبض به واضغط لأسفل بقوة حتى تسمع صوت نقرة التركيب بالكلبس.
الجهاز مسدود.	الجهاز مسدود.	قومي بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية والممسحة وإزالة البطارية أو الجهاز المحمول باليد. ثم حدي موقع الانسداد وأزيلي سبب الانسداد. وبعد ذلك، قومي بإعادة تشغيل الجهاز. إذا لم تتمكني من تحديد سبب الانسداد، فقومي

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	فرشاة الألياف الدقيقة عالقة.	أخرجي فرشاة الألياف الدقيقة وضعيها مرة أخرى.
توقف الجهاز عن العمل.	لقد لمست زر التشغيل/الإيقاف ⑩ بيديكي عن طريق الخطأ.	قومي بتشغيل الجهاز بالضغط على زر ⑩ التشغيل/الإيقاف.
	قد يكون خزان الماء المتسخ ممتلئاً. وفي هذه الحالة، يوجد رمز معلومات معروض على الشاشة (انظر 'عرض الرموز ومعناها').	أفرغي خزان الماء المتسخ.
الأرضية أقل رطوبة من المعتاد.	تم سد فتحات قذف المياه	قومي بإزالة فرشاة الألياف الدقيقة، واملئي بعض الماء في خزان الماء التنظيف وقومي بتشغيل الجهاز. قومي بعمل حركات صغيرة للأمام والخلف في نفس الموضع لمدة 15 ثانية تقريباً. يجب أن تكون قادراً على رؤية أربعة خطوط مائية على الأرض. إذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان شريط مائي واحد أو أكثر يتكون فقط من بضع قطرات، فإن الشرائط المائية مسدودة جزئياً أو كلياً. يمكنك محاولة فتح الثقوب بإبرة بعناية.
إحدى جوانب الأرضية تحت الفوهة أقل رطوبة من الجانب الآخر.	تم سد فتحات قذف المياه.	قومي بإزالة فرشاة الألياف الدقيقة، واملئي بعض الماء في خزان الماء التنظيف وقومي بتشغيل الجهاز. قومي بعمل حركات صغيرة للأمام والخلف في نفس الموضع لمدة 15 ثانية تقريباً. يجب أن تكون قادراً على رؤية أربعة خطوط مائية على الأرض. إذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان شريط مائي واحد أو أكثر يتكون فقط من بضع قطرات، فإن الشرائط المائية مسدودة جزئياً أو كلياً. يمكنك محاولة فتح الثقوب بإبرة بعناية.
لا يوجد ماء على الأرض.	خزان الماء التنظيف فارغ.	قومي بإعادة ملء خزان الماء التنظيف.
		إذا كنت قد تحققتي مما ورد أعلاه ولا يزال هناك ماء على الأرض، فخذِي الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو اتصلي بمركز رعاية المستهلك.
يوجد ماء أكثر على الأرض أو في صينية ما بعد التنظيف أكثر من المعتاد.	قناة الماء للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin ملوثة أو مسدودة.	استخدمي فرشاة التنظيف ونظفي قناة المياه للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin.
	لم يتم وضع خزان الماء المتسخ بشكل صحيح.	ضعي خزان الماء المتسخ في الجهاز بشكل صحيح. يتم إغلاقه بشكل صحيح عندما تسمع صوت "نقرة".
يترك الجهاز آثاراً للمياه على الأرض.	لقد قمتَ بتحريك الجهاز بشكل جانبي.	لمنع آثار المياه على الأرض، حاولي عمل انعطافات أقل قوة بسلسلة AquaTrio 7000 Series وتجنبي تحريك الجهاز جانباً. يمكنك تنشيط وضع امتصاص الماء ⑧ عن طريق الضغط على زر وضع التنظيف. سيتم امتصاص كل المياه المتبقية على الأرضية.
	لقد قمتَ بعمل منعطفات قوية باستخدام الجهاز.	لمنع آثار المياه على الأرض، حاولي عمل انعطافات أقل قوة بسلسلة AquaTrio 7000 Series وتجنبي تحريك الجهاز جانباً. يمكنك تنشيط وضع امتصاص الماء ⑧ عن طريق

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
		الضغط على زر وضع التنظيف. سيتم امتصاص كل المياه المتبقية على الأرضية.
لقد رفعتي الجهاز فوق عتبة أو سجادة أو درج.	تأكد من أن فرشاة الألياف الدقيقة تظل ملاصقة للأرض. تأكد من تشغيل وضع امتصاص الماء ⑥ قبل رفع الجهاز فوق عتبة أو سجادة أو سلالم لمنع آثار المياه على الأرض أو لمنع تناثر الماء من فوهة AquaSpin.	
لقد رفعتي الجهاز عن الأرض فور إيقاف تشغيله.	قومي بتشغيل وضع امتصاص الماء ⑥ لامتصاص أي ماء متبقي. حركي الجهاز للأمام والخلف عدة مرات باستخدام وضع امتصاص الماء ⑥ الذي يعمل قبل إيقاف تشغيله. إذا قمتي بإيقاف تشغيل الجهاز ورفعته لأعلى بعد ذلك مباشرة، فإن الماء الموجود بين الفرش يترك أثراً من الماء على الأرض.	
العجلات مسدودة.	تحققي من حالة العجلات. قومي بإزالة الأوساخ التي تسد العجلات.	
الجهاز لا ينظف كما كان معتاداً.	خزان الماء النظيف فارغ.	قومي بإعادة ملء خزان الماء النظيف.
تم سد فتحات كدف المياه.	قم بإزالة فرشاة الألياف الدقيقة، ثم املاّ خزان المياه النظيفة ببعض الماء، ثم قم بتشغيل الجهاز. قومي بعمل حركات صغيرة للأمام والخلف في نفس الموضع لمدة 15 ثانية تقريباً. يجب أن تكون قادراً على رؤية أربعة خطوط مائية على الأرض. إذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان شريط مائي واحد أو أكثر يتكون فقط من بضع قطرات، فإن الشرائط المائية مسدودة جزئياً أو كلياً. يمكنك محاولة فتح الثقوب بإبرة بعناية.	
الجزء الداخلي لفوهة AquaSpin متسخ جداً.	قومي بتشغيل برنامج التنظيف التلقائي قبل العودة إلى التنظيف. إذا كان هناك تراكم للأوساخ في حواف الفوهة، فقومي بإزالتها. تأكدي من استخدام وظيفة التنظيف التلقائي بعد كل استخدام.	
فرشاة الألياف الدقيقة غير موجودة.	ضعي فرشاة الألياف الدقيقة في فوهة AquaSpin.	
لا يتم امتصاص جزيئات الأوساخ الأكبر بعد الآن وتسقط على الأرض.	قناة الماء للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin ملوثة أو مسدودة.	إذا كنت قد فحصت ما ورد أعلاه ولا يزال الجهاز لا ينظف جيداً، فقومي باصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
تجف الأرضية مع ترك خطوط.	ربما تكون قد استخدمت كثير من المنظفات.	استخدمي فرشاة التنظيف ونظفي قناة المياه للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin.
العجلات متسخة.	ربما تكون قد استخدمت كثير من المنظفات.	تأكدي من استخدام الكمية المناسبة من المنظفات.
يوجد كثير من الرغوة أثناء التنظيف، ولكن أيضاً أثناء التنظيف التلقائي.	ربما تكون قد استخدمت كثير من المنظفات.	قومي بإزالة الأوساخ من العجلات.
		تأكدي من استخدام الكمية المناسبة من المنظفات.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا تزال هناك بقايا منظف على الأرض.	نظفي الأرض بدون منظف عدة مرات. انتظري لحظة قبل أن تتخلصي من نفس البقعة مرة أخرى.	
من الصعب تنظيف البقع.	ربما تكون قد استخدمتي قليل من الماء أو أخذتي وقتاً قصيراً جداً لتنظيف البقعة.	ضعي الماء وانتظري لحظة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الجهاز فوق البقعة لوضع الماء والعودة إلى نفس البقعة في نهاية جلسة التنظيف.
تغير صوت الجهاز أثناء التنظيف.	قد يكون هناك شعر أو عوائق أخرى متشابكة حول فرشاة الألياف الدقيقة.	قومي بإزالة فرشاة الألياف الدقيقة وتحققي من العوائق وقومي بإزالتها.
تشير الشاشة إلى أن خزان المياه المتسخة ممتلئ وتغلق، على الرغم من أن خزان المياه المتسخة لم يمتلئ بعد.	قد يكون هناك رغوة أو تلوث لخزان الماء المتسخ.	أعدي تشغيل الجهاز. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فقومي بتنظيف خزان الماء المتسخ. إذا كانت مشكلة الرغوة هي المشكلة، فتأكدي من عدم استخدام أكثر من الكمية الموصى بها من المنظف.
يتسرب الماء من الجهاز بعد إيقاف تشغيله.	يترك الجهاز بركة مياه على الأرض لأنك لم تحركيه أثناء إيقاف تشغيله. هذا أمر طبيعي.	يمكن للجهاز ترك بركة صغيرة من الماء على الأرض إذا لم تحركي الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. يمكنك تقليل حجم البركة عن طريق تحريك الجهاز أثناء إيقاف تشغيله. عند إيقاف تشغيل الجهاز، سيتحول إلى وضع امتصاص الماء (8) لمدة 6 ثوانٍ لتنظيف أي ماء متبقي في الفوهة. إذا لزم الأمر، يمكنك إزالة آخر القطرات بقطعة قماش.
يقطر الجهاز عند حملة فوق الأرض (حملة في الهواء).	لا تملئي خزان الماء النظيف بما يتجاوز مؤشر الحد الأقصى (MAX). إذا قمت بذلك، فقد ينسكب الماء من خزان الماء النظيف عند ربط الغطاء.	أثناء التنظيف، لا ترفعي فوهة AquaSpin من الأرض، لأن ذلك يترك آثاراً للمياه. لا تحركيه إلا للأمام وللخلف.
يتسرب الماء من خزان الماء النظيف لأنك ملئي خزان الماء النظيف أكثر من اللازم.	لا تملئي خزان الماء النظيف بما يتجاوز مؤشر الحد الأقصى (MAX). إذا قمت بذلك، فقد ينسكب الماء من خزان الماء النظيف عند ربط الغطاء.	أثناء التنظيف، لا ترفعي فوهة AquaSpin من الأرض، لأن ذلك يترك آثاراً للمياه. لا تحركيه إلا للأمام وللخلف.
لا يمكنني إزالة فرشاة الألياف الدقيقة.	يوجد تشقق في أحد الخزانات.	في حالة تلف أحد الخزانات، اصطبيه إلى مركز خدمة Philips أو اتصلي بمركز رعاية المستهلك.
لا يمكنني إزالة فرشاة الألياف الدقيقة.	الشعر و/أو الأوساخ متشابكة في فرشاة الألياف الدقيقة.	افتح الفرشاة عن طريق تحريك الرافعة للخارج. قم بتدوير الرافعة عدة مرات في كلا الاتجاهين لتخفيف الفرشاة. قم باللف في اتجاه عكس عقارب الساعة لإزالة الفرشاة. إذا كان من الصعب إزالة الفرشاة، يمكنك أيضاً دفعها من أسفل فوهة AquaSpin. قومي بإزالة الشعر المتشابك أو الأوساخ. إذا كان من الصعب سحب الفرشاة، يمكنك دفعها من أسفل فوهة AquaSpin.
لا يمكنني تحريك الجهاز للأمام أو للخلف.	قد يتم سد عجلة واحدة أو أكثر بواسطة جسم صغير.	افتح الفرشاة عن طريق تحريك الرافعة للخارج. قم بتدوير الرافعة عدة مرات في كلا الاتجاهين لتخفيف الفرشاة. قم باللف في اتجاه عكس عقارب الساعة لإزالة الفرشاة. إذا كان من الصعب إزالة الفرشاة، يمكنك أيضاً دفعها من أسفل فوهة AquaSpin.
قوة سحب الجهاز منخفضة عن المعتاد.	قناة الماء للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin ملوثة أو مسدودة.	استخدمي فرشاة التنظيف ونظفي قناة المياه للوحدة الرطبة و/أو فوهة AquaSpin.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	لم تكن الشبكة الموجودة في خزان الماء المتسخ جافة بدرجة كافية قبل استخدامها مرة أخرى.	نظفي خزان الماء المتسخ وجففه.
	تشابك الشعر على فرشاة الألياف الدقيقة.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة الشعر من فرشاة الألياف الدقيقة.
	لم يتم وضع خزان الماء المتسخ بشكل صحيح.	ضعي خزان الماء المتسخ في الجهاز بشكل صحيح. يتم إغلاقه بشكل صحيح عندما تسمع صوت "نقرة".
فرشاة الألياف الدقيقة لا تدور بعد الآن	فرشاة الألياف الدقيقة مسدودة بالشعر أو الأوساخ.	نظفي فرشاة الألياف الدقيقة بمقص أو باليد.
تنبثق فرشاة الألياف الدقيقة.	لم يتم قفل فرشاة الألياف الدقيقة بشكل صحيح.	ضعي فرشاة الألياف الدقيقة مرة أخرى في الموضع الصحيح وقومي بقفلاها.
لا يتم شحن الجهاز.	لم يتم توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح بالمقبس أو لم يتم إدخال المحول في مقبس الحائط بشكل صحيح.	تأكد من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح بالمقبس ومن إدخال المحول في مقبس الحائط بشكل صحيح.
	وحدة الطاقة غير متصلة.	من فضلك أدخل وحدة الطاقة.
	لم يتم إدخال وحدة الطاقة بشكل صحيح.	الرجاء إدخال وحدة الطاقة حتى تسمعي صوت نقرة التركيب بالكبس.
	تم توصيل المحول الخاطئ.	الرجاء استخدام المحول الأصلي.
		إذا كنت قد فحصت ما ورد أعلاه ولا يزال الجهاز لا يشحن، ففضل باصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة فيليبس أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
عندما أستخدم مكنسة كهربائية أشعر أحياناً بصدمات كهربائية ثابتة.	تراكيم المكنسة الكهربائية كهرباء ساكنة. كلما قلت رطوبة الهواء، كَوْن الجهاز مزيداً من الكهرباء الساكنة.	تأكدي من لمس الدبوس المعدني بيديكي أثناء الإمساك بالجهاز.
	لقد نظفت الغبار والأوساخ. هذا يسبب أيضاً كهرباء ساكنة.	تأكدي من لمس الدبوس المعدني بيديكي أثناء الإمساك بالجهاز.
لا يتم إيقاف تشغيل الجهاز على الفور.	تم تفعيل الإيقاف المؤجل.	بعد الضغط على زر التشغيل/الإيقاف، سيتم تشغيل الجهاز لمدة 6 ثوانٍ قبل إيقاف تشغيله تماماً. هذا أمر طبيعي. يلزم 6 ثوانٍ إضافية لتنظيف أي مياه متبقية في الفوهة وعلى الأرض.

استخدام مجموعة المكنسة الكهربائية فقط

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل عندما أضغط على زر ⑩	لم تقومي بتوصيل وحدة الطاقة.	قم بتوصيل وحدة الطاقة بجهاز المكنسة الكهربائية المحمول فقط.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
البطارية فارغة.	البطارية فارغة.	لشحن البطارية، قومي بتوصيل المكنسة الكهربائية فقط بالشاحن (انظر 'الشحن').
لقد ضغطت على زر ⑤ التشغيل/الإيقاف أكثر من مرة.	لقد ضغطت على زر ⑤ التشغيل/الإيقاف أكثر من مرة.	انتظري بضع ثوان واضغطي على زر ⑤ التشغيل/الإيقاف مرة أخرى. انتظر بضع ثوان قبل المحاولة مرة أخرى.
الجهاز مسدود.	الجهاز مسدود.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية أو مصدر الطاقة. ثم حدي موقع الانسداد وأزيلي سبب الانسداد. وبعد ذلك، قومي بإعادة تشغيل الجهاز. إذا لم تتمكني من تحديد سبب الانسداد، قومي بإعادة تشغيل الجهاز. هذا قد يحل المشكلة بالفعل.
الفرشاة الدوارة عالقة.	الفرشاة الدوارة عالقة.	أخرجي الفرشاة الدوارة وأزيلي أي شعر حول الفرشاة والمحرك وضعيها مرة أخرى.
لا يمكن توصيل الجهاز المحمول باليد بدلو الغبار.	تم تجميع علبة الفلتر رأسًا على عقب.	اقلبي علبة الفلتر. يجب أن تكون الفتحة المستديرة مرئية.
لم يتم إغلاق علبة الفلتر بشكل صحيح.	لم يتم إغلاق علبة الفلتر بشكل صحيح.	تأكدي من سماع نقرة عند إغلاق علبة الفلتر. إذا كان من الصعب الإغلاق، فمن المحتمل أن يكون فلتر الرغوة مقلوبًا.
توقف الجهاز عن العمل.	لقد لمست زر التشغيل/الإيقاف ⑤ بديكي عن طريق الخطأ.	قومي بتشغيل الجهاز بالضغط على زر ⑤ التشغيل/الإيقاف.
الجهاز مسدود.	الجهاز مسدود.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية أو مصدر الطاقة. ثم حدي موقع الانسداد وأزيلي سبب الانسداد. وبعد ذلك، قومي بإعادة تشغيل الجهاز. إذا لم تتمكني من تحديد سبب الانسداد، قومي بإعادة تشغيل الجهاز. هذا قد يحل المشكلة بالفعل.
تغير صوت الجهاز أثناء التنظيف.	قد يكون هناك شعر أو عوائق أخرى متشابكة حول فرش الفرشاة الدوارة.	يُرجى التحقق من وجود عقبات وإزالتها.
العقبات تعيق المضخة.	العقبات تعيق المضخة.	تحققي من المضخة للبحث عن عقبات وإزالتها.
قوة سحب الجهاز منخفضة عن المعتاد.	الفلتر وأو المضخة متسخان.	أفرغ دلو الغبار. نظف الفلتر والفواصل الدوامي. تأكد من إزالة أي شعر وأوساخ عالقة في المضخة. يمكنك إزالة المضخة بسهولة الصيانة. تأكدي من غسل الفلتر مرة واحدة على الأقل في الشهر إذا كنتي تستخدمين الجهاز بانتظام.
شيء ما يعيق المضخة.	شيء ما يعيق المضخة.	تحقق من المضخة بحثًا عن أشياء عالقة فيها وقم بإزالة أي شيء يحجبها. تأكد من إزالة أي شعر وأوساخ عالقة في المضخة.
قناة الشفط خلف الفرشاة الدوارة مسدودة.	قناة الشفط خلف الفرشاة الدوارة مسدودة.	قومي بإزالة الفرشاة الدوارة وتحققي من قناة الشفط بحثًا عن العوائق وقومي بإزالتها.
لم تقومي بتوصيل علبة الفلتر بشكل صحيح بدلو الغبار أو لم تقومي بتوصيل دلو الغبار بالجهاز بشكل صحيح. في كلتا الحالتين، ستتأثر قوة السحب.	لم تقومي بتوصيل علبة الفلتر بشكل صحيح بدلو الغبار أو لم تقومي بتوصيل دلو الغبار بالجهاز بشكل صحيح. في كلتا الحالتين، ستتأثر قوة السحب.	تأكدي من تركيب علبة الفلتر بدلو الغبار ومن تركيب الدلو ذاته بالجهاز بشكل صحيح.


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	الفرشاة مسدودة بالشعر أو الأوساخ.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وتنظيف الفرشاة الدوارة باستخدام مقص أو باليد.
تفلت الأتربة من الجهاز.	فلتر الرغوة غير موجود في علبة الفلتر، أو الغطاء العلوي مفقود.	تأكد من أن الفلتر في الجهاز ومجمع بشكل صحيح.
تسرب الغبار عند فتح دلو الغبار.	هذا سلوك طبيعي بسبب الضغط.	إذا أمكن، افتحي الجهاز بالخارج.
لا يتحرك الجهاز بسلاسة عبر الأرضية عندما أقوم بتنظيف سجادة.	لقد اخترت قوة سحب عالية جداً.	قللي قوة الشفط باختيار الإعداد 1 أو تحركي ببطء أكثر فوق السجادة.
الفرشاة الدوارة لم تعد تدور.	الفرشاة الدوارة مسدودة بالشعر أو الأوساخ.	نظّفي الفرشاة باستخدام مقص أو باليدين.
	قد تتوقف الفرشاة الدوارة عن الدوران عندما تواجه مقاومة كبيرة جداً من السجاد عالي الوبر.	أطفئ الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
	لم تقم بتجميع الفرشاة الدوارة في الفوهة بشكل صحيح بعد التنظيف.	اتبعي التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا لتحريك الفرشاة الدوارة داخل الفوهة عن طريق تحريك ذراع القفل في مكانه.
المصابيح الموجودة على الفوهة لا تضيء.	لم تقم بتوصيل الفوهة بالأنبوب أو الجهاز بشكل صحيح.	قومي بتوصيل الفوهة بالأنبوب أو الجهاز بشكل صحيح. إذا لم يساعد ذلك، فيُرجى اصطحابه إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
لا يتم شحن الجهاز.	لم يتم توصيل القابض بشكل صحيح بمأخذ التيار الكهربائي أو لم يتم إدخال المحول في مقبض الحائط بشكل صحيح.	تأكدي من توصيل القابض بشكل صحيح بمأخذ التيار الكهربائي ومن إدخال المحول في مقبض الحائط بشكل صحيح.
	وحدة الطاقة غير متصلة.	من فضلك أدخل وحدة الطاقة.
	لم يتم إدخال وحدة الطاقة بالكامل.	الرجاء إدخال وحدة الطاقة حتى تسمعي صوت نقرة التركيب بالكبس.
	تم توصيل المحول الخاطئ.	الرجاء استخدام المحول الأصلي.
		إذا كنت قد فحصت ما ورد أعلاه ولا يزال الجهاز لا يشحن، ففضل باصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة فيليبس أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
فرشاة Turbo الصغيرة لا تعمل بشكل صحيح.	الفرشاة الدوارة مسدودة.	أزلي الشعر من الفرشاة باستخدام مقص.
	الفرشاة الدوارة تتعاقب بالأقمشة والأسطح أثناء التنظيف.	احتفظ بفرشاة Turbo الصغيرة محاذية للسطح ولا تدفع فرشاة Turbo إلى الأسطح الناعمة.
	لم يتم إدخال الفرشاة الدوارة بشكل صحيح في الفوهة.	تأكدي من إدخال الفرشاة الدوارة بشكل صحيح في الفوهة وأنه لا توجد فجوة بين الأجزاء.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عندما أستخدم مكنسة كهربائية أشعر أحيانا بصدمات كهربائية ثابتة.	تراكيم المكنسة الكهربائية كهرباء ساكنة. كلما قلت رطوبة الهواء، كَوْن الجهاز مزيداً من الكهرباء الساكنة.	تأكدي من لمس الدبوس المعدني بيدكي أثناء الإمساك بالجهاز.
	لقد نظفت الغبار والأوساخ. هذا يسبب أيضاً كهرباء ساكنة.	تأكدي من لمس الدبوس المعدني بيدكي أثناء الإمساك بالجهاز.

فهرست مطالب

418	_____	کلیات
418	_____	معرفی
419	_____	توصیف کلی
419	_____	قبل از اولین استفاده
423	_____	شارژ دستگاه
426	_____	جارو برقی و زمین شویی کف های سخت
431	_____	جارو کردن کف های نرم و سخت
437	_____	تمیز کردن دستگاه جارو برقی و زمین شویی
444	_____	تمیز کردن بست آپ صرفه جارو برقی
452	_____	نمایش نمادها و معنی آنها
454	_____	تعویض
455	_____	عیب یابی

کلیات



معرفی

با تشکر از خرید این محصول Philips! برای بهره‌مندی کامل از خدمات پشتیبانی Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/myvacuum9000s ثبت کنید.

توصیف کلی


- 1 پایه دیواری
- 2 نازل مخصوص شکاف و درز ها
- 3 نازل 2 در 1
- 4 دکمه توربو جاروبرقی خشک
- 5 دکمه روشن/خاموش جاروبرقی خشک
- 6 دستگیره و سطل خاکروبه جاروبرقی خشک
- 7 لوله طویل شده
- 8 ذخیره گاه لوازم جانبی روی لوله
- 9 نازل جاروبرقی
- 10 برس توربو موتوردار
- 11 آداپتور
- 12 نیروگاه
- 13 نشانگر حالت مرطوب شدید
- 14 نشانگر DWT پر شده
- 15 نشانگر تمیز کردن خودکار
- 16 چراغ نشانگر شارژ باتری
- 17 نشانگر جذب کردن آب
- 18 نشانگر گیر کردن نازل
- 19 نشانگر خطا
- 20 نشانگر توربو خشک
- 21 دستگیره جاروبرقی مرطوب
- 22 دکمه تغییر حالت مکش
- 23 دکمه روشن/خاموش جاروبرقی مرطوب
- 24 دکمه تمیز کردن خودکار
- 25 مخزن آب تمیز
- 26 مخزن آب کثیف
- 27 نازل AquaSpin
- 28 برس تمیز کردن 2 در 1
- 29 ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی
- 30 سینی پس از تمیز کردن
- 31 مواد شوینده

قبل از اولین استفاده

مونتاژ ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی


به منظور استفاده از عملکرد AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) یا نگهداری و شارژ کردن دستگاه در ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی، ابتدا باید با کلیک کردن روی نگهدارنده دستگاه در صفحه پایه، ایستگاه را مونتاژ کنید.

i توجه: اطمینان حاصل کنید که سینی پس از تمیز کردن در صفحه پایه قرار داده شده است و دمای اتاقی که دستگاه در آن نگهداری، شارژ و تمیز می شود بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد باشد.




نصب پایه دیواری

اگر می خواهید دستگاه فقط جارو کردن را روی پایه دیواری نگهداری و شارژ کنید، پایه دیواری را با پیچ های ارائه شده به دیوار ببندید. اطمینان حاصل کنید که پایه دیواری 105 تا 115 سانتی متر بالاتر از زمین باشد.



i توجه: امکان نگهداری دستگاه جارو کردن و پاک کردن بر روی پایه دیواری وجود ندارد. تنها امکان نگهداری دستگاه فقط جارو کردن بر روی پایه دیواری وجود دارد.




i توجه: مطمئن شوید که دمای اتاقی که دستگاه در آن نگهداری یا شارژ می شود، بین 5 و 35 درجه سانتیگراد است.


⚠ احتیاط: هنگام سوراخ کاری دیوار برای نصب پایه دیواری، مراقب برق گرفتگی باشید.

مونتاژ دستگاه جارو کردن و پاک کردن


1 برای مونتاژ دستگاه، دستگیره را در بدنه اصلی قرار دهید («صدای کلیک کردن می شنوید»).



- 2 نیروگاه را در قطعه مازول مرطوب بالای مخزن آب کثیف قرار دهید (صدای کلیک کردن می شنوید!).




- 3 برای نگهداری دستگاه جارو کردن و پاک کردن، می توانید آن را در ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی قرار دهید.




جدا کردن دستگیره

اگر نیاز به جداسازی مجدد دستگاه دارید، مراحل زیر را دنبال کنید:

- 1 یک پیچ گوشتی سوزنی/دو سو را در سوراخ پشت دستگاه قرار دهید و دستگیره را بالا بکشید.




- 2 در حالی که به فشار دادن پیچ گوشتی به داخل سوراخ ادامه می دهید، دستگیره را از دستگاه بیرون بکشید.




i توجه: لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است مقدار کمی باقیمانده آب تمیز در داخل نازل و مخازن وجود داشته باشد. این نتیجه بررسی کیفیت کارخانه است. خاطر جمع باشید، دستگاه کاملاً تمیز و برای استفاده بی خطر است.

نصب دستگاه فقط جاروبرقی


- 1 برای مونتاژ دستگاه فقط جاروبرقی، نیروگاه را در موقعیتی زیر دستگاه قرار دهید (صدای کلیک کردن می شنوید!).




- 2 دستگاه را با سطل به لوله وصل کنید (صدای کلیک کردن می شنوید).



- 3 لوله را داخل نازل LED قرار دهید.




- 4 برای اینکه دستگاه فقط جارو کردن خود را نگهداری کنید، آن را در پایه دیواری قرار دهید. سطل را درون پایه دیواری بلغزانید تا از جا افتادن آن مطمئن شوید.




برداشتن و اتصال نیروگاه

برداشتن و اتصال نیروگاه در دستگاه فقط جاروبرقی




- 1 دکمه کنار دستگیره را فشار دهید.
- 2 در حالی که دکمه را فشار داده اید، نیروگاه را از روی دستگیره خارج کنید.

- 3 برای اتصال نیروگاه، به سادگی آن را در موقعیت زیر دستگیره قرار دهید (صدای کلیک کردن می شنوید!). نقاط اتصال را به درستی تراز کرده اید تا از جا افتادن ایمن آن مطمئن شوید.




برداشتن و اتصال نیروگاه در دستگاه جارو کردن و پاک کردن



- 1 دکمه کنار دستگاه را فشار دهید.
- 2 در حالی که دکمه را فشار داده اید، نیروگاه را از روی مخزن آب کثیف خارج کنید.


- 3 برای اتصال نیروگاه، به سادگی آن را در موقعیت خود قرار دهید (صدای کلیک کردن می شنوید!). نقاط اتصال را به درستی تراز کرده اید تا از جا افتادن ایمن آن مطمئن شوید.



شارژر دستگاه

شارژ کردن برای دستگاه جارو کردن و پاک کردن

این دستگاه مجهز به باتری 25 ولتی لیتیوم یونی است. عمل شارژ کردن 4 ساعت طول می کشد.



- 1 برای شارژ کردن دستگاه، درپوش پشت دستگاه را باز کنید.
- 2 دوشاخه برق را در پریز پشت دستگاه قرار دهید.

- 3 آداپتور را در پریز دیواری قرار دهید




- 4 نماد باتری و بخش‌های دایره‌ای روی صفحه چشمک می‌زنند تا نشان دهند که دستگاه در حال شارژ شدن است.




- 5 هنگامی که دستگاه به طور کامل شارژ شد، نماد باتری و تمام بخش‌های دایره‌ای شکل روی صفحه نمایش روشن می‌شود. پس از چند دقیقه، صفحه نمایش خاموش می‌شود.



- 6 قبل از استفاده از آن برای تمیز کردن، دوشاخه برق را از پریز پشت دستگاه جدا کنید.





7 درپوش مسدود سازی را ببندید.


نکته: می توانید دستگاه را در ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی شارژ کنید.

نکته: می توانید دستگاه را به طور جداگانه در مکانی که برای خودتان مناسب می بینید شارژ کنید.


عمل شارژ کردن برای دستگاه فقط جارو کردن

این دستگاه مجهز به باتری 25 ولتی لیتیوم یونی است. عمل شارژ کردن 4 ساعت طول می کشد.


1 برای شارژ کردن دستگاه، دوشاخه برق را در پریز پشت دستگاه قرار دهید.



2 دستگاه را با سطل داخل پایه دیواری بلغزانید.



3 آداپتور را در پریز دیواری قرار دهید



4 نماد باتری و بخش های دایره ای روی صفحه چشمک می زنند تا نشان دهند که دستگاه در حال شارژ شدن است.





5 هنگامی که دستگاه به طور کامل شارژ شد، نماد باتری و تمام بخش های دایره ای شکل روی صفحه نمایش روشن می شود. پس از چند دقیقه، صفحه نمایش خاموش می شود.



6 قبل از استفاده از آن برای تمیز کردن، دوشاخه برق را از پریز پشت دستگاه جدا کنید.

 نکته: هنگامی که دستگاه به پایه دیواری متصل است، می توانید آن را شارژ کنید.

 نکته: می توانید دستگاه را به طور جداگانه در مکانی که برای خودتان مناسب می بینید شارژ کنید.

جارو برقی و زمین شویی کف های سخت


استفاده از دستگاه

مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف پیش از تحویل دادن دستگاه به آن وصل شده اند. می توانید از دستگاه برای تمیز کردن کف های سخت استفاده کنید.



 توجه: این دستگاه برای جارو کردن و پاک کردن همزمان مناسب است. نیازی نیست کف اتاق را قبل از عمل پاک کردن جارو کنید.

این دستگاه برای جارو کردن و پاک کردن انواع کف های سخت، به جز کف های چوبی بدون روکش مناسب است. می توانید دستگاه را در یک منطقه کوچک و خارج از دید مستقیم آزمایش کنید تا مطمئن شوید که دستگاه برای کف اتاق شما مناسب است.


1 دکمه را به سمت پایین فشار دهید تا قفل مخزن آب تمیز باز شود و مخزن آب تمیز را خارج کنید.



2 درپوش مخزن آب تمیز را باز کنید.




3 15 میلی لیتر از مایع کف شوی Philips XV1792 را به مخزن آب تمیز اضافه کنید.




⚠ احتیاط: Philips این دستگاه را با مایع کف شوی Philips XV1792 تست کرده است. سایر شوینده‌ها ممکن است کف اضافی تولید کنند که کارایی عملکردی را کاهش داده و ممکن است سبب خرابی دستگاه شوند. مایع کف شوی Philips XV1792 در فروشگاه‌های منتخب در دسترس می‌باشد. در هنگام استفاده از هرگونه مایع مناسب کف شوی، حد اکثر 10 میلی لیتر به آب پاک تانکر اضافه کنید.

4 مخزن آب تمیز را تا بالا با آب شیر سرد یا ولرم پر کنید.




⚠ احتیاط: آب لوله کشی که در مخزن آب تمیز ریخته می‌شود نباید گرمتر از 50 درجه سانتیگراد باشد.


5 درپوش مسدود سازی مخزن آب را ببندید.



6 مخزن آب تمیز را دوباره داخل دستگاه قرار دهید.




7 دستگاه را از ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی خارج کرده و روی کف اتاق قرار دهید. پای خود را روی نازل AquaSpin قرار دهید و دستگاه را به سمت عقب بکشید تا قفل نازل AquaSpin باز شود. اکنون دستگاه آماده استفاده است.



8 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

i توجه: دستگاه به طور خودکار در حالت مرطوب معمولی روشن می شود.

A احتیاط: وقتی نازل AquaSpin باز است یا وقتی دستگاه روشن است، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید.



9 از دکمه تغییر حالت (☼) برای جابجایی بین سه تنظیمات مختلف استفاده کنید:

- حالت مرطوب معمولی (به صورت خودکار پس از راه اندازی)
- حالت مرطوب شدید
- حالت جذب آب

حالت مرطوب معمولی برای زمانی که دستگاه جارو کردن و پاک کردن روشن می شود، یک تنظیمات پیش فرض است. می توانید از این حالت برای تمیز کردن منظم مرطوب استفاده کنید.


حالت مرطوب شدید (☼)، برای تمیز کردن لکه های خیلی سخت است.

اگر پس از تمیز کردن، نقاط مرطوبی روی زمین وجود داشت، می توانید حالت جذب آب (☼) را برای تمیز کردن آنها انتخاب کنید. ما همچنین استفاده از آن را هنگام بلند کردن دستگاه از روی ورودی، فرش یا پله ها توصیه می کنیم.

اگر حالت جذب آب (☼) را انتخاب کنید، دستگاه تامین آب را متوقف می کند و قدرت مکش را به مدت 45 ثانیه افزایش می دهد تا آب باقیمانده روی زمین را جذب کند.

پس از اتمام کار با دستگاه، آن را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش خاموش کنید. دستگاه به مدت 6 ثانیه به حالت جذب آب می رود تا آب باقی مانده در نازل تمیز شود.

i توجه: اگر دستگاه را هنگام خاموش کردن حرکت ندهید، می تواند یک چاله آب کوچک روی کف باقی بگذارد. می توانید با حرکت دادن دستگاه در حین خاموش کردن، اندازه آن چاله کوچک را کاهش دهید. در صورت لزوم می توانید آخرین قطرات را با یک پارچه جمع کنید.




i توجه: زمان خاموشی با تاخیر: پس از فشار دادن دکمه روشن/خاموشی، دستگاه به مدت 6 ثانیه قبل از خاموش شدن کامل کار می کند. این امر عادی است. 6 ثانیه اضافی برای تمیز کردن آب باقی مانده در نازل و روی کف اتاق لازم است

عملکرد مکث در دستگاه جارو کردن و پاک کردن

دستگاه دارای عملکرد مکث است.

در حین استفاده، اگر دستگیره به جلو فشار داده شود و در حالت عمودی قفل شود، دستگاه به حالت آماده به کار رفته و به مدت 15 ثانیه مکث می کند.



برای شروع مجدد تمیز کردن، پای خود را روی نازل aqua spin قرار دهید و ظرف 15 ثانیه دستگیره را به عقب بکشید. دستگاه به طور خودکار تمیز کردن را از سر می گیرد.

i توجه: اگر بعد از 15 ثانیه از بودن در حالت عملکرد مکث، هیچ فعالیتی وجود نداشته باشد، دستگاه به طور خودکار خاموشی می شود. برای راه اندازی مجدد دستگاه پس از خاموشی شدن خودکار، کافی است دکمه روشن/خاموشی را فشار دهید.

سیستم حفاظت فعال

- این دستگاه مجهز به سیستم حفاظت فعال است. این سیستم حفاظت فعال برای تشخیص زمانی که یک جسم خارجی به غیر از خاک یا مایع از روی کف اتاق برداشته می شود، طراحی شده است.
- هنگامی که سیستم فعال می شود، دستگاه خاموش می شود و نماد خطای نازل مسدود شده روی نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند (به نمادهای نمایشگر و معانی آنها مراجعه کنید). هنگامی که برس میکرو فیبر خیلی خیس است، هنگامی که دستگاه را روی فرش یا موکت حرکت می دهید، یا زمانی که آن را روی کفی که به درستی چسبانده نشده است حرکت می دهید، سیستم حفاظت فعال را می تواند فعال گردد.

نکات و سایر اطلاعات مهم

- لازم نیست قبل از تمیز کردن کف، جاروبرقی بکشید، زیرا تنظیمات تمیزکاری و جاروکشی فعالانه کف سخت شما را با رطوبت تمیز می کند تا انواع کثیفی ها، از جمله مایعات و لکه ها را جذب کند. روی فرش و موکت، از تنظیمات فقط جارو برقی استفاده کنید.
- اگر کف های سخت شما نیازی به تمیز کردن ندارند، به سادگی از دستگاه فقط جارو کردن استفاده کنید که دارای چراغ های LED و فناوری 12 PowerCyclone برای جمع آوری دقیق و قدرتمند آلودگی است.
- می توانید دستگاه را به همان سرعت جاروبرقی جابجا کنید. برای از بین بردن لکه های سخت، روی دکمه حالت تمیز کردن کلیک کنید تا حالت مرطوب شدید (Ⓔ) فعال شود و دستگاه را به آرامی روی لکه ها حرکت دهید.
- اگر دستگاه را هنگام خاموشی کردن حرکت ندهید، می تواند یک چاله آب کوچک روی کف باقی بگذارد. می توانید با حرکت دادن دستگاه در حین خاموشی کردن، اندازه آن چاله کوچک را کاهش دهید. در صورت لزوم می توانید آخرین قطرات را با یک پارچه جمع کنید.
- توصیه می شود در هنگام تمیز کردن، هنگام بلند کردن دستگاه از روی ورودی، فرش یا پله ها، حالت جذب آب (Ⓖ) را فعال کنید. این کار از چکه کردن آب کثیف از نازل AquaSpin جلوگیری می کند.

- هنگام حرکت دادن دستگاه، توصیه می شود بازوی خود را باز کنید تا تنش غیرضروری روی ماهیچه ها کاهش یابد. در این موقعیت بهترین کنترل را بر روی دستگاه هنگام تمیز کردن دارید و راحت ترین حالت را خواهید داشت.

i توجه: هنگامی که از حالت جذب آب ⑧ استفاده می کنید، دیگر آبی از دستگاه خارج نمی شود و قدرت مکش افزایش می یابد. پس از 45 ثانیه، اگر هیچ اقدامی انجام ندهید، دستگاه به طور خودکار به حالت مرطوب معمولی باز می گردد.

i توجه: لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است مقدار کمی باقیمانده آب تمیز در داخل نازل و مخازن وجود داشته باشد. این نتیجه بررسی کیفیت کارخانه است. خاطر جمع باشید، دستگاه کاملاً تمیز و برای استفاده بی خطر است.

محدودیت های استفاده

- تنظیمات جارو برقی و تمیزکاری برای جاروکنشی و تمیز کردن انواع کف های سخت به جز کف های چوبی بدون روکش مناسب است.
- تنظیمات جاروکنشی و تمیز کردن برای تمیز کردن منظم کف های سخت مناسب است. هنگام استفاده از این دستگاه، همیشه دستورالعمل های تمیز کردن کف سخت را دنبال کنید.
- اگر می خواهید یک کف شوی مایع به غیر از مایع کف شوی Philips XV1792 به آب موجود در مخزن آب تمیز اضافه کنید، مطمئن شوید که از یک کف شوی مایع کم کف یا بدون کف استفاده می کنید که می تواند در آب رقیق شود مانند مایع کف شوی XV1792 Philips.
- از آنجایی که ظرفیت مخزن آب تمیز 450 میلی لیتر است، فقط باید چند قطره (حداکثر 15 میلی لیتر) کف شوی مایع را به آب اضافه کنید.
- اگر از دستگاه جارو کردن و پاک کردن روی کف های منشم کف اتاق استفاده می کنید، این کار را فقط روی کف های منشم انجام دهید که به درستی چسبانده شده اند تا از کشیده شدن منشم کف اتاق به نازل AquaSpin جلوگیری شود.
- از دستگاه جارو کردن و پاک کردن برای تمیز کردن فرش ها استفاده نکنید.
- اگر وقتی که دستگاه را روی فرش یا موکت می کشید یا بلند می کنید، خاموش است، قطرات فاضلاب ممکن است روی فرش یا موکت شما بریزد.
- دستگاه را روی توری های کف بخاری های کنوکتور فشار ندهید. از آنجایی که دستگاه نمی تواند آبی را که از نازل خارج می شود، جمع کند، وقتی آن را روی توری حرکت می دهید، آب به ته چاله کنوکتور می رسد.
- در حین تمیز کردن، نازل AquaSpin را از روی زمین بلند نکنید و نازل AquaSpin را به طرفین حرکت ندهید و چرخش های قوی انجام ندهید، زیرا این کار باعث می شود آثار آب باقی بماند. فقط دستگاه را به جلو و عقب حرکت دهید.

i توجه: مدت زمان کارکرد به سطح برق به کار رفته در زمان تمیز کردن بستگی دارد.


جارو کردن کف های نرم و سخت

استفاده از دستگاه فقط جارو کردن

1 برای جارو کردن کف های نرم یا سخت، نیروگاه را در موقعیت دستگیره بلغزانید (صدای کلیک کردن می شنوید!).




2 لوله را به دستگیره وصل کنید («صدای کلیک کردن می شنوید»).




3 انتهای دیگر لوله را داخل نازل LED قرار دهید (صدای کلیک کردن می شنوید).


⚠ احتیاط: قبل از شروع به تمیز کردن، مطمئن شوید که محفظه فیلتر در سطل خاکروبه قرار داده شده است.




4 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید.

i حالت مکش معمولی برای زمانی که دستگاه فقط جاروبرقی یا دستگیره فقط جاروبرقی روشن است، یک تنظیمات پیش فرض می باشد.





5 از دکمه توربو (T) برای تغییر به تنظیم قدرت مکش بالاتر استفاده کنید.



6 دکمه توربو (T) را مجددا فشار دهید تا به تنظیمات برق عادی برگردید.



نکته: LEDهای موجود در نازل LED، دیدن کثیفی روی کف اتاق را آسان تر می کند. لوله و نازل LED به شما امکان می دهد بدون نیاز به چرخاندن دستگاه به زیر مبلمان کم ارتفاع برسید.


هشدار: هرگز جاروبرقی را روی آب یا مایعات دیگر نگیرید.




احتیاط: مستقیماً به LEDهای نازل LED نگاه نکنید و LEDها را به سمت چشمان دیگران نگیرید. چراغ های ای دی روشن است.

استفاده از لوله

لوله را می توانید به دسته وصل کنید و بدون نازل از آن برای جارو کشی فضاهای تنگ بین یا پشت قطعات مبلمان با انتهای لوله استفاده کنید.



نکته: همچنین امکان اتصال برس مینی توربو به لوله وجود دارد.



نکته: همچنین امکان اتصال ابزار شکاف بلند به لوله وجود دارد.



نکته: همچنین امکان افزودن ابزار ترکیبی به لوله وجود دارد.



استفاده از دستگیره

بدون نازل و لوله، می‌توانید از دسته برای تمیز کردن تکه‌های کوچک گردو خاک و کثیفی، مانند خرده‌های سوخاری ریخته‌شده، یا جارو برقی راه‌پله‌ها و قفسه‌ها استفاده کنید.


⚠ هشدار: هرگز جاروبرقی را روی آب یا مایعات دیگر نگیرید.



استفاده از نازل LED

می‌توانید از نازل LED برای تمیز کردن نواحی مانند پله‌های راه‌پله، برای جارو کشیدن خاک در گوشه‌ها یا لبه‌های باریک یا تمیز کردن تکه‌های کوچک کثیفی مانند خرده‌های سوخاری ریخته‌شده استفاده کنید.


1 برای اتصال نازل LED، لوله یا دسته را داخل نازل قرار دهید.



2 برای جدا کردن نازل LED، دکمه آزاد کردن (1) را فشار دهید و لوله یا دسته را از نازل (2) بیرون بکشید.


⚠ هشدار: هرگز جاروبرقی را روی آب یا مایعات دیگر نگیرید.

i توجه: همچنین امکان افزودن ابزار ترکیبی به لوله وجود دارد.




استفاده از برس Mini Turbo


1 برای اتصال برس مینی توربو، لوله دسته را داخل برس مینی توربو قرار دهید.




- 2 می توانید از برس مینی توربو برای تمیز کردن استاندارد استفاده کنید، به عنوان مثال نواحی نرم مانند تخت ها و کاناپه ها. می توانید میزان قدرت را مطابق نیازهای تمیز کردن خود تنظیم کنید.



- 3 می توانید از برس مینی توربو برای تمیز کردن کامل بیشتر، به عنوان مثال برای جارو کشیدن موهای حیوانات خانگی، یا برای تمیز کردن تکه های کوچک کثیفی، مانند خرده های سوخاری ریخته شده استفاده کنید. می توانید میزان قدرت را مطابق نیازهای تمیز کردن خود تنظیم کنید.



- 4 برای جدا کردن برس مینی توربو، دکمه آزاد کردن (1) را فشار دهید و دسته را از برس مینی توربو (2) بیرون بکشید.




⚠ هشدار: هرگز جاروبرقی را روی آب یا مایعات دیگر نگیرید.




استفاده از ابزار دراز مخصوص شکاف و درز ها

- 1 برای اتصال ابزار دراز شکاف و درز ها، لوله یا دستگیره را داخل آن قرار دهید.





2 می توانید از ابزار شکاف بلند برای تمیز کردن گوشه های باریک یا مکان های کم-دسترسی تر استفاده کنید. می توانید تنظیم قدرت را مطابق نیازهای تمیز کردن خود تنظیم کنید.



3 برای جدا کردن ابزار دراز مخصوص شکاف و درز ها، دکمه آزاد کردن (1) را فشار دهید و لوله یا دستگیره را از آن (2) بیرون بکشید.




هشدار: آب یا سایر مایعات را جارو نکنید.

استفاده از ابزار ترکیبی


1 برای اتصال ابزار ترکیبی، لوله یا دستگیره را در ابزار ترکیبی قرار دهید.



2 ابزار ترکیبی برای تمیز کردن قاب پنجره ها، پرده ها یا تارهای عنکبوت با برس قابل تنظیم و تنظیمات روشنایی طراحی شده است.



3 برای جدا کردن ابزار ترکیبی، دکمه آزاد کردن (1) را فشار دهید و لوله یا دستگیره را از ابزار ترکیبی (2) بیرون بکشید.





⚠ هشدار: آب یا سایر مایعات را جارو نکنید.

تمیز کردن دستگاه جارو برقی و زمین شوی

بعد از هر بار استفاده از دستگاه از عملکرد AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) استفاده کنید


برای جلوگیری از ایجاد بو و رسوب، بعد از هر بار استفاده از عملکرد AUTOCLEAN استفاده کنید. حالت AUTOCLEAN به شما کمک می‌کند تا دستگاه کامل خود را در حدود 4 دقیقه تمیز کنید.

1 دستگاه جارو برقی و جارو برقی را در جایگاه افر-کلین و نگهداری قرار دهید.




i توجه: اگر سطح آب کثیف‌تر از سطح AUTOCLEAN باشد، قبل از شروع برنامه AUTOCLEAN نیازی به خالی کردن مخزن نیست. می‌توانید مراحل زیر را رد کرده و به مرحله 6 بروید.


2 دکمه را فشار دهید تا قفل مخزن آب کثیف باز شود و آن را بردارید.




3 فیلتر مرطوب را از مخزن آب کثیف خارج کنید.




4 آب را از مخزن آب کثیف داخل سینک بریزید.




5 فیلتر مرطوب را دوباره روی مخزن آب کثیف قرار دهید.




6 مخزن خالی آب کثیف را دوباره داخل دستگاه قرار دهید و مخزن آب تمیز را خارج کنید.




7 درپوش را از مخزن آب تمیز بردارید.



8 مایع شوینده باقیمانده از مخزن آب تمیز را داخل سینک بریزید.




9 مخزن آب تمیز را با آب لوله کشی سرد یا ولرم حداقل تا علامت AUTOCLEAN پر کنید.




⚠ احتیاط: آب لوله کشی که در مخزن آب تمیز ریخته می‌شود نباید گرمتر از 50 درجه سانتیگراد باشد.


⚠ احتیاط: از مواد شوینده برای AUTOCLEAN استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به کف کردن بیش از حد شود.

10 مخزن آب را با درپوش مسدود سازی ببندید.



11 مخزن آب تمیز را دوباره داخل دستگاه قرار دهید.






12 دستگاه را شارژ کنید. دوشاخه برق را در پریز پشت دستگاه قرار دهید. سپس آداپتور را در پریز برق دیواری وارد کنید.

i توجه: برای شروع عملکرد AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) لازم است شارژر را وصل کنید.




13 برای شروع AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار)، دکمه تمیز کردن خودکار را فشار دهید. برای شروع عملکرد تمیز کردن خودکار لازم است شارژر را وصل کنید.




14 دستگاه چرخه AUTOCLEAN را انجام می‌دهد.

i توجه: چرخه Autoclean تقریباً طول می‌کشد. 4 دقیقه. برای بهترین نتیجه، اجازه دهید دستگاه به طور کامل چرخه AUTOCLEAN را طی کند. می‌توانید چرخه AUTOCLEAN را در هر زمانی متوقف یا لغو کنید.


i توجه: اگر برنامه AUTOCLEAN را لغو کنید، دستگاه آب باقیمانده در سینی افر-کلین را برای حدود 10 ثانیه می‌مکد.




15 پس از تکمیل AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار)، دکمه را فشار دهید تا قفل مخزن آب کثیف باز شود و آن را بردارید.



16 فیلتر مرطوب را از مخزن آب کثیف خارج کنید.




17 آب را از مخزن آب کثیف داخل سینک بریزید.



18 مخزن آب کثیف زیر شیر آب را تمیز کنید.




19 فیلتر مرطوب زیر شیر آب را تمیز کنید.




i توجه: قبل از نشستن واحد فیلتر مرطوب زیر شیر آب، فیلتر پلیسه دار را بردارید.

! هشدار: فیلتر پلیسه دار قابل نشستشو نیست. اگر نیاز به تمیز کردن آن دارید، به آرامی روی سطل خود ضربه بزنید تا هر گونه کثیفی که در آن گیر کرده است خارج شود.




20 اجازه دهید فیلتر مرطوب خشک شود.




21 فیلتر مرطوب را دوباره روی مخزن آب کثیف قرار دهید.


i توجه: مطمئن شوید که فیلتر پلیسه دار در جای خود قرار داده نشده است.



22 مخزن آب کثیف را دوباره داخل دستگاه قرار دهید.




23 برای برداشتن برس، اهرم را از کنار (1) بیرون بکشید و در خلاف جهت عقربه های ساعت (2) بچرخانید. برس را از نازل aquaspin بیرون بکشید (3)



24 برای خشک شدن برس، انتهای باز برس را روی نگهدارنده مشخص شده در ایستگاه پس از تمیز کردن و نگهداری قرار دهید.


i توجه: خشک کردن می تواند تقریباً 24 ساعت طول بکشد.




تمیز کردن سینی پس از تمیز کردن

اگر سینی افتر-کلین کثیف شد، می توانید با دنبال کردن مراحل زیر آن را تمیز کنید.


- 1 سینی افتر-کلین را از جایگاه ذخیره سازی خارج کنید.



- 2 سینی افتر-کلین زیر شیر آب را بشویید و بگذارید خشک شود قبل از اینکه دوباره آن را در جایگاه ذخیره سازی قرار دهید.




- 3 مطمئن شوید که سینی افتر-کلین را همیشه در جایگاه ذخیره سازی قرار دهید. سینی افتر-کلین برای انجام صحیح AUTOCLEAN ضروری است.





تمیز کردن نازل AquaSpin

- 1 برای برداشتن برس، اهرم را از کنار (1) بیرون بکشید و در خلاف جهت عقربه های ساعت (2) بچرخانید. برس را از نازل AquaSpin (3) بیرون بکشید.



- 2 می‌توانید با کشیدن برس میکروفیبر به سمت پایین با یک دست، موهای درهم پیچیده یا نخ‌های برس میکروفیبر را جدا کنید.






نکته: همچنین می‌توانید از یک قیچی برای کوتاه کردن موها و نخ‌هایی که در اطراف برس میکروفیبر پیچیده شده‌اند استفاده کنید.


رفع انسداد از بدنه اصلی

در صورت وجود انسداد در دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و مخزن آب کثیف را بردارید. سپس با حرکت دادن برس تمیز کننده به سمت بالا و پایین در کانال مکش بدنه اصلی، انسداد را برطرف کنید.



رفع انسداد از نازل AquaSpin

اگر در نازل AquaSpin انسداد وجود دارد، برس را از نازل خارج کنید. سپس برس تمیز کننده را در کانال مکش نازل AquaSpin به سمت بالا و پایین حرکت دهید.




تمیز کردن ست‌آپ صرفه‌جارو برقی



خالی کردن سطل خاکروبه

نگهداری سیستم مدیریت گرد و غبار




پس از هر بار استفاده یا زمانی که نشانگر گرد و غبار به سطح MAX رسید، سطل گرد و غبار را خالی کنید.



1 دستگاه را خاموش کنید.




2 دستگاه را مانند تصویر در زاویه 45 درجه نگه دارید. سطل خاکروبه را با فشار دادن دکمه رهاسازی جدا کنید. دکمه رهاسازی در پایین سطل قرار دارد.




i توجه: سطل خاکروبه را در حالی که دستگاه را در وضعیت عمودی نگه داشته اید بردارید.


3 دستگیره سیاه رنگ را نگه دارید. سیکلون را با بلند کردن آن از سطل گرد و غبار جدا کنید




4 گرد و غبار جمع آوری شده در سطل گرد و غبار را در سطل زباله خالی کنید.




5 خاکروبه باقیمانده سیکلون را با ضربه زدن به آرامی روی سطل زباله پاک کنید.



6 سیکلون را دوباره در سطل گرد و غبار قرار دهید. مطمئن شوید که دو قسمت در یک راستا قرار دارند.



7 سطل مونتاژ شده را سر جایش برگردانید. ابتدا قسمت فیلتر سطل را قبل از اینکه آن را در جای خود قرار دهید تراز کنید.




تعمیر و نگهداری دوره ای به صورت متناوب


نگهداری سیستم مدیریت گرد و غبار

فیلتر را حداقل هر ماه یکبار تمیز کنید.


1 فیلتر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از سطل خاکروبه خارج شود.



2 فیلتر فوم قابل شستشو را از پوشش پلاستیکی فیلتر جدا کنید.



3 روی محفظه فیلتر و فیلتر فوم روی سطل زباله ضربه بزنید







4 فیلتر فوم را بشویید و آن را فشار دهید تا آب تمیز خارج شود.

i توجه: برای بهترین نتیجه تمیز کردن، آب را با زبانه فیلتر رو به پایین از داخل فیلتر عبور دهید تا خاکروبه هایی که در اعماق چسبیده اند شسته شوند.


i توجه: اگر به طور مرتب از دستگاه استفاده می کنید، حداقل یک بار در ماه فیلتر را بشویید.



5 قبل از قرار دادن مجدد فیلتر فوم در محفظه فیلتر، فیلتر شسته شده را به مدت 24 ساعت در جایی بگذارید تا خشک شود.




6 برای نگهداری دقیق، سطل گرد و غبار و سیکلون را زیر یک شیر آب یا در آب گرم و صابون تمیز کنید.




7 سطل خاکروبه تمیز شده و قطعات مربوطه را خشک کنید.




⚠ احتیاط: قبل از اینکه دوباره آنها را سرهم کنید مطمئن شوید که تمام قطعات کاملاً خشک شده اند.




i توجه: تمام قسمت ها را نمی توان در ماشین ظرفشویی شست




8 فیلتر را دوباره در سطل گرد غبار قرار دهید. فیلتر را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا در جای خود ثابت شود.



9 سطل مونتاژ شده را سر جایش برگردانید. ابتدا قسمت فیلتر سطل را قبل از اینکه آن را در جای خود قرار دهید تراز کنید.




i توجه: پس از تعمیر و نگهداری، همیشه قبل از استفاده از فیلتر مطمئن شوید در دستگاه قرار داده شده است.




تعمیر و نگهداری نازل هوشمند PrecisionPower


1 همیشه قبل از تمیز کردن غلتک برس نازل، دستگاه را خاموش کنید.




2 برای دسترسی به غلتک برس، موقعیت دکمه را در کنار نازل پیدا کنید. آن را فشار دهید و بچرخانید تا باز نشود.




3 غلتک برس و درپوش کناری نازل را به آرامی بردارید.




4 موهای درهم تنیده را با دقت از غلتک برس جدا کنید. با یک قیچی به برطرف کردن آلودگی کمک کنید.



5 هنگام مونتاژ مجدد، از تراز مناسب غلتک برس اطمینان حاصل کنید.




6 غلتک برس نازل را با محکم کردن آن قفل کنید تا صدای "کلیک" را بشنوید.




تعمیر و نگهداری برس Mini Turbo


1 برس را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود. پس از باز شدن قفل، برس را بیرون بکشید.



2 کثیفی موجود در برس را با کمک قیچی یا با دست تمیز کنید.



3 برس را در موقعیت خود بلغزانید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در موقعیت قفل شود.



نمایش نمادها و معنی آنها

کدهای خطا

کد خطا

دلیل

راهکار

یک خطای سیستمی وجود دارد.



نماد قرمز یکدست به این معنی است که جاروبرقی Philips AquaTrio سری 7000 شما دارای خطای سیستمی است.

برای حل این مشکل، لطفاً یکی یا هر دو گزینه های زیر را امتحان کنید:

1. نیروگاه را از دستگاه خارج کنید و سپس نیروگاه را دوباره وارد کنید. سپس سعی کنید دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.

2. دستگاه را فقط جارو کردن را از لوله جدا کنید و دکمه روشن/خاموش روی دستگاه را فشار دهید. اگر همچنان نماد قرمز یکدست را می بینید، لطفاً با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.

اگر نماد قرمز یکدست را نمی بینید و دستگاه هنوز هم کار نمی کند، ممکن است مشکل ارتباطی با لوله یا نازل وجود داشته باشد. لطفاً با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.

دما بسیار پایین است.



چشمک زدن باتری و نمادهای خطا قرمز با هم به این معنی است که دمای محیط یا بسیار پایین یا بسیار گرم است اطمینان حاصل کنید که دمای اتاقی که دستگاه در آن استفاده، نگهداری یا شارژ می شود، بالاتر از 5 درجه سانتی گراد باشد.

دما بسیار بالاست.



چشمک زدن باتری و نمادهای خطا قرمز با هم به این معنی است که دمای محیط یا بسیار پایین یا بسیار گرم است اطمینان حاصل کنید که دمای اتاقی که دستگاه در آن استفاده، نگهداری یا شارژ می شود، کمتر از 35 درجه سانتیگراد باشد. دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای بالا (نزدیک اجاق گاز داغ، اجاق های مایکروویو، یا روی اجاق های القایی) قرار ندهید. در صورت داغ شدن بیش از حد، ممکن است باتری ها منفجر شوند.

نماد قرمز چشمک زن به این معنی است که منافذ ورودی هوا مسدود شده است. منافذ ورودی هوا مسدود شده اند.



منافذ ورودی هوا را از نظر انسداد بررسی کنید و آنها را بردارید. اگر با این کار مشکل حل نشد، کل مسیر هوا را برای یافتن علت انسداد بررسی کنید و آنها را برطرف کنید. این به نازل، لوله، فیلتر مرطوب در دستگاه جارو کردن و پاک کردن اشاره دارد. در دستگاه فقط جاروبرقی، این به نازل، لوله، سطل خاکروبه و فیلتر فوم اشاره دارد.

کد خطا

دلیل

راهکار

مخزن آب کثیف پر است.



مخزن آب کثیف را باز کنید و آن را بردارید. فیلتر مرطوب را از مخزن آب کثیف خارج کرده و کنار بگذارید. آب را از مخزن آب کثیف به داخل سینک بریزید.

نازل AquaSpin گیر کرده است. اگر چیزی در نازل گیر کرده باشد (به عنوان مثال، کابل برق یا اسباب بازی) این یک قطع ایمنی است.



برس ها، بلپرینگ ها، قطعات موتور و کلاهدک ها را از نظر موانع دیگر بررسی کنید و آنها را بردارید. اگر هیچ مانعی وجود ندارد، خاموش و روشن کردن دستگاه ممکن است مشکل را حل کند.

برای استفاده از برق بکشید.

برای استفاده، دستگاه را از برق بکشید. در غیر این صورت روشن نمی شود. فقط در حین شارژ و تمیز کردن خودکار دستگاه را وصل کنید.

شارژر اشتباهی وصل شده است.



چشمک زدن نمادهای باتری و خطا با هم به رنگ کهربایی به این معنی است که خطایی در عمل شارژ کردن وجود دارد.

1. شارژر اشتباهی وصل شده است؛ فقط از آداپتور اصلی برای شارژ دستگاه استفاده کنید.

2. سوزن شارژ کننده به درستی/کاملاً وارد نشده است؛ سوزن شارژ کننده را بردارید و دوباره داخل دستگاه قرار دهید

3. نیروگاه به درستی قرار نگرفته است؛ نیروگاه را بردارید و دوباره وارد کنید تا زمانی که صدای واضح "کلیک" را بشنوید، و شارژر صحیحی را وصل کنید


کد خطا	دلیل	راهکار
	شارژر وصل نیست.	نماد تمیز کردن خودکار + نماد باتری سریع چشمک زن (سفید) برای اجرای برنامه تمیز کردن خودکار باید شارژر وصل شود. مطمئن شوید که دستگاه به درستی در ایستگاه پس از تمیز کردن و نخیره سازی قرار گرفته است. شارژر را وصل کنید.
	باتری شارژ کافی ندارد.	نماد تمیز کردن خودکار + نماد باتری سریع چشمک زن (قرمز) اگر شارژر متصل است و این نماد نشان داده می شود، به این معنی است که باتری برای اجرای برنامه تمیز کردن خودکار شارژ کافی ندارد. اگر شارژر متصل است، تا 30 دقیقه صبر کنید تا باتری شارژ شود. سپس دکمه تمیز کردن خودکار را فشار دهید تا برنامه شروع شود


تعویض

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.philips.com/parts-and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می توانید با مرکز خدمات مشتریان Philips در کشور خود نیز تماس بگیرید.


Replacement parts and type numbers:

فیلتر خشک XV1771/10





Cleaning brush XV1773/10



i توجه: فیلتر و برس میکرو فیبر را هر 6 ماه یکبار تعویض کنید تا از حداکثر کارایی اطمینان حاصل کنید.

عیب یابی

این بخش عمده ترین مشکلاتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

استفاده از ست آپ جارو برقی و زمین شوی

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
وقتی دکمه روشن/خاموش را فشار می دهید، دستگاه ⑤ کار نمی کند.	نیروگاه وصل نیست.	نیروگاه را به دستگاه جارو کردن و پاک کردن وصل کنید.
شارژر باتری تمام شده است.	شارژر باتری تمام شده است.	برای شارژ کردن باتری، دستگاه جارو کردن و پاک کردن را با شارژر (مشاهده 'شارژر دستگاه') وصل کنید.
شما دستگاه را از ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی خارج نکردید.	شما دستگاه را از ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی خارج نکردید.	قبل از روشن کردن دستگاه، دستگاه جارو کردن و پاک کردن را از ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی خارج کنید.
شما دکمه روشن/خاموش را ⑤ بیش از یک بار را فشار داده اید.	شما دکمه روشن/خاموش را ⑤ بیش از یک بار را فشار داده اید.	چند ثانیه صبر کنید و دکمه روشن/خاموش ⑤ را یک بار دیگر را فشار دهید. قبل از تلاش مجدد، چند ثانیه صبر کنید.
شما دستگاه جارو کردن و پاک کردن را به درستی به دستگاه وصل نکرده اید.	شما دستگاه جارو کردن و پاک کردن را به درستی به دستگاه وصل نکرده اید.	قسمت پایینی دستگاه را روی ایستگاه پس از تمیز کردن و ذخیره سازی قرار دهید. سپس دستگاه را به آن وصل کرده و محکم فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
	دستگاه گرفتگی دارد.	دستگاه را خاموش کنید و باتری یا دستگیره چارو کردن و پاک کردن را بردارید. سپس علت انسداد را پیدا کرده و رفع کنید. پس از آن، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید. اگر نمی توانید علت انسداد را شناسایی کنید، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. این ممکن است مشکل را پیشاپیش حل کند. منافذ ورودی هوا را از نظر انسداد بررسی کنید و آنها را تمیز کنید.
	برس میکروفیبر گیر کرده است.	برس میکروفیبر را بیرون آورده و دوباره قرار دهید.
دستگاه از کار افتاد.	شما به طور تصادفی دکمه روشن/خاموشی ⑤ را با دست خود فشار داده اید.	با فشار دادن دکمه روشن/خاموشی، دستگاه را روشن کنید. ⑤
	ممکن است مخزن آب کثیف پر باشد. در این مورد، یک نماد اطلاعاتی در صفحه نمایش (مشاهده 'نمایش نمادها و معنی آنها') نشان داده شده است.	مخزن آب کثیف را خالی کنید.
کف اتاق کمتر از حد معمول مرطوب است.	سورخ های تخلیه آب مسدود شده است	برس میکروفیبر را بردارید، مقداری آب در مخزن آب تمیز پر کنید و دستگاه را روشن کنید. حرکات کوچک رو به جلو و عقب را در همان حالت حدود 15 ثانیه انجام دهید. شما باید بتوانید چهار نوار آب را روی زمین ببینید. اگر اینطور نیست، یا اگر یک یا چند نوار آب فقط از چند قطره تشکیل شده باشد، سورخ های تخلیه آب تا حدی یا به طور کامل مسدود می باشند. می توانید سعی کنید سورخ ها را با سوزن با دقت باز کنید.
یک طرف کف اتاق زیر نازل کمتر از طرف دیگر مرطوب است.	سورخ های تخلیه آب مسدود شده است.	برس میکروفیبر را بردارید، مقداری آب در مخزن آب تمیز پر کنید و دستگاه را روشن کنید. حرکات کوچک رو به جلو و عقب را در همان حالت حدود 15 ثانیه انجام دهید. شما باید بتوانید چهار نوار آب را روی زمین ببینید. اگر اینطور نیست، یا اگر یک یا چند نوار آب فقط از چند قطره تشکیل شده باشد، سورخ های تخلیه آب تا حدی یا به طور کامل مسدود می باشند. می توانید سعی کنید سورخ ها را با سوزن با دقت باز کنید.
آبی روی کف اتاق نیست.	مخزن آب تمیز خالی است.	مخزن آب تمیز را دوباره پر کنید.
		اگر موارد بالا را بررسی کرده اید و هنوز آب روی کف اتاق وجود ندارد، دستگاه را به مرکز خدمات Philips ببرید یا با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.
آب روی کف اتاق یا سینی پس از تمیز کردن بیشتر از حد معمول است.	کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin آلوده یا مسدود شده است.	از برس تمیزکننده استفاده کنید و کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin را تمیز کنید.
	مخزن آب کثیف به درستی قرار نگرفته است.	مخزن آب کثیف را به درستی داخل دستگاه قرار دهید. زمانی که بتوانید صدای "کلیک" را بشنوید به درستی بسته می شود.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
دستگاه آثار آب روی کف اتاق بر جای می گذارد.	شما دستگاه را به پهلو حرکت داده اید.	برای جلوگیری از رد شدن آب روی کف اتاق، سعی کنید با AquaTriol سری 7000 چرخش های کمتری انجام دهید و از حرکت دادن دستگاه به طرفین خودداری کنید. می توانید حالت جذب آب را (⊗) با فشار دادن دکمه حالت تمیز کردن فعال کنید. تمام آب باقیمانده در کف اتاق شما جذب خواهد شد.
	شما چرخش های قوی با دستگاه انجام دادید.	برای جلوگیری از رد شدن آب روی کف اتاق، سعی کنید با AquaTriol سری 7000 چرخش های کمتری انجام دهید و از حرکت دادن دستگاه به طرفین خودداری کنید. می توانید حالت جذب آب را (⊗) با فشار دادن دکمه حالت تمیز کردن فعال کنید. تمام آب باقیمانده در کف اتاق شما جذب خواهد شد.
شما دستگاه را از روی ورودی، فرش یا پله ها بلند کرده اید.		اطمینان حاصل کنید که برس میکروفیبر با کف اتاق در تماس است. قبل از اینکه دستگاه را از روی ورودی (⊗) فرش یا پله ها بلند کنید، مطمئن شوید که حالت جذب آب روشن است تا از رد آب روی زمین جلوگیری شود یا از پاشیدن آب از نازل AquaSpin جلوگیری شود.
شما بلافاصله پس از خاموش کردن دستگاه، آن را از روی زمین بلند کردید.		حالت جذب آب را برای جذب آب (⊗) باقیمانده روشن کنید. قبل از خاموش کردن دستگاه، چند بار در حالی که حالت جذب آب فعال (⊗) است، آن را به جلو و عقب حرکت دهید. اگر دستگاه را خاموش کنید و بلافاصله بعد از آن بلند کنید، آبی که بین برس ها وجود دارد، اثری از آب روی کف اتاق باقی می گذارد.
چرخ ها مسدود شده اند.		وضعیت چرخ ها را بررسی کنید. کثافتاتی که چرخ ها را مسدود می کند را پاک کنید.
دستگاه به خوبی قبل تمیز نمی کند.	مخزن آب تمیز خالی است.	مخزن آب تمیز را دوباره پر کنید.
سورخ های تخلیه آب مسدود شده است.		برس میکروفیبر را بردارید، مخزن آب تمیز را با مقداری آب پر کنید و دستگاه را روشن کنید. حرکات کوچک رو به جلو و عقب را در همان حالت حدود 15 ثانیه انجام دهید. شما باید بتوانید چهار نوار آب را روی زمین ببینید. اگر اینطور نیست، یا اگر یک یا چند نوار آب فقط از چند قطره تشکیل شده باشد، سورخ های تخلیه آب تا حدی یا به طور کامل مسدود می باشند. می توانید سعی کنید سورخ ها را با سوزن با دقت باز کنید.
داخل نازل AquaSpin خیلی کثیف است.		قبل از بازگشت به تمیز کردن، برنامه AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) را اجرا کنید. اگر در لبه های نازل کثیفی انباشته شده است، آن را بردارید. مطمئن شوید که از عملکرد AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) بعد از هر بار استفاده، استفاده می کنید.
برس میکروفیبر موجود نیست.		برس میکروفیبر را در نازل AquaSpin قرار دهید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
		اگر موارد بالا را بررسی کرده اید و دستگاه هنوز به خوبی تمیز نمی شود، آن را به مرکز خدمات Philips ببرید یا با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.
نرات بزرگتر کثافات دیگر مکیده نمی شوند و دوباره روی زمین می افتند.	کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin آلوده یا مسدود شده است.	از برس تمیزکننده استفاده کنید و کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin را تمیز کنید.
کف با نوار خشک می شود.	ممکن است بیش از حد از مواد شوینده استفاده کرده باشید.	مطمئن شوید که از مقدار مناسب مواد شوینده استفاده کنید.
	چرخ ها کثیف هستند.	کثافات را از روی چرخ ها پاک کنید.
در حین تمیز کردن و همچنین در حین AUTOCLEAN (تمیز کردن خودکار) کف بسیار زیادی وجود دارد.	ممکن است بیش از حد از مواد شوینده استفاده کرده باشید.	مطمئن شوید که از مقدار مناسب مواد شوینده استفاده کنید.
	هنوز بقایای مواد شوینده روی کف اتاق وجود دارد.	چندین بار کف اتاق را بدون مواد شوینده تمیز کنید. قبل از اینکه دوباره روی همان لکه بروید، یک لحظه صبر کنید.
تمیز کردن لکه ها دشوار است.	ممکن است برای تمیز کردن لکه خیلی کم از آب استفاده کرده باشید یا زمان خیلی کمی را صرف کرده باشید.	آب بیاننازید و کمی صبر کنید. به عنوان مثال می توانید با دستگاه روی لکه بروید تا آب بیاننازید و در پایان جلسه نظافت به همان لکه برگردید.
صدای دستگاه هنگام تمیز کردن تغییر کرد.	ممکن است موها یا موانع دیگری در اطراف برس میکرو فیبر در هم پیچیده باشند.	برس میکرو فیبر را بردارید و موانع را بررسی کنید و آنها را بردارید.
نمایشگر نشان می دهد که مخزن آب کثیف پر است و خاموش می شود، اگرچه مخزن آب کثیف هنوز پر نشده است.	ممکن است کف یا آلودگی در مخزن آب کثیف وجود داشته باشد.	دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید. اگر مشکل حل نشد، مخزن آب کثیف را تمیز کنید. اگر مشکل کف کردن است، مطمئن شوید که بیشتر از مقدار توصیه شده مواد شوینده استفاده نکنید.
پس از خاموش شدن دستگاه، آب از آن خارج می شود.	دستگاه مقداری آب بر روی کف اتاق باقی می گذارد، زیرا هنگام خاموش کردن آن، آن را حرکت نداده اید. این امر عادی است.	اگر دستگاه را هنگام خاموش کردن حرکت ندهید، می تواند یک چاله آب کوچک روی کف باقی بگذارد. می توانید با حرکت دادن دستگاه در حین خاموش کردن، اندازه آن چاله کوچک را کاهش دهید. وقتی دستگاه را خاموش می کنید، به مدت 6 ثانیه (6) به حالت جذب آب می رود تا آب باقی مانده در نازل تمیز شود. در صورت لزوم می توانید آخرین قطرات را با یک پارچه جمع کنید.
	وقتی دستگاه را روی کف اتاق حمل می کنید (آن را در هوا نگه می دارید) چکه می کنند.	هنگام تمیز کردن، نازل AquaSpin را از روی کف اتاق بلند نکنید، زیرا این کار باعث می شود آثار آب باقی بماند. فقط دستگاه را به جلو و عقب حرکت دهید.
	آب از مخزن آب تمیز نشست می کند زیرا مخزن آب تمیز را بیش از حد پر کرده اید.	مخزن آب تمیز را بیش از علامت MAX (حد اکثر) پر نکنید. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است هنگام بستن درپوش، آب از مخزن آب تمیز بریزد.
	در یکی از مخازن شکاف وجود دارد.	اگر یکی از مخازن آسیب دیده است، آن را به مرکز خدمات Philips ببرید یا با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
من نمی توانم برس میکرو فیبر را جدا کنم.	مو و/یا کثیفی در برس میکرو فیبر گیر کرده است.	با بیرون کشیدن اهرم قفل برس را باز کنید. اهرم را چند بار در هر دو جهت بچرخانید تا برس شل شود. برای برداشتن برس، در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اگر برداشتن برس دشوار است، می توانید آن را از زیر نازل AquaSpin نیز فشار دهید. موهای درهم تنیده یا کثیفی را از بین ببرید. اگر بیرون کشیدن برس ها دشوار است، می توانید آنها را از زیر نازل AquaSpin فشار دهید.
من نمی توانم دستگاه را به جلو یا عقب حرکت دهم.	ممکن است یک یا چند چرخ توسط یک جسم کوچک مسدود شده باشد.	با بیرون کشیدن اهرم قفل برس را باز کنید. اهرم را چند بار در هر دو جهت بچرخانید تا برس شل شود. برای برداشتن برس، در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اگر برداشتن برس دشوار است، می توانید آن را از زیر نازل اسپین اکوا نیز فشار دهید.
دستگاه نسبت به قبل قدرت مکشی کمتری دارد.	کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin آلوده یا مسدود شده است.	از برس تمیزکننده استفاده کنید و کانال آب مازول مرطوب و/یا نازل AquaSpin را تمیز کنید.
	توری در مخزن آب کثیف قبل از استفاده مجدد به اندازه کافی خشک نشده بود.	مخزن آب کثیف را تمیز و خشک کنید.
	درهم تنیدگی مو روی برس میکرو فیبر.	دستگاه را خاموش کنید و موها را از برس میکرو فیبر جدا کنید.
	مخزن آب کثیف به درستی قرار نگرفته است.	مخزن آب کثیف را به درستی داخل دستگاه قرار دهید. زمانی که بتوانید صدای "کلیک" را بشنوید به درستی بسته می شود.
برس میکرو فیبر دیگر نمی چرخد	برس میکرو فیبر با مو یا کثافات مسدود شده است.	برس میکرو فیبر را با یک قیچی یا با دست تمیز کنید.
برس میکرو فیبر بیرون می زند.	برس میکرو فیبر به درستی قفل نشده است.	برس میکرو فیبر را در موقعیت مناسب قرار دهید و آنها را قفل کنید.
دستگاه شارژ نمی شود.	دوشاخه برق به درستی به پریز وصل نشده است یا آداپتور به درستی به پریز دیواری وارد نشده است.	مطمئن شوید که دوشاخه برق به درستی به پریز وصل شده است و آداپتور به درستی در پریز دیواری قرار گرفته است.
	نیروگاه در جای خود قرار نگرفته است.	لطفا نیروگاه را در جایش قرار دهید.
	نیروگاه به درستی وارد نشده است.	لطفاً نیروگاه را تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید وارد کنید.
	آداپتور اشتباهی وصل شده است.	لطفاً از آداپتور اصلی استفاده کنید.
		اگر مورد فوق را بررسی کرده اید و دستگاه هنوز شارژ نمی شود، آن را به مرکز خدمات Philips ببرید یا با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
وقتی از جاروبرقی استفاده می کنم، بعضی مواقع احساس برق گرفتگی می کنم.	جاروبرقی در خود الکتریسیته ساکن جمع کرده است. هرچه رطوبت هوا کمتر باشد، میزان الکتریسیته جمع شده در دستگاه بیشتر است.	هنگام نگه داشتن دستگاه دقت کنید که پین فلزی را با دست لمس نکنید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
	شما گرد و خاک و آلودگی را جارو کردید. همچنین باعث برق‌گرفتگی می‌شود.	هنگام نگه داشتن دستگاه دقت کنید که پین فلزی را با دست لمس نکنید.
دستگاه بلافاصله خاموش نمی‌شود.	خاموش شدن با تاخیر فعال می‌شود.	پس از فشار دادن دکمه روشن/خاموش، دستگاه به مدت 6 ثانیه قبل از خاموش شدن کامل کار می‌کند. این امر عادی است. 6 ثانیه اضافی برای تمیز کردن آب باقی مانده در نازل و روی کف اتاق لازم است.

استفاده از ست آپ صرفه‌جارو برقی

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
وقتی دکمه روشن/خاموش را فشار می‌دهم، دستگاه ⑤ دکمه.	شما نیروگاه را وصل نکردید.	نیروگاه را به دستگاه فقط جارو کردن وصل کنید.
	شارژ باتری تمام شده است.	برای شارژ باتری، دستگاه فقط جاروبرقی را با شارژر (مشاهده 'شارژ دستگاه') وصل کنید.
	شما دکمه روشن/خاموش را ⑤ بیش از یک بار فشار داده‌اید.	چند ثانیه صبر کنید و دکمه روشن/خاموش ⑤ را یک بار دیگر فشار دهید. قبل از تلاش مجدد، چند ثانیه صبر کنید.
	دستگاه گرفتگی دارد.	دستگاه را خاموش کنید و باتری یا نیروگاه را بردارید. سپس علت انسداد را پیدا کرده و از بین ببرید. پس از آن، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید. اگر نمی‌توانید علت انسداد را شناسایی کنید، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. این ممکن است مشکل را پیشاپیش حل کند.
	برس غلتکی گیر کرده است.	برس غلتکی را بیرون بیاورید و موهای اطراف برس و موتور را بردارید و آن را دوباره در جایش قرار دهید.
اتصال دستگاه به سطل خاکروبه امکان پذیر نیست.	محفظه فیلتر به صورت وارونه مونتاژ شده است.	محفظه فیلتر را معکوس کنید. دهانه گرد باید قابل مشاهده باشد.
	محفظه فیلتر به درستی بسته نشده است.	هنگام بستن محفظه فیلتر مطمئن شوید که صدای کلیک می‌شنوید. اگر بستن آن مشکل باشد، احتمالاً فیلتر فوم به صورت وارونه قرار می‌گیرد.
دستگاه از کار افتاد.	شما به طور تصادفی دکمه روشن/خاموش ⑤ را با دست خود فشار داده‌اید.	با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، دستگاه را روشن ⑤ روشن کنید.
	دستگاه گرفتگی دارد.	دستگاه را خاموش کنید و باتری یا نیروگاه را بردارید. سپس علت انسداد را پیدا کرده و از بین ببرید. پس از آن، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید. اگر نمی‌توانید علت انسداد را شناسایی کنید، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. این ممکن است مشکل را پیشاپیش حل کند.
صدای دستگاه هنگام تمیز کردن تغییر کرد.	ممکن است موها یا موانع دیگری در اطراف برس غلتکی در هم پیچیده باشند.	لطفاً موانع را بررسی کنید و آنها را بردارید.
	موانع سیکلون را مسدود می‌کنند.	سیکلون را برای وجود موانع بررسی کنید و آنها را بردارید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
دستگاه نسبت به قبل قدرت مکش کمتری دارد.	فیلتر و/یا سیکلون کثیف هستند.	سطل زباله پر شده است. فیلتر و پروانها تمیز کنید. مطمئن شوید که هر گونه مو و آلودگی را که در سیکلون گیر کرده است بردارید. می‌توانید برای تعمیر و نگه‌داری آسان سیکلون را بردارید. اگر از دستگاه به طور منظم استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که فیلتر را حداقل یک بار در ماه بشویید.
	چیزی سیکلون را مسدود کرده است.	بررسی کنید چیزی داخل سیکلون گیر نکرده باشد و در این صورت شئ مسدودکننده سیکلون را بردارید. مطمئن شوید که موها و کثیفی‌هایی که در سیکلون گیر کرده‌اند را پاک کرده‌اید.
	کانال مکش پشت برس غلتکی مسدود شده است.	برس غلتکی را بردارید و کانال مکش را برای وجود موانع بررسی کنید و آنها را بردارید.
	محفظه فیلتر را به درستی به سطل خاکروبه وصل نکرده‌اید یا سطل خاکروبه را به درستی به دستگاه وصل نکرده‌اید. در هر دو صورت، قدرت مکش کم خواهد شد.	مطمئن شوید که محفظه فیلتر را به سطل خاکروبه و سطل خاکروبه را به دستگاه به درستی وصل کرده‌اید.
	برس با مو یا آلودگی مسدود شده است.	دستگاه را خاموش کنید و برس غلتکی را با یک قیچی یا با دست تمیز کنید.
گرد و خاک از دستگاه خارج می‌شود.	فیلتر فوم در محفظه فیلتر وجود ندارد یا پوشش بالایی وجود ندارد.	مطمئن شوید که فیلتر داخل دستگاه باشد و به درستی مونتاژ شده باشد.
هنگام باز کردن سطل خاکروبه، خاکروبه خارج می‌شود.	این رفتار طبیعی به دلیل فشار کم است.	در صورت امکان، دستگاه را در بیرون باز کنید.
دستگاه موقع تمیز کردن فرش، روان روی زمین حرکت نمی‌کند.	قدرت مکش بسیار زیادی را انتخاب کرده‌اید.	با انتخاب تنظیمات 1 یا حرکت آهسته تر روی فرش، قدرت مکش را کاهش دهید.
غلتک برس دیگر نمی‌چرخد.	برس غلتکی با مو یا خاک مسدود شده است.	برس غلتکی را با یک قیچی یا با دست تمیز کنید.
	هنگامی که غلتک برس با مقاومت بیش از حد از سوی فرش دارای پرز بلند روبه‌رو می‌شود، ممکن است چرخش آن متوقف شود.	دستگاه را خاموش کرده و سپس دوباره آن را روشن کنید.
	بعد از تمیز کردن، برس غلتکی را به درستی در نازل نصب نکرده‌اید.	دستورالعمل‌های این کتابچه راهنمای کاربر را دنبال کنید تا برس غلتکی را داخل نازل به درستی قرار دهید. برس غلتکی را با وارد کردن اهرم قفل کننده در جای خود، در داخل نازل محکم کنید.
LED های نازل روشن نمی‌شوند.	نازل را به درستی به لوله یا دستگاه وصل نکرده‌اید.	نازل را به درستی به لوله یا دستگاه وصل کنید. اگر کمکی نکر، لطفاً آن را به مرکز خدمات Philips بپرسید یا با مرکز مراقبت از مصرف کننده تماس بگیرید.
دستگاه شارژ نمی‌شود.	دوشاخه به درستی به پریز وصل نشده است یا آداپتور به درستی به پریز دیواری	مطمئن شوید که دوشاخه به درستی به پریز وصل شده است و آداپتور به درستی در دیواری قرار گرفته است.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
	وارد نشده است.	
نیروگاه در جای خود قرار نگرفته است.	لطفاً نیروگاه را در جایش قرار دهید.	
نیروگاه به طور کامل وارد نشده است.	لطفاً نیروگاه را تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید وارد کنید.	
آداپتور اشتباهی وصل شده است.	لطفاً از آداپتور اصلی استفاده کنید.	
	اگر مورد فوق را بررسی کرده‌اید و دستگاه هنوز شارژ نمی‌شود، آن را به مرکز خدمات Philips ببرید یا با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.	
برس Mini Turbo به درستی کار نمی‌کند.	برس چرخشی مسدود شده است.	با یک قیچی موها را از برس بردارید.
در حین تمیز کردن، پارچه یا سطح زمین باعث مسدود شدن برس شده است.	برس میثی Turbo را با سطح تراز کنید و برس Turbo را روی سطوح نرم فشار ندهید.	
برس غلتکی به درستی داخل نازل قرار نگرفته است.	مطمئن شوید که برس غلتکی به درستی در نازل قرار داده شده است و هیچ شکافی بین قطعات وجود ندارد.	
وقتی از جاروبرقی استفاده می‌کنم، بعضی مواقع احساس برق گرفتگی می‌کنم.	جاروبرقی در خود الکتریسیته ساکن جمع کرده است. هرچه رطوبت هوا کمتر باشد، میزان الکتریسیته جمع شده در دستگاه بیشتر است.	هنگام نگه داشتن دستگاه دقت کنید که پین فلزی را با دست لمس نکنید.
شما گرد و خاک و آلودگی را جارو کردید. همچنین باعث برق گرفتگی می‌شود.	در حالی که دستگاه را در دست گرفته‌اید، مطمئن شوید که پین فلزی را با دست خود لمس نکنید.	

2024 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001019314 (10/2024)

